\$ \$ \$ \$ \$ A. المرتبع المراجع المنعة Cit مُولانا نواجه خداجش مكتاني بإفى وتهتم دارالعلوم الاسب لاميته طتان iai an is گهنشرگهر مسلتان، پاکستان. 4 4 \$ \$ 8

Ð. \$ \$ المرتبع فالعالية الفاقة ر صناول 0 پلایف مولانا نواجه خداسش ملتانی بنى وتمهتم وزرالعلوم الاسب لاميته ملتان كانت تر نعا كين كَفِنتْ كَهْد مُسَلِّتَانَ ، بِاكْسَتَان \$

المكاف وتصول الملاكة الماليكريل بنستي للملاقظ لتحقي يسرأ فسام بهم، من حزب ويصر بر بشتن أفسام بكلاً فجز بثلاث مزينيه رَبَّا ى بَحَرُد رُبَا ى مَرْدِنِهِ، نَمَاشٍ كُجَرَد، نَحَاتَ مَرْدِنْهِ مِحَاتَ مَرْدِنْهِ مِنْ مَنْ مَرْ مِن مِصْبِتَ الْقُسام، صَحْح، مَعْدِرْ، مَثَالَ بِاجْدَتْ، مَا تَصْقُ، مُنِيَتْ، الدِمْصَاتَحْتُ مُ أمتاب عكن: جامناها بي المتخوف ملى ود ب ،جوفار بين ، لام م عكى ك مْقَابَكُس بو-اوربوان من تسكمي كم مُعَابَكُم نه بور أس كوزا مريحة مِن -کیتے ہیں۔ اِن کی تعریف صفہ سوم میں آئیں گی۔ حروف فمنى سمداعتها ويسطر دانون دالي تمام أنعال وأسمار ديقتم رويدا أكمانى صحح است ومثال است وتمضاغف تُلاتى - أُس كوكت من جن ين موف الملى مون بعيد نصر ، مر بدك -رُياعى: أن كويجة يرج بس بي جارحرف ، قبل مول - مصبح كغيرً > بتعقيرً -لفيف وناقص ومهموز وأجوف بمرتطل احدر باعي من مسر برايك كادوسي بن (١) فجرّد --- ١٧) مزيد فيه -بمحرد - أسكو كمقص جس كم ماضى سم عبدند واحد فد كوغات مي تمام حووف المسلى ہوں ،اورکولک من الزَّرندہو جیسے نصرَ، ڈاچر؟ - بَعْشَرَ، تُمَبَعَتْوَلُح مصادر إبواب صجخيرات نضر نفاب مر مارفید : _ اُس کوکت چی جراکی اضی سے صیغة واحد زکرغائب بی کولی س الدى بو بسي إختتب، تختيب متد الدخريج، متد محتريج. تعنى 12 منی إس اعتبارسي تمام أفعال وأسماركر دانوں وليے جاذبتم پر جوبے -اَلنَّصْ الا الإخلقاذ الحرب كادديزا مدوكونا بْلَالِي بَحِرِّد ---- ثَلَانَي مزيد فيه --- رُباع بُحِرَّد --- رُباعي مزيد فيه الضَّرُبُ مكسب بونا اس الاظفر بارنا نْلَالْ جَرْد: كمسور ي اب ب. نقل يَعْدُل بد حريت مرين مرا يَعْلَ بَعْدَ اَلسَّنْعُ اَلْفَسْتَحُ ٥١ الإناقُلُ بمعارى زبونا مشغنا بْعِيضَ بَ يَشْرِبُ . قَولَ يَنْعَلُ ، عِبِ تَبِعَ بَهْمَعُ . فَعَلَ يَغْعَلُ ، عِينَةُ بَنَعْ . محوننا اا الاڪرامر عزة كرنا نُقُلْ يَفْعُلُ، حِيَكَرَمَ يَكْرُعُو فَتْلَ يَفْعِلُ، بَبِي حَسِبَ يَحْسِبَ يَحْسِبُ - بِطِين إبن ِ الْكَرْمُ مشريف بونا ١٤ أكتتصريف يميرنا يس مُعَادِ م محمين كلمه كى توكر ، اصى محمين كليه ك توكر مح محالف ب - إسى ب بابم قِنال كونا م المقاتكة کمیان کرنا ألخشك الآمن بابول كوأصول كجنة جرب ، ادر آخرى من بابول بمد مُضارع ت عين كلُّه كما تَرْكَرْ، بربيز كالما التقبشل الاختناب قبول كرنا بانسي تح يمن كوك حركة مح وافق ب- إس ي ان من بابول كوفروع عف م -مدديابنا ٢٠ أكتَقابك أيس ريروبونا الأستنصار تْلَاتْي مَزِيدِ فِيهِ ، سِيمَتْ تُحَوِّدُه باب بِ - أن بِ سِي تَمَاب بِهِزَوْشِ إِدْرِ بِأَنَّ ه ألا نُعْطَامُ الآ التَخْرَحَةُ 议员 يتصننا يْكَ باب ب مردوم من باب إنتيال، بع إختياب باب التيفال. ا٢٠ ألتَدَخرج ألأحكنا مسمرخ بونا أالاخيرار بصرانية بتصامر باب الفيَّعَالَ بسب النعطام - باب المُعدَّان بسي المحرار الحت بياه برنا إسها الاخر بجامر بخمع بيونا اا ألاذهيتما مر إَجْرِافَعْنِيلالٌ: بِعَبْ إدْعِنَاهُ إِبِ الْعَيْنَالَ: مِنْ الْحَدِيدَانَ ابَ ست قردا بينام به ألاقية غرائه الالبرن يراشنا ١٢ أَلَاحُشْنُشَانُ إِفْعِوْالُجُ سِبِها جُلِكَاذٌ - بَبِ إِنَّقَلْنُ سِبِ إِظْهَرْ بِبِ إِنَّاعُلْ: بِبِ إِنَّاعُلْ إَبُ الْفُتْلَانَ، بَعِيم إِكْمَالَاً أَبَ بَكِ تَعْمِنْنَا، بَسِي تَشِرْ بَعْنَ . بَابِ مُفَاَعَلَهُ بَعِي مُعَاتِلَةٍ بِإِبِ تَفْغُلُ، بِ تَعْتَبُلُ. إبِ تَعْامَلُ، بِي تَعَامُلُ . ابواب ملحقات تُلاتى مزجفيه كمَّق بَرْيًا عى دوَّسسْم برسب (ابْمُلُحَق بَرُباعى تُجَرَّد دُبِاعَى فَجْزَدٍ · كامرن ايك باب ب - يين باب نَعْلَكَتْ: مِبِهِ تَحْتَحَةً · (٢) مَنْحَق بَرُباعى مزديني - اقد سے مات باسب ج - (١) فعَلَكُتْ. رُباعی مزید فیبید استرین باب میں ایک باب بے بحرہ وَض این باب تَعْلَكُ مع تَكَبِحُوج - اوردوماب ، بابمزة رض من - من اب الفيندلاك : بعيد أخوا كم بصي جَلْبَتِنا : جادرينانا ٢٠) فَعُوَلَنا . بعي مَهُ وَلَدا ، مشلوارينانا . باب إلْعُولَالَ : جميه إنْشِعْ الله (٣) فَيْعَلَمُ بِعِيصَ صَبْطَ، ﴿ رُوَمَ رُزَمَ رُزَمُ الله عَيْدَلَةَ بِعِيمَ مُؤْتَعَةً عَمَةً مُعَتَى (٣) فَعُيدَلَةً بعض مَنْ فَعْتَ مُعَتَى (٣) فَعُيدَلَةً إِنَّ عَينَ مَنْ فَعَتَ مُعَتَى إِنَّ مَعْتَ مُعَتَى إِنَّ مَعْتَ مُعَتَى إِنَّ مُعْتَ مُعَتَى إِنَّ مُعْتَ مَعْتَ مُعْتَ مُعْتَقَتْ مُعْتَ مُعْتَعَةً مُعْتَ مُعْتَعَةً مُعْتَ مُعْتَعَةً مُعْتَ مُعْتَعَةً مُعْتَ مُعْتَعَةً مُعْتَ مُعْتَعَةً مُ مُعْتَعَمَ مُعَالًا مُعْتَعَانَ مَنْ مَعْتَ مَعْتَ مُعَامًا عُلَيْ مُعْتَعَةً مُ مُعْتَقَتَعَةً مُعَتَقًا مُعْتَ مُعَتَعَةً مُعَتَقَتَقًا مُعْتَعَتَ مُعَتَعَةً مُعَتَعَتَقَتَعَةً مُعَتَقَتَلًا مُعْتَعَتَقَتَقَتَ مُعَتَقَتَقَعَةً مُعَتَقَتَقَتَعَةً مُعَتَقَتَقًا مُعَتَقَتَعَةً مُعَتَقَتَقَتَقَتَنَا مُعَتَقَتَقَتَقَتَعَةً مُ مُعَتَقَتَعَةً مُعَتَقَتَ مُعَتَقَتَقًا مُعَتَقَتَقًا مُنَا مُعَتَقَتَقَتَقًا مُنَا مُعْتَقَتَقَتَعً مُعَتَقَتَقَتَقَتَعَتَقَتَعَتَقًا مُعَتَقَتَعَتَقَتَعَتَقَتَعَتَقًا مُعَتَقَتَقَتَقَتَعَةً مُعَتَقَتَقًا مُ مُعْ مُعَتَقَتَقًا مُعَتَقًا مُعَتَقَتَقَتَقَتَقًا مُعَتَقَتَقَتَقَتَقَتَعَةً مُعَتَقَتَعَةً مُعَتَقَتَقًا مُعَتَقًا مُعَتَقَتَقَتَقَتَعَةً مُعَتَقًا مُعَتَقَتَعَتَقًا مُعَتَقَتَقًا مُعَتَقَتَقَتَقًا مُعَتَقَتَعَتَقًا مُعَتَقَتَعَةً مُعَتَقًا مُعَتَقَتَقًا مُعَتَقَتَقًا مُعَتَقًا مُعَتَقَتَقًا مُعَتَقًا مُعَت مُعَت مُعَتَقَتَقَتَقَتَقَتَقَتَقَتَقَتَقَتَعَةًا مُعَتَقًا مُعَتَقًا مُعَتَقَتَعًا مُعَتَقَتَعَةً مُعَتَقًا مُعَت مُعْتَقَتَقَتَقَتَقَتَقًا مُعَتَقَتَقًا مُعَتَقَتَعَةًا مُعَتَقَتَقًا مُعَتَعَتَ مُعْتَعَتَقًا مُعَتَعَةًا مُعَتًا مُعُ مُعَي الدينى اسابم شتقة الاسدالية وتضييع سيرام برطوب كلاتي ورباعي إبواست ، كرتم الى معسوص است برماية لله تفعيل إنحاق ماسفية اردوست علمانعبيغه علا ملط يرملا خطرقواتكمه ١٢ مند دى يكرينك في مان الممتقم مى شود بعلوب مكل و رُباعى الكريوت المم ، توسى بم مى باستداد مدر ىكە يىتىتىمغەبىد (-

> بر مع بوت بتوں کو کاننا ، (0) فَذَعَلَنَهُ - مسيحة فَدْ تَجَرُب بَننا ىينى ب شيخ تشمع ا <u>الاست</u>تادُ تصاديجيريا (٢) فَتَنْتَلَكُ جِي قَلْنَتَهُ ثُون بِناء (٤) تَعْلَا ٢ - جِي قَلْسَا ٢ ، ثوبي بِناء (٢) فَتَعْتَ لَهُ عَنْتَ لَكَ مُون بِنِناء . ٱلإليكاس اكشر م بمرغلى برباعى مزيدتي من تستم يرب . يدنا ٢ ألْحَدْثُ العربي كرنا () مُلْحَق بَد تَعَمَلُ () مُلْحَق بَد إنْعِينَكُول (" مُتَحَق بَد إنْعِيلَان - اوّل ت آمر ۳ اکستکادی یجنست بوا ۳ اکسکادی گراری دیا ۵ اکسیفط یادی بكالنا الاستغراق باب ين . (١) تَعَمَّلُكُ . مِعْ بَعَلْبُ بَ ، بِادر بِنا ٢١) تَفَعُوُلُ . ٢ الإستينشار م نومش ہونا سب تَسَبُولٌ: مسلوار بينا - (٣) تَعْيَعُلُ بعي تَشَيْعُ مُنْ الجخش مياهنا ا الاستغفاد سَيْطُن بوا ٢٠) تَعَقَّ عُلٌ. مِب تَحَقَ رُبٌ : جُرَب بِهنا/ جاننا الاستخال بثوابحرنا (٥) تَعْمَنُلْ - سِي تَقَلْنُ : تُولى سِناء (٧) مَفْعَلْ - سِي مَعَمَكُ ا ، آلْجَعُلُ ه ألاشتغام مستعابنا بذجاننا مسكين بونا. (،) تَعْمَلُكَ . جميع تَعْفُرُكَ : جن بونا. (م) تَعْمَلُ ألاستقستاك منبوط يجرنا بى تْتَلْمَى: تُولى بِنا-الاشتيغران إيراكميرينا ر أَلَنَّ هَاتُ th رانغكال المقراد فيعجريه ا الأجرج تُلْحَنّ بَهُ إِنْجِينُكُال كَ وَوَبَاسٍ مِن -زخمي محرما الانفتلاب إرمتا تبدل بونا (1) إفْعِنْ لالْ بيس إفْعِنْ اللَّ : مسير وكردن كال كرمَك مَنك كر التعريف كرنا ۳! الْمَنْ مُح لمكملنا ۲ الانتيكراري چلن . ٢١) إفْيِنْ لَاغ بسب إسْدِنْعَاج : كَدَى برسونا . 1 الجحقة لانكاركونا ٣ أَلِإِنْقِطَاعُ ككتا مُلْحَن بَه الْعُيدَة ل كامرت أيك باب ب . الْعُوعُ لَالْ بعيم الْوَحْلَاة أروكنا الجف ا تولنا الم ألانصراف كاستشركونا به كوسشِشْ كرمّا - کھلنا ٥ الإنكيتيات رَ نَكْنَا ا أَلَا يُطْلَقُ يعلنا يرباب كزام يكزم منئ ، الإنقيستام ىئ بخنا بر مردر و العبر محر ٱلْبَصَارَةُ بينابونا اورحضاب إنعيلال ر ألغك الحروج الحروج ٢ القُرْبُ انزديك بونا فليدكونا بحكنا ا الاصغرام (رديونا ٢ الكين ف المسوس بوننا التخول داخل بونا **النغ**د (کور ہونا ۲ الاخطيران سبزبونا کمانا ٣ أَلْكَسُ ٱلظَّمَارَيْةُ يشينا القعزد یاک۔ ہونا **اَلِاسْ**بِوَډَادُ ٣ مسياه يونا ام القصر الدومرا الظلب د صوند نا المكاثرة زياده بونا ٥ المغيفاة المنسنا مصادميجترباب إفعينكال التشيق المحرافر بغيانا حرام بهونا پ*ھيزا* بىيمنا يثيب مهنا ٱلتَظَافَةُ ٢ أَنْضَرْ فَتُ آل**شگو**ک ا [الاخيية كار) مشررة بونا مات بونا بإفتِعَال ، العكوس أالعبتادة يوجنا ألام يباب موسكاتفدي تصادح يحيجونا ألإشم يتثلث الممند الوا انزدمك ببونا ألاقتراب الدراض فعَلَيْناً منا. براعدة قال تعدك فرجوا وايدم بالرام مؤرد ن بحض ي نبأنا ٢ ألاغتسال ةَلْ<u>سَبَ</u>ةٌ مَنا «منه مصادر محير بأب إفينيكال كماتا ٱلأكْتَكَكُ ٣ ی تعلی سے بعد تفتل او جائے ا ایس ی اس کامور وان می تعکی موجائے ا مند ألاخلينكات مرجازا الا يحدا نكنا الانتخاب ألاملينيكان إلى كاكمارى بوا ألاغتاد بمعروسه بحرنا

نترأ أيركما أنتبأ مىنى يە معتى معنى معدد زيتيا مىنى منعد أكوتغفرك فأزمغ لنعير ذبكما ء (المُتَادَكَةُ س الإخراج بُرَكة دمنا الإجربوات ا كمشير كالمصف مانا د آلان شاد العتب كمرة الشكرتياريرنا لأد دكمانا بتفعيان ٣ تصادر يحجر باب إفيتوال أتارنا ١ أَلَا نَزَالُ اليَّفِكُ مُ ميوه کھانا مصاور ميترباب تغغلل ا الأن اس ڈر^رانا الإلمخر وأطر أنكري كمصيلنا التعجير بعلدى كزنا التيبرقع برتع يبنا مصاديعه باب تفعدل ألاغلواط ا ونٹ کی گودن پر ا مُنكرتا الياس في و ٱلتَوَيْفَ فَ إِز رَيْنَ مِوْا ٱلتَّحَكُّ إفلاده باندمنا وغست دلانا التزغيث باست کرنا ٣ التبخير الزسمين ا التَّفَحَرُ ٢ ألتتعني مث مداب دينا مصاديجيرياب إنغشل سوحينا ۵ ٱكتَصَبَّقُ أَسَبَقَهُ مِن أتصحرنا ٦ ألتقريم 4 الإزم ل مصادحيجه بالفينلال ٱلتَحَقُّلُ ي أَلَتْهَكَيْنُ كغيل بننا ر شمکا در سنا ۷ ألاة تحص أنسبحت تبول مرنا ألاة مشكر بإدراد رصنا التغطيم يترة كرنا الابرنشاق الوش بونا يتفاعل ا التقريب الزديك الأنلكاح فراح مردنا التَّمَاقِبُ ا التَّكْنِيبُ مَصَادهِ مِحَرَباب رافَاعُل بحشلاما تصادير يحترباب افعلال التفائح اَلِادَاسُ لْحُ إِيامِينَا. لاحق مِزْمَا الافسطرات اسخت ناخش برنا مفأعلت مصادييجويا التتعارف إبم شنارا أيكزا ٣ ألاتشاب كالمتصربونا الاشفة والم) براكنده موا الإضفة طلال محشاء لاغرمونا أكتتخافث إبائم ارسرباتكرا ٣ ا المتحادكة ابتكبرينا الإحتالة أبري كمزا لتتتاسب إيمنه ۵ ٢ ٱلْمُطَالَبَتَرُ 126 تتنكسل *مین*ا مصادح يحدياب إفعال ч ٣ ألمعكافيكم ملاب رما التخاصيه المجكزارنا ٣ ٱلْمُجَالَسَتَةُ إِيسَ بِيْسَا ٱلادُهَاتُ الحمانا 2 14 ... مَصَادَرِيجَ بِابٍ فَعْلَكُه ٱلأَكْمَ الْمُؤْكِرُةُ الْمُواكِرُةُ ۵ ألْمُتَحَادَ عَنَّهُ فَرَسِبٍ دِينَا ا الْسْبَانِعَةُ ٱلْتَعْثَرَةُ أَتْمَا، بلافر إستسلام لأنا روكنا كتبهُ الحافظُ محمداً تُوسبُ الدِّبوقُ ثم الملنا فيُّ في محرم الحرام ستناسلة

- بناير کي ا -1 U1-مسبع أزباب وإقل دَحَلَ يَفْعُلُ جُوُل النَّصُوم ، مَدْكُرُن وف صغير على ثلاثي تحرو ی یہ بی کا میں ماضی میں عنین کا متفتوح اور صابع میں صفروم ہوتا ہے لينصرتَ لِينْصُرَتْ أَنْصَرَنْ أَنْصَرَنْ لِتَنْصُرُنْ لِيَعْصُرُنَ جَلَا مِعْهِدٍ ، لَا يَنْصُرُ نَّ لَا يَسْصَرُقُ ، لَا يَسْصُرُدِيَّ و بر رحمات دمر دم کر دمرد کر در در پیک رون کالنبی عنه کر تنصو که نسخه د تصريحت كمناصر لَا يَنْصُرُ فَ لَا يُنْصَدِنَ أَلْظُرُفَ: امْنُصَرَقْ ، لَا تَنْصُرُنْ لَا تَنْصَرُنُ د مند د مندمین والالة بنه و منصور منصران مناصر ومنه بخصر منصرة منصرة إن مناصر ومنبع من ومصادر ونصادان متاجبه ومنبعين أنعل التفخيل المذكرين انصراب المقتون أنعر والمن والمؤرثة مراجع المفري فصريان فصريام مرتز وتصريك -مت إثبات قعل ماصى معروف ، تصرَّ نَصَرًا خَصَرُوا فَصَرَتْ فَصَرَتْ أَحْدَدْ نَصَرُتَ أَحَدَثْ نَصَرَتَ فَصَرْتَ نْصَرْتُمْ نَصَرْبَ تَصَرُنُكَا نَصَرُبُنَ نَصَرَتْ خَسَرْنَا بِحِتْ إِبْمَات قَعل مَعْ مِجْوِل، تُعِرَيْعُهِذَ نوردانفيرت نعيرتانفيري نصرت نعيرتهانفيريكر تعيرت نفيريانغيرتن نعرت نفيريا عت نعى فعل ما عنى معروف : مما نصر ما نصر ما الم بحث نعى فعل ما عنى مجهول : مما نصر ما نصر الله بحث **اتبات تعليمضارع معروف ،** يتصوين متصولان يتصوف تنصوين من يتصر و تَنْصُرُانِ تَنْصُرُونَ تَنْصُرِيْنَ كَنْصُرُانِ تَنْصُرُنَ أَنْصُ تَنْصُرُ كَانَتُ مُعْمَر مُحَدًّا مُ تُنْصَر مورز المرجع ويعدد ميرين مران بنصرت منصر تنصران معرود معرين بنصران معرين معرين معرود مرجع مرجع م مروب فاللى فعل مُضاليع معروف؛ لاَيَنْصُرُ لاَيَنْصُرُونَ الله مجت لَعَى فعل مُضارع جهول؛ لَا مِنْصَر لَابُنصَرَانِ اللَّح**جَتْ لَغَى تَابَجِدَنَكُ**نُ وَ**رَحُالِمُسْتَقَبِلُ مُووفٍ ؛ لَنَ يَنْعُسُ**ولَنْ تَنْفُكُوا لَنْ يَنْقُصُووا لَنَ تَنْقَسَرَ مَصُوا لَنُ يَنْصُرُنَ لَنْ تَنْصُرُكُنْ تَنْصُرُا لَنْ تَنْصُرُوا كَنْ تَنْصُرُي كَنْ تَنْصُرُا لَنْ تَنْصُرُق لَنْ أَنْصَرُكُنْ تَنْصُرُ المجبول وكمن يتضرك فيضرا لناقح بنصروه محت لقى ناكيد بكن درفع والجموع المكسَّرةُ:نَصَرَةٌ،نُطَّ ادْ ْنْصَّرّْ ، نَصَرّْ ، نَصُرّْ ، نَصَرَ آ ءُ ، نَصُرَ انَّ ، نِصُرَ انَّ ، نِصَارٌ ، نَصُوُدٌ ، انَصَارٌ

بدركَ، في الله الله عنه من الله من الله من الله من الله عنه مردا له من من الله من من المردم. مصركَ تَنْصُرًا لَنْ يَنْصَرِنَ لَنْ تَنْصَرَكَ مَنْصَرَكَنْ مَنْصَرُ اللَّ سَصَرُوا لَنْ يَنْصَرُكُ لَنْ تَنْص برُكْنُ مُنْصَ*بُبُ* رْبَ لَنْ أَبْصَبَد _____ بجريب تقي تحذ سالز دقو د **دوو دا** د به دور ام مروف: لَدْ مَنْصَرْ لَهُ مُنْصَرْ E lie دور رَبَّ لَيُنْصُرًا بِي لَنُنْصُرِ فَ لَتَنْصُرُ لَهُ مُورًا ث لام ماكيد بانون ماكيد تقيله درتعام ستقيل بخ د ورکم صلحات تصرن لتنصران لينصرنان لتنصرت لنبصراغ لتنصر رَيَانَ لَادُ ن لام ناک لأنصرن ، ام حاصر بم ده اردور الالتصريبية النصر بعروت بانون تأكيدتقب امرحاصر جمول بانون تاكيد تقيله: المنتصري المنتقد آن ث امرغا*شب معرو*قة فون تأكيدتقله ولد ث ام عامَب تجهول ماتون ماكمد لقبله: بانلائمترقاذ يتوتق بحسب امرحاح مُرُبَى لِتُنْعَبَرَتَ لِتُنْعَبَراً وَلِيُنْعَرُوْاً قِ لِأَمْعَبَرَتَ لِلْنُعُ مَرَانٌ لِيُهُ ، بالون تاكيد عنيفر، أخصون أخصون أخصي مجنت امرحاص مجهول بالون تأكيد خفيف حروف مرن لِتنفَرِينَ بح**ت امرغاني معروف بالون مَاكِيد خَصِيفَه،** لِيَنْصَرُقُ لِينفُونَ لِتَنْقُبُونَ لِآنُصُرَتْ لِنَنْصُرَتْ بِحِتْ امْرْعَامُ مَجْهِول بِالْوْلَ مَاكْمِدْ خَيْفَر ولِيُنْصَرَتْ لِيُنْفَرُنْ

منعمرة لأنفر النفرية بحث بمى حاضر معروف : لَا مَنْصَوْ لَا مَنْصُو الا مَنْصُو الا مَنْصُو الا مَنْصُ لاتفتر لاتنصون بحث بمحاضر مجهول: لَاتَنْتُصَنُ لَاتَنْتُصُ الاَتُنْصَرُوا لاتَنْصَر في كَالانتُقْصَ لايتفرن بحت شي غامت معروف: لَايَتَصُ لَايَتُصُ لَايَتُصُ لَايَتَصُ وَالَا يَنْصُ لَا يَتَصُ لَا لَهُ لَدَينِفَتْرَةُ ذَلَا مُفُرُكَذِنَعْمُو بحث مَبْ**ي فَاسَ جَهِول**، لَا يُنْصَرُلَا يُنْصَرُوا لَا يُنْصَرُوا لَا تُنْصَبُ لا منصوالا منصورة لا المصري المعصولا منصر محت منى حاضر معروف بالون ماكير القيله ، التنفرين لِانَتْ الْمَانَةُ لَا تَنْصُرُتَ لَا تَنْصُرِتَ لَدَيْنَ صُرانِ لَا تَنْصُرُنَا فَ بَحَتْ بَهْ ما صَرْحِيول بالوان الي ڷقيلمولانت تربي لاتنصرات لاتنصرت لأتنصرت لاتنصر تكلات متكات لاتنصرات لاتنصر التنصري الت روف بانون تاكير لقيله: لا يَنْصُرُبَّ لا يَنْصُرُ آنَ لا يَنْصُرُبَ لَا يَنْعُمُونَ لَا تَنْصُرُبَ لا تَنْصُرُ لَدَا نَصْرِينَ لَا نَسْمَرُ تَ تَبِحِثْ مَهْمَى عَامَب مجهول بِالْوِنَ تَاكِيدَ تَقْتِل، لَا يُنْصَرَتَ لَا يُنْصَرًا تَا لَا يُنْصَرًا لَا تَنْصَرَبَ لَا يَنْصَرَانِ لَا يُنْصَرُبُانِ لَا يُنْصَرَبَ لَدَهُ مُصَرَبًة لَا يَنْصَرَبَ بَحِيثٍ بَنِي حاصر معروف بالون ماكر تخفيظ تَنْصُرُبْ لَا تَنْصُرُنْ لَا تَنْصُرِنْ بَحِتْ بَحِي حاصر محمول بالون تأكير فيفرد لا تَنْصَرُنْ لَا تُنْصَرُ م لا وجور المربع المربع المربع الموان الميكر تحقيف، لا ينفكون لا يَنصرون لا تَنصرت لا المفتر المنفر ال لَا يَنْصَرَنْ محضَبْق عامَب مجهول باكون تاكيد خفيف، لَدْ يُنْصَدَنْ لا يُنْصَرُنْ لا تَنْصَرَنْ لَذَا مُضْوَتْ كَنْنُقْتَرِنْ بحبت إِسْمُ قَاحِلْ: نَاصِرٌ نَاعِدُونَ نَاعِرُونَ نَاعِرَة مَا عَرَدَانِ نَاعِتَوَاتُ بحث إمم فعول، منصور منصوران منصورون منصورة منصورتان منصورات رف صغير فعل تُلاق مُجرّد حسيم ازباب ودم مَعَلَ يَفْعِلْ عُجُل الصّري ، مادا -علاكمة اس بآب كى يديب كراسي ماضى من عتن كلم مغتور الأخدار ع من محدور ، وما سب حَكَرَبَ يَعْبُونِ حَكَرٌيّا، فَهُوَ حَبَادِبِ وَحَضَرِبٌ يُصَبُّونِ حَزَيًّا، فَذَاكَ مَعْبُودَ - مَاحَتَرَبَ مُلْعَبُوبُ كَمْ يَصْبِيدِ كَمَرْبَيْسَرَبْ، لَا يَصْبِحِ كَالْعَصْمَ، كَنْ يَصْبُوبَ لَنْ يَصْرِبُ لَيَصْرِبُ لَيَصْرَبُ ا ليُصَرِّبُ الْأَمْرِمِنْ فِي الْمُصْرِبِ لِيُصَمَّرُبُ ، لِيَصْبِ لِيُصَرِبُ لِيُصَرِبُ ، إِصَرِبَ لِيُصَرِبُ ، لِيَصْرِبُ لِيصَرِبُ لِيصَرِبُ لَي جموع المكسَّرةُ: صَرَبَةٌ، صُوَّابٌ ، صُرَّبٌ ، صَرَبٌ ، صُوُبٌ ، صُوَبٌ ، صُوَبَانٌ ، صِرُبَانٌ ، صِرَابٌ، صُوُرُبٌ، أَحْتَرَابٌ، ٢٠ احد

إِصْرِبَ لِنصَبْرِبَ المِصْرِبَ لِيصَرِبَ لِيصَوْرِينَ وَاللَّهُ وَعَنُهُ لَاتَصْرِبِ لَاتُصْرِبَ الايصر لا يصرف لاتَصْرِينَ لَا تَضْرُبُنَ ، لَا يَعْبُرِينَ لَا يُعْبُوبَنَ ، لَا تَضْرِبُنُ لَا تَضْرُبُنُ ، لَا يَضُرِينَ لَا يُعْبُرُ بُنُ الْظَرِي يُرِبْعُ مَصْرِبَانِ مَضَادِبٌ وَمُصَيْرُكِ وَالْأَلَةُ مِنْدُمَ : مِصْرَبٌ مِصْرَبًانِ مَصَادِبُ وَمُصَيْرِ ب مفرمية مُحفريتان مضادِب ومُغيرُيبَة - مِضرَابٌ مِعْبَرَابَانِ مِطَادِيْبُ ومُعَيدُيْهُ مَاعَلُو المذكر منه: أصريب أصربان أصر مؤن أصاديم وأصيري والمؤمنة منه ، صرب صربان عربيان عربيات مرب ومروبی ضرب وضریبی صرف کے بر بحث إثبات فعل ماضى معروف: ضَرَبَ عَرَبَا عَرَبُوا عَرَبَتَ عَبَرَبَتَ عَبَرَبَتَ عَبَرَبَتَ عَبَرَبَتَ عَرَبَتَ صَرَحِتْمَرَ صَرَيْتِ حَمَرَ بْتَمَا حَمَرَيْتَنَ صَرَيْتِ حَسَرَيْبَا · مح**ن إِثْبَاتِ فَعل ماصَى حِمولَ**، غَرِبَ خَرْبَا صربوا المريبة متريبة المريبة مريبة مريبة المريبة موريبة مريبة مريبة مريبة مريبة مريبة بحث ففي قُعل ماصى معروف ، مَاصَرَبَ مَاصَرَبَ مَاصَرَبَ الله مُحَتَ تَعَى قُعل ماصى مجهول ، مَا صَرِبَ مَا صَرِبًا الت مت انت**بات بعل مُصار ج معروف :** بَعَثُوبُ يَصْبُوبُ يَعْتُرِبُوْنَ تَعَبَّرِيهِ تَعْتَرِبُانِ يَضُرِبُ نَعْتَرُ تَفَرِيَّانِ تَقْدِيُوْنَ تَعْبُرِيِهُيَ نَصْرِيَانِ تَعْبُرِيْنَ ٱمنُرِبِ نَعْبَرِ بَحِ**تْ ابْبَانِ فَعلَّ مُعْارَى مجبول ؛ يَغ**َبَرُكُ يُفَكِّطُنِ يُفْرَيَّانِ يُفْرَيُنَ مرع تصريان يُضَرِين تصريح تصريان تصريحون تعتريان مصريان تصريان المترج تضري محت لفى فحل محت ال روف: تديكينيد لايكن الت بحث لقى فعَلَّمُضارًا عَجول الأيصر بي الأيكن التي تعاري الذيك التي التي بحث لق **اكب دَبَكُنْ درفنا مُسْتَقبل محروف،** كَنْ يَتَقْرِبَ لَنْ يَتَقْرِبَ لَنْ يَتَقْبِدُوا لَنْ يَتَقْبُوبَ لَنْ تَقبي لَكْ يَعْبُرِ بْسَ ٞٮؘڝؖٛڔِيُو۠الَنُ تَصْبِرِبِ? لَنُ تَصْبُرَ بَالَنُ تَصْبِرُ **بَنَ لَنِ ٱصْبِبَ** لَنُ فَصْبِبَ بَحَثْ لَعُ آلك سَعَقِل مجرول: لَنْ يَضُرَبَ لَنْ يَضُرَ بَالَ يَصَرَّ بُوُا لَنْ تَضُرَبَ لَنْ تَصْرَ بَالَنْ يَضُوبُ لَنْ يَصُرَبُ مرد بالَنْ تُصْرَبُوا لَنْ تُفْتَرُبِي لَنْ تُفْتَرُبَا لَنْ تُعْرَبُنَ لَنْ أُصْرَبَ لَنْ يُصْرَبُ كُمْ مُحَر فعل مُسْتَقْبِل محروف: لَمُرْبَعَةُ بِبَالَمُ بَعَثْدِيَا لَمُوْبَعُ بِبُوْ الْمُرْتَعَثَوِ بِهُ لَهُ تَعْتَدِيا حَدْبَعَشُونِينَ لَمُرْتَعَنَّدِهِ لَهُ تُعْتَدِ بَ لَعْدِ تَصْبِرُبُوْ المُدْتَضَى بِي لَعُرْ تَصْبِرِ بَا لَمُرْ تَصْبِرِ بَنَ لَعُرًا صَبِيبُ لَعَرْ تَصْبِي بَ لمديقة من لمربيغ مناكم يصريحا المرتضوب لمرتضوعا لمريقتونين لمرتفة رب لغ تصبرا المرتضي وا لَوْ تَصَرِّبِي لَوْ نُصُرُيا لَمُ تَصُرِيْنَ لَوُ أُصُرَبُ لَوْ نُصْرَبُ لَوَ نُصْرَبُ بمحت لام ماكيد بالون ماكيد تقيل وقع - تقبل معروف: لَيَعْنُوبَنَّ لَيَظْرِيَانَ لَيَظْرِبُنَّ لَتَعْثِوبَنَّ لَتَعْبُو بَبَانَ لَيَعْنُو بُبَانَ لَتَعْزَبَ كَنَّغْرِ بَأَمَ لَتَخْبُرِينَ لَتَعْبُرِبِنَ لَنَصَرُ بَأَنِ لَنَصَرُ بَنَانِ لَاصَرِ بَنَ لَنَصُرِ بَنَ كَنَصُرِ بَنَ مَح**تْ لام مَاكِير بالون مَاكِير لَقِبا دِنْ**

مَعْقِبِل مجهول، كَمُعْرَبَةَ لَبُعْثُوبَ لَيُعْثُوبُ لَتُعْتُرُبَةَ لَتُعْتُرُ بَأَنِ لَيُعْتُرُ بَنَاكَ لَتَعْتُرُ بِنَالَةً لَتَعْتُرُ بَال رمينة كتصريبية لتضريبات لتصريبات لأطرب للطرينة لتطريبة بح**ت لام ماكيد الون تأكيد تخيف د**ر سْتَقْبِلِ معرَوْفٍ : لَيَصْوِبُنْ لَيَفَرُمِنْ لَتَفَثَّرِبَنْ لَتَفَوْبَنْ لَتَفَوْبَنْ لَتَفَثِّرِ بِنَ لَكُفُوبَ لَنَفُوْ ، تْ لام مَاكِيد بابُون مَاكِيد خصيف در على مُستقبل حجبول، لَيُصْرَبُنُ لَيصُرَبُنُ لَتَصْرَبُنُ لَتَصْرَبُنُ لَ ارب لاختربن كنفترين محسف امرحا *حتر معروف*ف المضوب إختير المشيري المصيري المشيري المشيري المشيري المشيري امر الشرج بول: لِنُصْرَب لِتُصْرَب إِلَيْ عَمُوَ بَإِلَيْ عَمُو مَوْ الْمَصْرَبِ لِيَصْرَبُ لِيَصْرَبُ بِحَتْ أَمْرُ عَامَ مرفف، إيبَصْيرِبُ لِيَنْعَبَرِ بَالِيَصْبِرِيْوَا لِتَصْبُرِبُ لِتَصْبُرُ بَالِيَتَصْرِبُ لِتَصْبُرِبْ بِم**تْ ا**مرْعَا مَ جهول: إيكتوب إيضربا ليصربوا إيصرب ليفترب المفري الميشرين الصرب لينفر بحث المرح **روت بالون باكيد تقبله ؛ ا**حْدِبَتَ إِخْرِبَاتَ اِخْرِبَتَ اِضُرِبِتَ اِضُرِبِتَ اِضُرِبَتَ اِضُرِبَاً **حاصر مجهول بانون تاكير تقيله:** لِتُصْرَبَينَ لِتُعْتَرَبُهَا لِنصَرَبُ لَتُصَرَّبُ لِتُصْرَبُنَا لِتُصْرَبُنَا لِ امرغات محروف بالون تاكيد تقيله وليعذر بتنا يعذر مجات ليبعثر من التعزير بتنا لتعذر مات ليعفر بناي لِاَعْنِرِبَنَى لِمُتَعْبِرَينَ مَحِتْ امرْعَاس**ِ جَبُول بِانُونَ مَكْبِرَتْقِيلِهِ:** لِيَعْثَرَبَنَ لِيصُورَ بَآتِ لِيعَنْدَوَ هِنَّ لِتَصَنَّوَ لِتُصْرَبَاتِ لِيُصُنُونُبْنَاتَ لِمُصْرِبَنَ لِنُصْرَبَنَ **مُحِتْ إمر حاصر معروف بالوْن مَاكِد مُتعيف،** اِصْرِبَنُ الْقُومُ إ حذرين بحت ا مرحاص مجمول بالون ماكيد تعنيفه ، لِتَعَنَّوَ بَنْ لِتَصُّرَ بِنْ لِتَصُرَّ مِنْ المُعَ معروف بالون ماكيد حفيضر، ليتفتر بن ليتعنو بن لتعنو بن لاتفر بن ليتفر بن بعث امرغا مب مجهوك بالون تاكيد خفي ظرد إلي فتربت إلي من بن التفترين الم من بن النفترين النفترين محت منى حاصر معروف، لا ت لاتفريا لاتفريغوالا تعذيبي كانتفريا لاتفريك تحت من *حاف من حكول الانتفار بالتفريخ* لا مفرَّدِيْ لَا يَصْرَبُ إِلَا تَصْرَبُ بَحِتَ بَنِي عَامَ مُ رَحِفٍ : لَا يَصْرِبُ لَا يَصْرِبُ لَا يَصْرِبُوا لَا نَصْرِب لاتَضَرِياً لَا يَصَرِبُ لَا ٱسْرِبُ لَا نَصْرِبُ مُحْت بَهَى عَامَتِ مجمول: لا يُصُرِبُ لَإِيصُرَ الا مِصْر لد مفتوكالا يفترين لأامرية لد نفتر بحث ترى حاصر معرف بانون تاكيد تقيله ، لا تفيرين كا َفَتَرِيَانِ لَتَفَيْرِ بِنَ لَا تَفَيْرِ بِنَ لَا تَضْرِبَانِ لَا تَضْرِبُنَانِ بَحَتَ مَنْ مَحْ مَ مَعْ مَعْ م لإتفَرْرِبَى لا يَصْرِبَا فِي لا تَعْمَدُ بَنَى لا يَقْدُونَ لا تَصْرَبُنَا فِي المَصْرِينَ الْعَصْرِ بالون قاكي لَقْبِلِم: لَايَفُوبَنَ لَايَفُرِبَنَ لَايَفُرِبَ لَايَفْرِينَ لَاتَفْرِبَنَ لَاتَفْرِبَانَ لَابَضْ بَنَابَ لَآ غانب مجرول بالون ماكيد تقييله: لَدَيْضُرَبَنَ لَدَيْعَنُونَانِ لَا يُعَبُّرَ بَنَ لَا تُصُرَبَنَ لَا تُصُرُبَانِ لَكَ لَدَّ أَصْرَبَتَ لَذَيْصَرَبَتَ مِحِتْ بَهِي عاصر معروف بالون ماكيد تعني ماد تصريب لَدتَصَرِين لَد تَصْرِين

بحث بنى حاصر جمول بالون ماكيد خفيف، كالتصوب لاتصوب لانصرين بحث نهى ا حروف بالون ماكيكر مفيض، لا يَعْتُرِبَنْ لَأَ يَعْتُرِبْنَ لَا يَعْتُرِبْنَ لا يَعْتَرِبَنَ لَا مَعْتِرِينَ لَا أ مجهولَ ب**الون تاكيد تقييضُر،** لا يُقْتُدُبَنُ لا يفتر مِنْ لا تفتر مَنْ لا المُتُدَبِّنُ لا تفتر بَنْ المقرر المُ ۻادِيجُ صَادِيجَانٍ مَنَادِمُوْفَ صَادِيمَة عَمَادِيَبَتَانِ صَادِيَاتٌ محت معمول: مَصْرَدَيْبَ مَصُرُدْيَانِ مَضْرِقِهُوْنَ مَضْرِوْبَهُ مُصْرِوْبَتَانِ مَصْرُوْبَلْتُ رف صغير معل تكلَّ مجرَّد مح إز بآب سوم فَعِلَ يَعْعَلُ - إيكن إلته مع برب بنا - علامة عى ماصى ليس عين كلم يحسور ا فشف است مي فتوت ، توابير. يَسْمَحُ سَمَعًا، فَعُوَّسَامِعُ رِوسُمِعَ كَيَسْمَعُ سَمِعًا فَنَاكَ إِذَ مَسْمُوعٍ ما سَمِعَ مَا شَيخ ، لَوَيَسْمَعُ من المرابعة المرابعة عن الأمرابية م مرابعة من الأيد يستع ألا يستع مالي يستع لن يُسْبَعُ ما يسته عن المستعن ، ليستعن المستعن ليستعن الأمرابية م ية وتشميح ، لينشيغ ليشبغ ، إسمعَنَّ لتسمعَنَّ ، ليَسْبَعَنَّ ليسمعُونَ بَ ب التسمين وليسمعن المسمعن والتبي عنه ، لا تسبيغ لا تسبيغ ، لا يسبه حُ ٤ لَا فَتَسْبَعُنَّ لَا فَشْبَعَتَ، لَا يَسْبَعُنَّ لا يُسْبَعَنَّ الا تَسْبَعَنْ لا تُسْبَعَن، لا يَسْمَعُن لايستنعن الأرف وشرم، مسمع مسمعان مساجع ومسيم كالالة وشه، وشهع ومستحان مساجع مُسَبَيْح وسُمَعَة مُسْبَعَة مُسْبَعَتَانِ مَسَاحِة وَمُسَبِيحِنَة مُسْبَاعٌ مِسْبَاعَانِ مَسَبَاحِيْعُ وَمُسَبِيحِيْهُ و انْعُلْ التَّفْضِيلُ الْمُذَكِّمُ مِنْ أَسَمَعَ ٱسْمُعَانِ ٱسْتَعَوْنَ أَسَامِعُ وَإِسَيْمِةٍ وَالْمُؤْسَمُ مُ مرجبان متعيات شمع قرشميني. بحث إثبات فعل المتى معروف ، تشَيعَ تَبَيمَا سَمِعُوا تَسْمِعَيْ شَمِعَا سَمِعْنَ سَمِعَتَ سَمِعْتَ سَمِعْتَ سَمِعْتُوُ سَمِعْتِ سَمِعْتُهُمَا سَمِعْتُنَّ سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَمِعْنَا ، محت الن**بات فعل ماضى مجهول ،** سَمِعَ سَمِع سميخوا سميمت سميعتنا سميغن سيغت سميغتها سمغنك سميني سينتها سمعتن شجعت شميغت ٱلْجُموعُ المُكسَّرَةُ:سَمَعَةُ ،سُمَّاعُ ،سُمَعٌ ،سَمَعٌ ،سُمْعٌ،مُسَمَعًاءُ ،سُمْعَانٌ، سِمُعَانٌ، سِمَاعٌ،سُعُوعُ، أَسْمَاعَ، ٢ MB Carm

كت نفى فعل ماصنى معروف ويماسيح ماتيما الى بحث نفى فعل ماصنى مجهول و ما سيجة ما يميماالغ بحت افرات فعل ممشارع معروف : يَشِمَعُ آن يَسْمَعُونَ تَشْمَعُ اللهُ يَسْبَعَنُ تَسْبَعُ تَسْبَعَانِ تَسْبَعُونَ تَسْبَعِنَىٰ تَسْتَعَانِ تَسْعَنُ ٱسْمَعُ نُسْبَعُ بِحَ**ضْ إِثْبَاتِ فَع**َ رعجهول، يُسْبَعُ يُسْبَعُانِ يُسْبَعُونَ شُبْعَ تُسْبَعَانِ يُسْبَعَنَ تُسْبَعُ تُسْبَعُ تُسْبَعُونَ ىكىئە **بىحت تىنى نىخ مەمھارغ مىحرەف :** كۈكىشىغ بۆ شتعان نيسمعن أشمر ت تعنى تعلي مُضاربة مجهول؛ لَدِيْسَهُ مُ لَدِيْسَهُ عَانِ الْحِ سِحَتْ لَعْنِي تَكْيِدُ عروف : لَنْ يَسْبَعُ لَنْ يَبْعَيْهُمُ آَلَ تَسْبَعُوْ إِلَىٰ تَسْبَعُ لَنُ تَسْبَعَا لَنُ يَجْعَمُ فَ لَن لَنْ تَسْبَعَالَنْ تَسْتَعَوُّا لَنْ تَسْتَعِيْ لَنْ تَسْبَعَا لَنْ تَسْتَعَنْ لَنْ أَسْبَعَ لَنْ ذَلْسَهُ بِحَ**تْ فَقْ** در فعلى مستقبل مجهول: لَنْ يَسْسَعَ لَنْ يَسْسَعَالَنُ يَسْتَعُوْ الْنُنْسَبَعَ لَنْ تُسْتَعَالَنُ يُسْتَعَنَّ إ كنْ نُسْبَعُوْا كَنْ تُسْبَرِي كَنْ تُسْبَعَا كَنْ تُسْبَعَانَ كَنْ أُسْمَعَ كَنْ نَسْبَعَ بَحَ**تْ لَقَ**ى ي مروف : لَمُ يَسْبَعُ لَوْ يُسْبَعَا لَمُ يَسْبَعُوْا لَدُ تَسْبَعُ لَوْ تَسْبَعُ الْمُ يَسْبَعُ كَدْ تَسْمَعُوا كَمْ تَسْمَدِي كَدْ تَسْمَعُا لَدْ تُسْمَعْنَ كَدْ أَسْمَ لَدْ نُسْمَة بح**تْ لَقَى تَحْدَ مُلْح** ول؛ لَمْرِيْسَهُمْ لَمُسْسَعَالَمُ بَيْسَهُ وَالْمُنْسَبَعْ لَهُ سُبْعَالَوْ يُسْمَعُنَ لَعُرْسَتَهِ ذا لَعْرْ نَسْمَعَى لَدِ تَسْمَعَا لَعُدْتُسْمَعْنَ لَعُرامَهُمَ لَحُنْسُهُ ب*حث لام تأكير بالون تأكير لقيل* ووف: ليَسْبَعَنَ لَيَسْبَعَانِ بَيَسْبَعُنَ لَتَسْبَعُنَ لَنَسْبَعَانَ لَيُسْبَعُنَانَ لَتَسْبَعُونَ مُسْمَعِنَ لَتَجْعَانِ لَسَسْخَنَانِ لَاسْمَعَنَ لَمُسْمَعَنَ لَمُسْمَعَنَ ث لام تأكيد بالون ماك ا و العام مستقبل مجهول: لَيُسْتَعَنَّ لَيُسْتَعَانَ لَيُسْتَعَنَّ لَيُسْتَعَنَّ لَيُسْتَعَنَّ لَيُسْتَعَنَّ لَيُ نَ لَتَسْسَعَانَ لَنُسْبَعْنَانِ لَاسْمَعْنَ لَنُسْمَعُنَ لَنُسْمَعُنَ بَحِتْ لام ب**اليدبانون الْج** ستقبل معروف ، ليستبعن ليسترين كتشبيعن لتسبيعن لتسبيعن لأ بألون كاليد فعيفه دفعل مستقبل مجهول وكمشتق كمشتعن كتستعن لتستعن لا مروح أحمير في الأسمن للسبين مجت امرحاض والمرجوف الشمة الشمعة الشمعة الشمين الشمعة إسْمَعْنُ بحت المرحاض مجهول، لِتُسْبَعَة لِنَسْتَمَعَا لِتَسْتَمَعُوْا لِتُسْتَمَعِيْ لِتُسْتَعَا لِتُسْتَعَنّ رم غائب معروف، إليَّشتة إليَّشتعَا لِيَسْتعَا لِلسَّنعَةُ التَّسْبَةُ لِتَسْتعَا لِيَسْتعْنَ لِاَسْتَمَ لِلسَّعَة ب مجهول: لِيُسْمَعْ لِيسْتَعَا لِيُسْتَعُوْ لِتُسْتَعُ لِتُسْتَعَا لِيُسْتَعْنَ لِأُسْمَعُ لِنُسْتَعُ تجت امر حاضر مو بالون تأكيد تغبب لمدد اسمعكن استمعات استعن استعين استعات استمنات بحث امرحا ضرمجهو

ل*كِيدُ فَعْلِم*، لِشَيْعَانَ لِسُبْمَانَ لِسُبْعَنَ لِسُبْعَنَ لِلسَبْمَةِ السَّبَيَةِ لِسُبَقَانَ بحن مرغا**ت معرون** بالون تاكيد فقيله وليسترتعن ليسترتعان ليسبر في ليسبر في التسبيعين التسبيعات ليستريغان لاستمعن ى يَعَتَّ **بحث امرْغاسَب م**جَهُول بالوَنْ مَاكِيدَ تِقْيِسِلْمُ المِسْتَعَقَّ لِيسْتَبَعَانَ لِيسْتَنَعْنَ لِيسْتَعَتَ لِتَسْتَعَانَ لِيسْتَعْنَانَ لِأُسْمَعَنَ لِنُسْتَعَنَّ بَحَتْ المرحاض مروف بالون ماكية حفيض، إ تعني المهجن بجنت إمرحا صرجهول بالون ماكيد مضيفه: ليستهكن ليشتهكن ليشتهجن ا يفرد لِيَسْتَمَعَنْ لِبُسْمَعُنْ لِتَسْتَعَنْ لِأَسْمَعَنْ لِنُسْبَعَنْ بَحْتُ مِعْاً ب حفيظ إليستنعن اليسبتين التشبيعين الأسمعَن النشبيعي . بحت بني حا م ر**وف،** لاتَسْمَعُ لَاتَسْمَعُا لَانْسَمْعُوْا لَاسْمَعُوْا لَاسْمَعُوْ لاَسْمَعُوا لاَتْسَمْعُونُ بِحض لاَتَسْمُ لأشمَّعَا لا تُسْمَعُوا لانتَسْمَى لاتْسَمَعَا لانسُمَعَن بحث بني عائم معروف، لَا يَسْمَعُ لَأَيْسَمَت تمهموا لاتسموم لا تَسْبُحا لا يُسْمَعْنَ لَا أَسْمَعْ لا نَسْمَعْ ب**حث نَبِي عَاسَبِ مِجهول**، لَا يُسْمَعُ لَا يُسْمَع تمتعوالانتشم لأشتمعا لائيتمن لأأسمة لأشمة بحت **نبى حاضرمروت بالون ماكيد تقني له** مُبَعَنَّ لَدِتَسَمُعَانِ لَدِتَسَمَعُنَّ لَدَ تَسْمَعِنَ لَا شَمْعَانِ لَدَشَمَعْنَاتِ **بحثَ مَنْي حاصر مجهول بالون الدر قديله ولانسترعتَ** لا تستمعان لانتشعتَ لا تستمعنَّ لا تستمعاً في لانتشتياً في تحت نبي م مروف بالون ماكيد تقبله ، لا يَسْمَعَنَ لا يَسْمَعَانَ لا يُسْمَعُنَ بَا تَسْمَعَنَ لا تَسْمَعَان ب دْنَانِ لَأَراسَمُعَنِ لَا بَسْمُعَنَ بِحَتْ بَنِي عَامَبَ مَجْهِول بِانون تَأْكِيدَ تَقْيِلُه، لَا يُسْمَعَنَ لَا يُسْمَعَان مَعَنَّ لَا تُسْمَعَنَ لَا نُسْمَعَاتِ لَا يُسْمَعُنَاتِ لَا أَسْمَعَنَ لَا نُسْمَعَنَ بَحِتْ بَهِي حاصر معروف بالون يتفيفه، لاتَّنهُمَعَنْ لاتَنْهُمُعُنْ لاتَنْهُمُعِنْ **بحثٌ بمحاضرتِ ول بانون مَايد خفيضر، لاتَنْصُ**عَب لا يتم يم أن لا ينهم عن مجمعت **مرسى عائب مروف بالونَ ما كيد خ**يفيفر : لَا بَيهُمَعَنْ لَا يُتَهْمَعُنْ يْمَعُنُ لَدَامَتْمَعَنْ لِدَنْتُمَعَنْ **بَحَرِثْ بَنِي عَارَبَ جَهِول بِانُون مَاكِيدَهُ عَنِهُ،** لَا يُتَهْمَعْنَ لَد مَيْ مَعْنَ لَا تَسْمَعُنُ لَا أَسْمَعَ الدِنْسَمَعُ فِي مَحْتِ الْسَمِ فَاعِل، سَامِعُ سَامِعُون سَامِعَة مُ سَامِحَتَانِ سَامِعَاتَ بحن كَسِبْمُ فَعُولُ ، مَسْمُوعُ مَصْمُوعَانِ مَسْمُوعُون مروعة مسموعكان مسموعات-يغ مركز في محرد في الرباب جهام مُعَلَ يفتر ، يُول ألف م محولاً.

علامته إس باب يي دنوجيزي بي اقرل بركير سي ماضي فرصال مي عبن كلم يفتوح بتوابع دوت رى يركم عيرت يا لام كلم من حف رحف لعى مروكات نَتَحَ يَعْتُمُ فَتْمَا، نَهُوَ فَانْجَ وَفَتَحَ يُغْتَمُ فَتْحًا، فَذَاكَ مَفْتُوحٌ - مَافَتَحَ مَافَتِحَ ، لَمُ يَفْتَحُ لَرْ يُفْتَحُ ، لَا يَفْتَحُ الديفَةَ مُ لَنْ يَفْتَحَ لَنْ يَفْتَحَ ، لَيفَتَحَتَّ لَيفْنَحَتَ ، لَيفْتَحَن لَيفْتَحَن الأمر اِنْتَ⁵ لِتُفْتَحْ ، لِيَفْتَحْ لِيُفْتَحْ ، اِنْتَحَتَّ لِتُفْتَحَتَّ ، لِيفْتَحَتَّ لِيفْتَحَتَّ ، أِف**تَحَنَّ لِيفْتَحَ** المفتحن والتهي عنه ، لد تفتة لا تفتح ، لا يفتح الأيفتة ما تفتحن لا تفتحن المنتحن ، لا يفتحن لَى مُفْتَحَنَّ، لَا تَفْتَحَنُ لَا تُفْتَحَنَ ، لَا يَفْتَحَنَ لَا يُفْتَحَنُ أَنَظَرُ فِي مِنْهُ ، مَفْتَحَ مف ومفيتية والالذريني وفتح وفتحان مفاتح ومفيتي وفنحه مفتحة مفتحتان مفاتح ومفيتو وفتاع مفتاحان مطاببهم ومفيني فح وأفعل التفخيل المذكر من ١٠ فنت كفت كمتحان أنت محود أفاج وَ ٩ فَيْجِرِ ٩ دَالْمُ مَنْ مَنْ مِنْهُمْ ، فَتَنْجَى فَتَحْتَيَانِ فَنْحَيَاتَ فَتُحَ وَفُتَحَ يَخ منی اسم ایس ایک کی صرف بمیزیمی ، ، اصن [،] مثل تصر در مضارع ، مثل تیست مح مد کل -ف صغيرتون لات مُجرَّد صحيح ازباب يتجب مد مَعْلَ يَفْعُلُ بَحُول الْكُرُمُ، بزركَ بونا علامة ب بی یہ بے کہ ایس کی ماضی اور مضارع میں عین کلم مضموم ہوتا ہے مَرَيَكُومُ كُومًا فَهُوَكُونِيمَ وكُدِمَ كَثَرَمًا ، فَذَالَتَ مَكُومُ مَاكُومُ مَاكُومُ لَعُرَيْكُمُ لَعُرَيكُم لاَيَكُومُ لَانْكُومُ لَنْ يَكُومُ لَنْ يَكُومُ لَنْ يَكُومَ لَيُكُومَنْ لَيُكُومَنْ لَيُكُومَنْ لَيُكُومُن الأمريمة، أُحضوم لِتُهَدُّمُ ولِيكُومُ لِيكُومُ ، أكُومَنَ لِتُكُرَمَنَ ، لِيكُومَنَ لِينُكُرُمَنَ ، المُحُومُ لِيكُومُ وليكُوم ى مُحْسَبُهُ لا لَكُومُ لَا يُكُومُ ، لَا يَكُومُ لَا يُكُومُ ، لَا تَكُومُنَ لَا تَكُرمُنَ ، لَا يَكُومُنَ لَا يُكُومُنَ ، لَا يَكُومُنَ ، لَا يَكُومُنَ لَا يَكُومَنْ، لَا يَكُومُنْ لاَ مُبُومُنْ أَنْظَرُ خُرُمُ مَنْعُ مَنْ مَكُومُ مُ مَكُومُ أَن مَكَادِمُ وَمُعَكَيْرِمُ أَنْكُ مُرْضَمُ ا مَكْرَمٌ مَكْوَمًا فِمُكَارِمُ وَمَكَيْرِمٌ - مِكْرَجَةٌ مُكْرَمَتُ فِي مَكَارِمُ وَمُكَبِّرِمَةً - مُكْرَامٌ مِكْرامًا ف مَكَارِ فَيَحْوَ مُلَكِرٍ نِيحٌ - وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُدُكَرُ مِنْهُ: أَحْدَمُ ٱلْرَبَانِ ٱلْمُعَوْنَ أكادِم وأَكْثِر مُ والمُؤْثِثُ بمنهم، مصر ملى كو تعميان كو تعميات كوم قرك يلى-معلى المجهوعُ المُكسَّرةُ: تُوَمَّاء، حرمَان، كِرُمَانٌ، كِرَامٌ، كَرُومٌ، كُرُمٌ، أَكُوامٌ، أَكُومَا ءُ، أكُو

فامل ، به بلب لازی ب - ادرالادی سے میغ مجول دمنعول مستعل نہیں یہاں ، اوراً مُده گرانوں پس مجهل دمغول ک صيف من مواكل خاطر تقرير من من المراب كا مرف مبرجي سابقد الواب يرقي مس كرك كرلى جريرًا -رف صغ فرص تُلاقى مُجَرّد مح از باب ششم وَمَولَ يَعْدِد ل مُحَول المحتين ، كُمّان كرنا -علامية إكس بآب كى يدييه عدار عنى الحرم خدارة من عين كلم محسور مواسب تحاسب وحسب محسب حسبكافاك مخشق سب، كم يخسب كم يحسب، لا يخسب لا يحسب، كَنْ يَحْسِب كَنْ تَحْسَب، لَكَ يَحْسِب كَنْ تَحْسَب، لَيَحْسِ ٢٠، كَبَرَحُسِبَنْ لَيْحُسَبَنْ أَلْأَمْرُمِنْهُ وإحْسِبَ لِتَحْسَبُ ، لِيَحْسِبُ لِيُحْسَبُ أَحْسِبَ مُسَاكَنَ ، لَمُحْسَبُينَ لَمُحْسَبُكَنَ ، إخسِبَنَ لِمُحْسَبَنَ لِيَحْسِبَنْ لِيُحْسَبَنْ وَالنَّبِي عَسَمُ ، لَا يَحْسِبُ لِنَحْسُبُ، لِأَيَحْسِبُ لَا يُحْسَبُ، **لَا تَحْسُبُ**نَ لَا تَحْسُبُنَ الَايَحْسِبُنَ لَا يُحْسَبُنَ لَا يَحْسُبُونُ لَا يَحْسُبُنُ ، لَا يَجْسِبُنُ لَا يُجْسَبُنُ ٱلْظَّرُونُ بُرُدُ: مَحْسِبُ مَحْسِبُان تُحَاسِبُ وَمُحَيَّسِيبُ وَالْالَةُ مِنْسَمُ ، مِحْسَبَةُ **مِحْسَبَةَ إِن مَحَاسِبُ وَتُحَيَّ**سِبُ - وَحَسَبَة ⁶حِشسَبَتَانِ تَحَاسِبُ ومحيد بربة المر وحساب محسبانا فتحاسيه ومعيديد وأفعل الغفيل الذكرين المسب احسب ٱحْسَبْبُوْنَ ٱسَاسِبِ فَإَحْيُسِيبَ وَالْمُرْتَشْ مِرْثُمَ، حُسَبُني حُسَبَيَانٍ حُسَبَيَاتٌ مُسَبَبٌ فأُحسَبُني تستجديده ، إس باب كى مرت بيرجى سابقراباب برقياس كميكه كدلى جستها-یلاتی مزید فیر با ہمزہ وصن کے نو^ساب بی ات اول إفيتكال رِفْصِغِيرُعلْ لاتي مزيدِفِيه ليمح ازباب أَفْتِعَالَ بِهَجُونِ الْإِجْدِينَافٍ ، يَرْمِزْرَا علامة ايس باب كى يد بي كراسى ماضى مين بالخ ترج ب تروية من تين المسلى دوزائدً. يعنى متروع مين بهت زه وصب كي اور تيسري حب كته تاء – إجتنب يجتنب اجتيناباً، فهو معتني وقاجتن بجتنب اجتناباً؛ فذاك مُختنب مما جتنب د المحموعُ المُكسَّرةُ:حَسَبَة، خُسَّابٌ، حُسَبٌ، حَسَبٌ، حُسَبٌ، حُسَبًا ءُ،حُسَبَانٌ، حِسَابٌ، حُسُوبٌ، أُخْسَابٌ، 7

مَا اجْتُرْبَ، لَمْ يَجْتَنِبُ لَمْ يُجْتَنَبُ، لَا يَجْتَنِبُ لَا يُجْتَنَبُ، لَا يُجْتَنِبُ مَنْ يَجْتَذِب معتنين ، ليجتوب ليجتنبن الأمرونيم ، إجتيب لتجتنب رليجتيب ليجتنب الجتنبي الجتيبين المعتنين لِيَهْتَنِبَنَ لِيهُ تَنْبَى المُحْتَنِبَة لِتُجْتَنَبَنَ، لِيَجْتَزِبَنَ لِيهُ عَنْبَنِي وَالنَّبْيُ مَسْرُ، لا تُحْتَنِبُ لَاجْتَنَبَ لَا يَجْتَنِبُ لَا يُجْتَنِبَ ، لَا جُنْنِينَ لَا جُمَنْنِهُ، الدَيْجَتَنِ مَا لَا يُجْتَنِبُ لَا يُجْتَنِبُ لا يَجْتَذِبُهُ لا يُحْتَلُنَكُ أُنْقَدُون مِنْ مَحْتَنَكُ مُحْتَنَبًانِ مُحْتَلُبًا فَي -بحث اتمات عل ماضى معروف ، المجتَذَبَ إنجتَنَبَ الجَتَنَبَ الجَتَنَبِ الجُتَنَبِينَ الجُتَنَبَ الجُتَنَبَ الجُتَنَبَ ا بمتلبة كالاجتنبة ما جنبية واجتنبة ما الجنبية أوجتلبت إجتلبت إجتنبيا بحث فى عل من مودف، مَا اجْتَنَبَ مَا اجْتَنْبَا الذي بحث إثبات فعل ماصى مجهول · الجَنْفِبُ الْجَنْفِيكَ الْجَنْفِيوْ الْجُنْفِيتَ بتكام متنبعهم الجتيدي وجثوبه مكام جتنب في الجتبية الجتينية با اجتبيتا الجتيبين اجتيبت ث مع فعل مامنى مجهول ، مااجتوب مااجتوب الفريحت إثبات فعل مم معروف يَجْتَنِهُ يَجْتَنِبُانِ يَجْتَنِبُونَ تَجْتَنِهُ تَجْتَنِهُ تَجْتَنِهُمُ يَجْتَنِهُ تَجْتَنِهُ تَجْتَنِهُ لَ تَجْتَلِبِ بْمَا كَجُتَلَيْبَانِ تَجْتَلُبْ أَجْتَلُو نَجْتَلُو بَحَمْتُ نَفْى فَعَلَّ حَصَارَ مَعَرُوفَ لَا يَجْتَنُو ب لَا يَجْتَذِبَانِ الله بحث إبْمَات فَمَلْ مُعَالَتًا مجهول: مِجْتَذَب مُعْتَنَبَانِ مُجْتَذَبُونَ تُعْتَذَبُ تجتنبان يجتنبى تجتبب تجتنبان لجتنبون تجتنبون تجتنبان تجتبين أجتنب تذك محنت فع فعل معارة مجهول ، تدعينت لايتجننب ال الحربحت تعى تأكيد بكن در لمُسْتَعْبَلِ مُحِوفٌ، كَنْ يَجْتَلِبَ لَنْ يَجْتَلِبَ لَنْ يَجْتَلِبُ لَنْ يَجْتَلِبُ لَنْ تَجْتَلِبُ كَنْ بِلَنْ لَحِتَبَبِكَا لَنْ تَجْتَبْبُوْالَتْ تَجْتَبْنِي لَنْ تَجْتَبْنَا لَنْ تَجْتَبَانَ لَنْ الْجَتَبَ كُنْ أَجْتَبَ كُنْ أَجْتَبَ ث لعى تاكير بلن ورعل متقبل مجول ، لَنَ يَجْتَنَبُ لَنْ يَجْتَنَبُ لَنْ يَجْتَنَبُ الْنَ يَجْتَنَبُ وَالْنَ تَجْتَنَبُ مِنْبَالَنُ يَحْتَدَبْنَ أَنْ تُجْتَنَبُ أَتْ تَجْتَبُبَا أَنْ تَجْتَبُوا أَنْ تُجْتَذِي أَنْ تُجْتَدُ أَنْ كَنْ أَجْتَلْبَ لَنْ لَجْتَلْبَ بَح**تْ نَنْ جُحَد رَبَلَمْ** درفعل مستقبل معروفٌ : لَدْ يَجْتَلِبُ لَمُ يَجْتَنِبَ كركجتن والمرتجتيب لترتجتن كدريعتوج فمتجتن بالمرتبعتين كدتبعتن كدتع تبدا كمنتختوني لسم تَعْنَنِبَالَمُرْتَبْعَتَنِهِ بِنَ لَمُاَجَتَنِبِ لَمُنْجَتَنِب بِحِث لَعْي تَجْدَبُهُمْ دِفْعَلْ مُستقبل جمول ، لَزَ يُعْتَدُب لَمْ يُجْتَنُبُ لَمْ يُجْتَنُبُوا لَمُرْتَجْتَنَ لَمُرْتُحْتَنُهُا لَمْ يُحْتَنَهُ لَمْ تَجْتَنُ لَدْ تُجْتَنُ ل لمُوَيَّبَعَنَبَى لَمُعْفَدُهُ لَمُرْتَجْتَنَهُ لَمُ لَمُسْتَعَبَ لَمُ مُحْتَنَب كَمْ مَكْمَد المُون مَكَم مُعَلم وال

لَا تَحْتَنَكُنَا لَا تَحْتَنَكُ لَا تَجْتَنَكُ لَا تَجْتَنَكُ لَا تَجْتَنَكُ لَا تَحْتَنَكُ لَا تَحْتَنَكُ كَ معروف بانوان ماكيد تعتيسار، لايجتنيبَ لا يجتنيبَ آن لا يجنيبَ أن لا يَجْتَرِبُنَ لا تَجْتَرِبَنَ لَا تَعْفَدِيَاتِ (يَجْنَدِ بَنَاكَةِ لَا آَجْنَدِ بَنَ لَا نَجْنَدِ بَنَ **بَحِنْ بَهِي عَامَتِ مِجْهُولَ بِالُونَ تَأْكِدُ تَ**مَي لَ لَا يُجْنَنُبُ إِنَّلَا يُجْتَنَبُنَّ لَا تُجْتَنَبُنَّ لَا تُجْتَنَبُنَّ لَا يُحْتَنَبُنَانٍ لَا أُجْتَنَبَنّ زَاجُتَنَبَنَّ كَعَتْ **حاضرم ودن باندن تاكيد حفيضه،** لا تَجْتَنِبَ لا تَجْتَنِبِ أَن لا تَجْتَنِين محت نهى **حاضر محول** بالون ما كيكر تعيفه، لَا تُجْتَبَ بَنْ لَا تُجْتَنَ بَنْ لَا تَجْتَنَ بَنْ كَنْ تَجْتَنَ بِنَ مَحِتْ مَنْ عَا تَ مُعرد ف بالون ما كَي صيض، لا يجتنب كالا يجتنب لا تخليب لا اجتيب لا اجتيب لا اخترب المحت بي غائب بجول بالان اليرتفيض، لا يجتنبن لا يجتنبن لا تجنبنين لا المجنبين لا نجنيب محت الم واعل، فجنيب مُجْتَذِبَانِ مُجْتَذِبُونَ مُجْتَذِبَة مَجْتَذِبَتَانِ مُجْتَذِبًا عُ مُحْتَذِبًا عُ مجتنبان مجتبون مجنبكة مجنبتان مجنباك با**ب دوم ا**سْتِفْعَالُ بِدِفْرِيْ اباً المشتيقيًا لمرجو لألاشيني یا مینا- ع**لامتر اِس** باب کی بہ ہے کہ اسکی م^اصلی میں چھڑ جف ہوتے ہیں یکن ريعني تترقرع مين بمزة وهت لى، دوسرى جگرىيىن اورىسرى جگەنگور رًا، فَهُوَمُسْتَنْصُرُ يتنصر كالشيذ فيري كمو يكشقنص لويستنصر الانستنصر لأكستنص تَ، لَيَسْتَنْصُدَنْ لَيَسْتَنْصُدُونَ الْأَمْرِينَةُ عَلَيْ الْمُدْرِينَةِ المرويليسَنْنَصِ لِيعْتَنْصُرْ، إِسْتَنْعِيرَتْ لِلْسَتَنْمُتُوَتَّ الْمِسْتَنَصُرَتْ لِيسْتَنْصُرُةُ الشَّنَعْتِرِيد لِتُسْتَنْصَرُنْ المِسْتَنْصُرُنْ لِيسْتَنْصَرَنْ وَالنَّبِي عَنْم ، لَا تَسْتَنْصِرُ لَايَسْتَنْصُرُ ، لَا يَسْتَنْصُرُ رَبْبَ لَابْسَتْنَصْرَتْ الْاتْسْتَنْعُيْرَ نَ لاتستنجوت لاتشتنقتريَّ ، لا يستنتحر لاستنفرو ، لايستنفيري لايستنفرن الظرف منه ومشتفرون مستنفو مستنفرات -صرف كبد محت إثبات فعل ماصني معروف ؛ إستنصر المستنصر المستنصر ولما يستنصر في المستنصر بذلا

استنصرت استنصرتها استنصرت واستنصر مزاستنصرتما استنصرتن استنصر شنتصرُبًا بحث **لفي فعل ماصني معروف،** مَا اسْتَنْصَرُ مَا اسْتَنْصَرُ الله مجعت إ**ثبات فعل مامن** يول؛ أستنصراً منهورًا أستنصروًا أستنصرت أستنصريًا أستنصرت أستنصر ب) أَسَتَنْصِرِتُمَ أَسْتَنْصِرِمتِ أَسْتَنْصِرِهُمَا أُسْتَنْصِرِتُوْ أُسْتَنْصِرِتُوْ أُسْتَنْصِرِتُ بحث نفى نعل ماصى مجهول: مَالهُ تُنْصِرَمَا اللهُ تُنْصِيرَ اللهِ مُجِعْتُ إِنَّبَاتَ فَعَلَ مُصْارِعَ معروف، يكتنهر يستنعران يستنهرون تشتنعر تشتنفيران يستنفرن تستنهر تستنعيران تشتنع وا ىن تستنهران خستنورى استنبور خستنور بحث تفى تعسل مضارع معروف ال إناال بحت إتبات فعل مخسار مع جمول : يستنفر يستنفرون يستنفرون ندان أستنصرت تستنصر مستنصران شنتنصرون تُستنصرين نُستنصران تُستنصرون متر**ح تبحت لفي فعل مُضارق مجمول؛ لاَيسْتَنْصُرُ**لاَيسْتَنْصُرَانِ الل**ح بحت لفي ماكِي**ر َبُهِ لَنُ د**رفعا مُمُتَقْل معروفَ،** لَنْ يَسْتَنْصِرُكَ يَسْتَنْصِرًا لَنْ يَسْتَنْصِرُوْا لَنْ تَسْتَنْمِورَ لَنْ يَنْهِزُنَ لَنْ تَسْتَنْعِرُلَنْ تَسْتَنِعْبِرَا لَنْ تَسْتَنْعُورُوْا لَنْ نَسْتَنْعُرِي لَنُ تَسْتَ كَنْ تَسْتَنْفُونَ لَنْ أَسْتَنْصُرُكُ نَسْتَنْظِيرَ بِحِ**تْ نَعْنَ بَأَكْبِدِبَكُنُ دَنْعَ صَّتَقِبَلُ مَجول،** لَنْ يَسْتَحْصَرُكُونُ يَسْتَنْصُرًا كَنْ يُسْتَنْصُرُوْاكَنْ تُسْتَنْصَرُكَنْ تُسْتَنْصَرَاكَنْ يُسْتَنْصُرُبْ لَنْ تَسْتَنْصُرَكَ تُ كَنْ تُسْتَنْصَرِيْ لَنْ نُسْتَنْصَرَا لَنْ تُسْتَنْصُرُ بَ لَنْ أُسْتَنْصَرُ لَنْ نُسْتَصَرِ كِتْ لِفَى **حَجَد بَرِكَمْ ورفعل مُتَعَبِّل** معروف، كَرْيَسْتَصْرُلُمْ يَسْتَنْفِرًا لَوْ يَسْتَنْفِرُوا لَمُنْسَتَقِرُ لَمُ تَسْتَقِيرًا لَمُ يُسْتَنْفِرُوا لَمُ تَسْتَنْقِرُ لَمُ تَسْتَنْقِرُ كَرِنْتُنْتُنْصِرًا لَمُرْتَسْتُنُصِرُوْا لَمُرْتَسْتَنْصِرِيْ لَمُرْتَسْتَنْصِرًا لَمُرْتَسْتَنْصَرْتَ لَمُ اَسْتَنْصِرَ لَعُرْنَكُ تَعْدَكُمْ تَعْدَ سَتَقْتُلْ مِجهولٍ؛ لَمْرِيْسْتَنْصَرْلُمُ لِيتَنْصَرَا لَمْرِيْسَتَنْصَرُ وْالْمُرْتُسْتَنْصُرْ لْهُ تَستَنْصُر الْوَثْسَتَنْعَبُو وَالْوَثْسَتَنْقَدِي لَمَ تَسْتَنْصَرًا لَهِ تُسْتَنْصَدِي لَيْ ربالون تأكيدت لدرفعا مستفل معروف، ليستنفون مْقْبِلْ مِجْهُولْ؛ لَيْسْتَنْبُصُرَتْ لَيُسْتَنْهُمُرَآنَ لَيُسْتَ مَانَ لَسَتَنْصَرُنَ لَسَمَتُصَرَّ أَنْ لَتَسْتَصُرُ لَتَعْتَنُصُونَ لِتَعْتَنُصُراً مَّ لَتُسْتَنُصُراً لَ كالمستقدين كسيتفترة تجعت لأم تأكيد بالون تأكيد تفيفر دفعل مستقبام عروف المشتقيق كمنتقق

لأجرج برجري محيث لاه فأ وأبجو بيجرير في أبيع بيو جرابي ويجر مر . بقر ن کار برور و در آم^{ور} و ور در کار نتقبا محمه ارد كنشقة مصاصبهما بوازوج والمعورة فسألتست ويجو سارد يجو وراكي في لملا**لقيله :** المتنصرية المستنبة البيروع بتز بول بالون باكر تصله: امرحاضربح ····· عت مرحاص معروف بالون بالرحفيف، ل **بالوك باكبر خفيضه، ي** يب إم حاص مجمد ام غاس معروف بالون الير حفيظر وليستنفيون ليستنصر ن لتستنفير ول مالون باكمد تغيفه، لديني يقدي لديني مدر یز جی بخت اکمرعام بخ مُنْفَسَنُ بَحِتْ بَنِي عاصر معروف ؛ لَا تَسْتَنْصُو لَا تَسْتَنْصُو یَ **بَحِتَ نَبِی حاضر عجبول ؛** لَاتَّتُ وت تبي غاً ترضم وف، يتنصري لأ ى عاس مجهول؛ لَاسْتَنْصُرُ لَانْسْتَنْصَهُ الَانْسَتَنْصَرُوا لَانْسْتَنْصَرُ لَا تُسْتَنْصَرُ ا محسف في حاف معروف بالون المي تقيل ، لاَ تَسْتَنْفُوَكَ لَا تُسْتَنْفُورَ لَا تَسْتَنْفُورُبَيَّ لَا تَسْتَنْفُيرِيَّ لَاتَسْتَنْعُومَاتِ لَاسَّتَنْفُورُوَاتِ بحن بَى حاضر مجهول بانون تأكيد تعتب يتنصرق لاتستنفرا بالأشتغضرة لأستنفرة لاتستنفر لاتشت مرآب لاتشتنف أاز بحث بجي فانهم **الون ماكيد تعيلر، كديستنصرت كديستنصراً ب**لايستنصرت لانستنصرت لاشتنصرت لاشتن الاستنصراني لابستنصر أن لاستنفر

- 19

نَسْتَنْصِرَتْ بح**ت مَهى غائب بْجول بانون باليدنقيله: لايسْتَنْصَرَ**نَّ لَايسْتَنْصَرَا لَايسْتَنْصُرُ لَا مرَنَّ لَاشْتَنْصَرَانٍ لَا يُسْتَنْصُرُ بَانِ لَدَامُسْتَنْصُرُ فَانِ لَدَمْ مُنْتَصَرُ فَا لَا مُعْتَنْصُرُ فَ تَسْتَنْقِونُ لَاتَسْتَنْصِرِقْ **بحسْ نَبِي حاضرْمِج**هول **بالون ناجر خيفه وَ** لَا يَسْتَنْصُدُ بَ دِنْ **بحسّ بَنِي عَامَ مُعرُوف بِالْوِن مَاكِيرَ حَينَفَهِ ،** لَا يَسْتَنْصِوَنْ لَا يَسْتَنْضِرُنْ لَا تَسْتَنْهِون ن لا نستنفرون بحث في غات مجهول بالون تاكير خفيظ، لايستنفرون لايشتفرو ىرن لائىتى مۇرى مىمى مەرىلى، مىنتى مۇرى مىنتى مەرىيە تەرەپ مەرىيە مەرىيە مەرىيە مەرىيە مەرىيە مەرىيە ان مستنصرون مستنصر کامستنعب مان مستنصرات ا ا**سوم** اِنْفِعَالُ فيرف لاتى مزيد فيصح ازباب إنفيكاك يؤب إلانفطائيه، بَصِّنا، علامتراس کی اصلی میں بار کچ حرف ہوتے ہیں۔ تین اصب کی درورا نش**ر و**ع میں ہمزۂ وصّب کی اور دوسری ج إِنْفَطَرَيْنِفُطِرُ انْفَطَارًا ، فَهُوَ مُنْفَطِنٌ - حَانَفُطِرَ يُنْفَطُرُ إِنْفِطَارًا، فَذَلِكُ مُنْفَطَرٌ ما انْفَطَر مَاانْفُطِرَ، لَرْ مَنْفُطِ لَمْ يُنْفَطُ وَلَا يَبْفَطِ لَا يَنْفَظُ لَا يَنْقَطُ أَنْ يَنْفَطِرُ لَنْ يَتَنفطر المُنْفَظِرِنَّ ، لَبَنْفَظِرَنْ لَبِنْفَظِرِنْ ٱلْمُرْمِنُهُمْ انْفُطِرْ لِتَنْقَطَرْ ، لِيَنْفَطِرْ لِينفكر ، إِنفط لِعَدْ مُطَرِبٌ ، لِيَنْفُطِرَبٌ لَيُنْفَظِرَنَ إِنْفَطِرَبُ لَنَبْقُطُرُ فَ إِلَيْنَفَظِرِ فَ لِيَنْفُ تَنْفَطِرُ لَا تُنْعَظُرُ ، لَا يَنْفَطِرُ لَا يُنْفَطُرُ ، لَا تَنْفَطِرَ نَا لَا تُنْفَطَرَ نَا لَا يُنْفَطُر ك لَاتَتْفَطِرَنْ لَاتَّنْفَظُونْ ، لَايَنْفَطِرَنْ لَايَنْفَظُونْ الْقَرْفُ مِنْهُ، مِنْفَظُ مُنْفَظُ ان مُنفكرات صرف حجبير مت إنبات فعل مامنى معروف : إِنْفَطَرَيَا نَفَطَرَ إِنْفَطَرُوْا إِنْفَطَرُوْا إِنْفَطَرَتْ إِنْفَطَرَيَةَ ا ٳڹؙڣؘڟؘڔۜػۜٳڹؙۿڟؘۯؾؖؠؖٵٳڹؙڣؘڟٙۯؾؙۘۯٳڹ۫ڣؘڟۯۘٮؘڗٳڹ۫ڣؘڟٙۯؾٛؠٵٳڹ۠ڣؘڟٙۯ^ؾ؈ۜٵۣڹؙڣؘڟٙۯؾؖۜٳڹڣؘڟٙۯٵ**ۥػۺٷ** فعل ماصى معروف : مَاانْفَظَرَمَاانْفُظَرَ الله بحت إثبات فعل ماصى مجهول : 1 نُفْطَرُ انْفُطَرُ ٱنفطروا ٱنفطرت (نفطرة النفطرين أنفطرت أنفطرت مفطرتهما النفطرت فنفطر فر المُنْفَكِّرُ تُنَا مُنْعَظِرُ حَامَة فَقُطِرُنَا بحث تَفَى قَعَلَ مَاضى مجهول: مَاانْفُطْرَ مَاانْفُطْرَ الذمجي

_<u>MI____</u>

لِنُعْظَرَنَّ لِنُنْفَطَرَنَ لِنُنفَظُرُنَ لِتُنفَظُرِنَ لِتُنفَظُرَنَ لِتُنفَظُرُنَا بِ **بِحْتُ مرغا مُرجروف بإنون تاكِيدُنْقِيد** رك فَفَطِرَنَّ لِينْفَطِرَانِ لِينْفَطِرُ تَالِتَنْفَظِرَانِ لِينْفَطِرَانِ لِينْفَطِرْيَاتِ لِانْفَظِرَ لِنَنفَظِرَ الْمُ ما محمد لقبله، لِينْفَطَرَتَ لِينْفَظَرَنَ لِينْفَظَرُنَ لِنَتْفَظُرَنَ لِينْفَظُرَنَ لِينْفَظُرُنَا لِنُفْظَرَنَ لِينْفَظَرَنَ لِمُعْظَرَة كُو**تْ المرحام** معروف بالون ماكير فيفرد إنفطرت إنفطرت إنفطرت الفطور محت مرحاض مجهول بالون ماكير معيفة التنفطري إلى فك يشتفطون بجنن لمرغا تتصعروف بانولن تلكيرخ يقدء ليشفطون ليتنفطون لتنغبطون للنفطون للنفطون ينتفيون بجنتهم غاسب مجهول بالون تاجيد خفيف : إينف عدد لينفط من الشفطون المنفطون المنفطون بمن بحث بمحاضر معروف ، لاستقط لَاتَنْفَظِرَا لَاتَنْفَظِرُوْا لَاتَنْفَظِرِى لَكَنْفَظِرَة لَعَنْفَظِرُهُ **بَحِسْ بَى طَرْحِبُول ؛** لَاتَنْفَظُرُوْا لَاتَنْفَظُرُوْا لَاتَنْفَظَرُى لَاتَنْفَظُرُ الْالْمُنْفَظُرُ لَا بِح**تْ بَمِي عَامَبُ مُعَرَوْفَ ،** لَايَنْفَظِرُ لَايَنْفَظِرُ الْايَنْفَظِرَ الْايَنْفَظِرُ الْايَنْفَظِرُ الْايَنْفَظِرُ الْايَنْفَظِرُ الْايَنْفَظِرُ لَا ٱنْعَطِرُ لِاسْفَطِنْ بح**تْ بْي عَابَ مجبولٍ :** لَايْنَفَظُرُ لَايْنِفَظُرُ الْايَنِفَظُرُ وَالَاسْفَظِنِ لَاسْفَظُرُ لَاسْفَظُرُ لَا شَفْطَرُ بِحِتْ بَحْ صُرْمُ وَفْ بِالْوَلْ مَاكْبِرَلْقُعْدَ، لَا تَنْفَطِرَتْ لَا تَنْفَطِرَ لَا تَنْفَطُونَ لَا تَنْفَطُونَ لَا تَنْفَطُونَ لَا مَنْفَطِنُ أَنِّ بح**تْ بَحَ صَرْحَبُول إِنْ تَجَدَّقُتِلِه**؛ لَا سَفَظُونَ لَا سَفَظُونَ لَا سَفَظُونَ لَا سَفَظُونَ لَا سَفَظُونَ لَا سَفَظُونَ الْسَفَظُونَ السَفَظُونَ الْحَدْ ال بحث نهى عائب معروف بالون ما يولقيله، لَائْنُفَطٍ بَ لَاتَفْظِهُ إِنَّ لاَ يَنْفَظِهُ تَالَةَ تَنْفَظِهَ تَ لَاتَ ٱ مُفْطِرِنَ لَاسْفُطِرِنَ ب**حن بَبِى عَامَبِ مجبول بالون مَا بِجِدِلِقَيْدِ**، لَا يُنْفَطَرَنَ لَا يُنْفَطُرَتَ لَا يُنْفَطُرُتَ لَا يَنْفَظُونَ لأينفطونات لأالمفطري لاسفكري بحث فم حرم وف بالون المخطف لاسفطر لاسفطر لاستفطر لاستفطر الاستفطر فالسفطر في المستفر ال ر حاصر مجهول بانون تأكيد خفيف، لا يُنفطر في لا يُنفطر في لا يُنفطر في محت بني غامب مروف بالون بد حکيف، لاينفطرت لاينفطرت كذينفطرت كانتفطون لاآن تعطيرت كانتفطرت بح**ت بمى عائب مجهول بالون** " الكيد خفيف، لاينفطون لاينفطرن لا تنفطري لا الفطري لا الفطري لا منفكرين محيت أسم فاعل، منفط يسر مَنْفَطِرَانِ مُنْفَطِرُونَ مُنْفَطِرَةُ مَنْفَطِرَةً مُنْفَطِرَنَانِ مُنْفَطِرًا حَيْ تَجت كمسم مَفْعول: مَنْفَظَرَ منفكران منفطرقن منفطرة منفطرتان منفطرات **جارم انعُد**لان مدون صغب إزماب إفيلال يحول الدخورلاء بيكرخ بركم ملاحة اسس باب في بير بيم كداس كي ماضى مي بالتي جرف بوت مي تدن اصلى دو زائد سيسنى سيسروع مي تمترة وصلى اورلام كلمه مكرر مست د و صَرَبُ وَاحْدَرْ يُحْدُرُ احْدَرُكُ فَذَابٌ مُحْمَرُ مَا حُدَرٌ مَا حُدُرٌ لَوْ يَعْهُ در کردر همر تحمد احمرار،

مريختي كمريضيد، كمريضيركم نيخير كمريضي، لا يتخبر لايضر، في يعبر كن يصر كن يصر ، كمرين يَرْنَى لِيَحْدَرُ لِيحْدَرُ الأمرمِنَهُ : إحْمَرُ إحْمَرُ الْحُمَرُ الْمُحْمَرُ لِيُحْمَرُ لِيُحْمَر لِيُصْهَرُمُ المُحْمَرَةَ لِتَصْرُبُ الْمَدْرُيْ الْمُحْمَرَةُ وَنْ وَالنَّهِي عَنْهُ الاتَحْدَرَ لا تَحْدَرَ لا تَحْدَرِ الدَّخْبَرِ ، لا تُحْدَرُ لا تُحْدَرُ لا تُ يَوْلَا يُصَرِق لَا يُحْمَوْ لَا يُحْمَوْ لَا يُحْمَوُنَ ، لَا تَحْمَرُ ثَنَا لَا تُحْمَرُ ثَا لَا يُحْمَوْنَ ل تَحْمَرُونَ لَدْ تَحْمَرُونَ ، لا يَصَرِّنَ لا يُحْمَرُنَ أَنْظُرُفَ مِنْهُ ، مُحْمَرُ مُحْمَرًا نِ مُحْمَرًا عُ صرف كبه بمت إثبات فعل ماصى معروف ، إحكرتما حكرت المحكرة المحكرة المحكرة الحكرية فالمحكرية فالمحكرية ب حموم تعلا حمدته تفرا حمرت وحمرت تما إحمدت ثن احمدتهم واحمرته ما بحت تفى فغل صى مروف : مَا أَحْمَدُ مَا الْحُمَدُ الله بحث التَّبات فعل ماضى جمول: المُحْمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْمُحْمَد دوير او جرم ، مردم و مراجع و مراجع مردم و مرد مرد به المحود مراجع و مرد و مردم و مردم و مردم و مردم و حمر بالمحمر من الحمر من أحمر من المحمر من ديث لفي فعل ماصى مجهول، مما اختر ما الفتر الموتجعت إشبات فعل ممشارع معوف ، أيختر مرون تحمر ان تحمر بتحكر ان تحمر ان تحرون تحرين تحمر ان تحمر ان تحمر ان مدر عن نفى نع ار معروف، لا يُشْتَرُ لا يُصَرِّدُ الله بحث انبات فعل مضارع مجول : يُحْسَرُ يحْسَرًا فِ يُصَرِّحُهُ فَ صران يُصرر في مدر مركز في محرف محمر في مصران مصرف المعرفة مربع مربع من في معلم من م صران يُصرف تحمر وفي تحمر في تحمر في تحمر في تحمر في الحمر نحب محت لغي تعلم في مرول، لَا يُحْدَرُ لَا يُحْدَرُ إِنِي اللَّهُ تَجِمِتُ فَعَى تَأْكِيدُ بَهِ لَنْ وَفِعَلْ مُسْتَقْبِلِ مُعْرِف ، لَنْ يَتَحْدَدُ لَنَ يَحْدَرُ ا ن يَحَرِّوا لَنْ تَحْدَلُنْ تَحْبَرًا لَنْ يَحْبِيحَ لَنْ تَحْمَرُ لَنْ تَحْمَرُ لَنْ تَحْدَرُا لَنْ عَرَدانَ تَ مَن بحث نفى ماكيد بَهِلْ وفنل مستقبل مجبول ، أَنْ يُصَمَّرُ إِنَّ يُصَدَّدُ أَنْ يُصَدَّدُ الله عُصَدَة وأ ف نفى تجب رَبه لَمْ دَرْيُعِلْمُ سَتَقْبِلْ مُعَرُونْ : لَمَرْ يَحْمَرُ لَدْ يَجْمَرُ لَغَرِيجُ لَغِرِ يَخ زار المربي كوتحمر الموقصي فكوتصر لوتحمر الوتح مُتَحْمَرُ لَمُ لَحْمَدَ فَي لَعْرَبْحَمَرًا لَعْنَجْمَرِهُ فَكُمُ حَمَرَ لَمُ حَمَرَ لَمُ أَحْمَرَ لَمُ نَصْرَ لَ ن **نفى جُدْرِبِكَمْ درنبل مُستقبل مجرول ، لَمَدْ يَجْهَرَ لَمُرْبِيجْهُمَةِ لَمَرْ بَجْهُرَ بْمُ لَمُرْبَحْهُمَ** الْمُدْتَجْهُ وَلَقُرْ فَعُمَدَ الْمُدْتَحِيلُ وَتَعْمَدُ الْمُدْتَحْهُ وَلَقُرْ فَعَمَدَ الْمُدْتَحْهُ وَتَعْمَدُ الْمُدْتَحْهُ وَتَعْمَدُ الْمُدْتَحْهُ وَتَعْمَدُ الْمُدْتَحْهُ وَتَعْمَدُ الْمُدْتَحْهُ وَتَعْمَدُ الْمُدْتَحْهُ وَتَعْمَدُ الْعُرْجُعُهُ وَتَعْمَدُ الْمُدْتَحْهُ وَتَعْمَدُ الْعُرْجُعُهُ وَتَعْمَدُ وَتَعْ د. المرتضين لمرتصور المريضين لموتصو كموتشير لوتضين الدينيس الموتشيرة الموتضير ما لموتشير ما لموتشيرا لَمُ تَحْسَرُهُ لَذَا حَبَرَ لَمُ الْحُبَرَةِ لَعُرْمُحُبَرُ لَعُرْمُحُبُرُ لَعُرْمُحُبُ لَامَ مَا كَبِد بِالْحِن مَاكِ

مت نبى حاصر جمول بانون تاكيد تقيله ، لا تُحْمَرَنَ لَا تُحْمَرَنَ لا تُحْمَدَنَ لَا تُحْمَدَنَ لا تُحْمَرَ الت م تحكر منابق بحث بمى غام معروف بالون ماكيد فقيله، لايحتر بالديمة بترافي لايم مري لا تحكر بالاعكر ال د من كذا حمرية لا تحمرية بحث من عاسب مجهول بالون اليد تقيله ، لا يُحمر من كذا عد الي مراحة التي التي التي التي ة تى بحث بنى مالارمعرو ا نُ لَاتَحْدُوْنَ لَاتَحْدَدُوْ مُجِتْ بْمَى جاصْر مجهول بالون مَا تَجْدَ رَحْفِيقُو أ حُبَرِّنَ بحبث بنى غامت**م وف بالأن تاكيد تَغَيْف ولا يَسْتَرَّن** لا يَعْتَرُق لا يَعْتَرُق لا يَعْتَرُق حَمَرَتْ لاَنْحَمَرَتْ بحس بَهى عامَب جمهول بانون تاكيد خفيف، لديجمر فاليحديث صري لا المحترين لا محترين بحث الم من عل، محتر متحتران محكر مردي محمد روي يَّانِ مُحَمَّراتٌ بحث الم مفعول: مُحَمَرٌ مُجْمَرًاتٍ مُحْمَرُونَ مُحْمَرُ مُحْمَرًاتُ مُحْمَرُ مَات چم افغيكال رفعل ثلاثي مزيد في الماب افت لأل سيجوب أل**إ وشيحًا م** س باب کی بہ سبت کہ کسکی ماضی میں چھ جاد ماه مردنا علامتدا م میں - نیش اصلی - می*ن را مدّ-*درميان القت اورلا بَدْ هَامَ المُوجِبْعَامًا، فَهُوَمُدْهَامٌ - دَادَهُوَمَ مِدْهَامًا، وَهُمَامًا، وَدَاتَ مُنْ هَا دْهَامْ مَادْهُوْمُ لَعْرِيدُ صَامَ كَمْ يَدْعَاجَ لَعْرَيدُ حَامِة لَعْرِيدُ حَامَ كَعْرِيدُ حَامَ كَعْريد ، لَنْ يَدْ هَامَ أَنْ يُدْهَامَ ، لَيَدْهَامَنَ لَيهُ هَا مَنَ ، لَيهُ كَمَا مَنْ لِيكُا مَا مَنْ الكُم ورق بُحَامَ لِندُ كَامَ لِلدُ حَامَم ، لِيدُ حَامَ لِيد حَامَ إِلَي دَحَامٍ ، لِيدَ مَامَ لِيدُ حَامَ لِيد وتعامَّن إوْمَاتَن لِيدُهُمَاتُ المدينات المدين ليد مَاتَن والتَّبْ عُدْدُ لاَند هاتَ لاَند هاج لاتد هاج لا لْدَهَامَ لَا تُدْهَامُ لاتُدْهَامَهُ، لَا يَدْهَامُ لايدهامَ لايدهامِ فريدهامَ لايدهامَ لايدهامَ لايد لاتَه هَا مَنْ لَا بَدُ هَامَنْ ، لَا يَهُ هَامَنْ لَا يَهُ هَامَنْ لَا يَدُهُمَا حَتْ ، لَا تَدْ هَا مَن لا تُد الظَرْفُ مِنْهُ، مَنْ هَا مَرْحَدُ هَامَانِ مُدُهَامًا فَ

- 14

صرف كم

، بحت إثبات معل ماضى معروف : إِدْمَامَ لَدُهَامَ الدَّهَامَةُ الْمُعْلِمُ دُهَامَتُو لِمُعَامَةً مَتَ الْمُعَا إِدْهَامَهُنَ إِذْهَامَهُ مَنْ إِذْهَامَهُ مَنْ أَرْدَهَا مَهُ مَنْ إِذْهَامَهُ مَنْ إِذْهَامَهُ مَنْ أَوْدَهَا إد مُامَّتُنَا بحيث فعي **على احتى عرو**ت ؛ مَا إدْهَامَ مَا أَدْهَا مَّ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَحمَّتُ إِثْب**ات فعل ط**ي م و مربع م د موجدًا ارد هومود ارد هومون د مربع مربع مربع ارد مومون الدهومين المدهومين مرد دهم، مراجر وجرم مرود مردم ومرد ومرام مردم و مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد هو مهما اد هو مهمهم اد هو معت اد هو مهتها د هومیش اد هو مهت اد هو مینا ت نقى نعل منى مجهول ، مااد هو مماد كموت الله بحت إثبات فعل مضارع معروف · يَدْهَامُ يَدْهَامًا فِي هُمَا يَوْ يَدْهَا مُوْنَ مَدْهَامًا مَدْ هَامًانِ يَدْهَامِنْ نَدْهَا مَ مَذْهَا حَدَد تَدْهَامَةَ بِنَدْهُمَا مِعْنَا دُهُمَا مَ مُنْهُ مَعَامَ مُبْحِتْ **بْفِي فَعَلْ صَمَارِحٍ معروفٍ :** لَا يَدْهَا مُ كَابَة مَا مَا بِ الله مح إثبابة فعل مُضارب مجهول، يد هام من كله هامًا بيد هامَّة بن يُدْهَامَ ثُدُهامَ تُدُهامًا بِيدَ هامين تُدُها م يد ها مان قد ها مؤن تد ها من مد ها من مد ها مناب تد ها من الد ها م ند ها م بد محت نعی فعل مضارح مجمو ارمد ها مراد المرجعة في الجريدين ورم مستقبل مروف ولن يَد ها مراد لن يَد ها مراد أن يَد ها مرال أن مد ها مراك تَدْ هَآمَا لَنْ بَدْ هَامِعِنَ لَنْ تَدْهَامَ لَنْ تَدْعَامَنَا لَنْ تَدْهَا هُوْالَنُ تَدْهَا حِيْ لَنْ تَدْه بدبك^و ومع مكت قبل مجهول ومَنْ يُدْهَامَ مَنْ يَدُعَامًا مَنْ يَدُعَامًا مَنْ يَدُعَامَ مَا مَنْ مَدْهَا مَنَ ا يد ها مدن أن يُد حام من تد حامًا أن تد حامًوان تدخاق أن يد حامًا أن يد عامَن من أو هامًا في ند هامًا بح**ت في تخرير** يد ها مين أن يد حام من تد حامًا أن تد حامًوان تد حامًا في أن يد حامًا أن يد حامي كن أو هامًا في ند هامًا بح**ت في بخر** ورفعل مستقبل معرف، نَعْدَيْدُ هَا مَ لَعُرَيْدُ هَا مَ لَعُرَيْدُ هَامِ لَمُ يَدْ هَامَا كَعْرِيدُ هَا أَكْثَرَ مريد در بريد مريد مريد مريد بي مدينة ما مريد من مريد مريد ها ماكونية ها أكثر مديناً ما تكثرته ها تكثر مَدْ ها م كَرَّبَدُ هَا مِنْ لَعُرْتُدُ هَامَ كَوْنَدُ هَامَ لَمُ نَدُ هَا مِعْلَمُ تَدْ هَا تَعَالَمُ تَدْهَا فَي لَعْ ت لَعَادَ هَامَ لَمُرَادُهَامٍ لَمُرْبَدُهامَ لَمُرْبَدُهامٍ لَمُرْبَدُهامٍ بح<mark>ن فَعْ جُرُبُ أَدْرِد</mark> هام لَمُرَبَدُها كمريد تصاريد حامو المرتد كمام كمرفي كمام كمرد كالم كريد كماما كريد كالمن كديد كالم يدخام كمريد كمام كمريد كمام كَمُتَدْعَاً مَوْالُمُ مَدْعَاقِقٍ كَعُرْتُدُهَا لَعُرْتُدُهَا مَسْ كَمُرادُكَمَا مَ كَرُادُهَا مَ كُولُدُها مَ المُدَدُها مَ المُحت المُ المُحت المُ المُحت **اون الدر قبر الأم من من معرف :** لَيدُ هَامَنَ لَيدُ حَامَاً إِنَّ لَيدُ حَامَاً فَ لَندُ هَامَانَ لَندُ هَامَانَ لَيدُها مِناكَ لَندُ هَامَانَ لَنَدُ هَا مَأَنَّ لَنَدُ عَامَقٌ لَنَدُ هَامِنَ لَنَدُ هَا مَأَنِ لَنَدُها مِنَانِ لَدُ عَامَنَ لَكُ مَا مَنَ ب ورفعل مستقبل مجهول، كَيْدُهُ هَا مَنْ لَيهُ هَا مَآتِ لَيْهُ هَا مَنْ لَيْهُ هَا مَنْ لَيْهُ هَا مَن لَهُ الله لَتُدْهَاتَمَاتِ لَتُدْمَاتُنَى لَتُدْعَاتِينَ لَتَد مَاتَكَاتِ لَتُدْمَامَكَاتِ لَادْهَامَنَ لَدُد هَامَنَ لَد بالون باكيد خليفه ورفعل مستغبل معروف، ليَهُ هَآمَتَ لَيهُ هَآمَنْ لَتَهُ حَامَتُ لَتَهُ عَامَنُ لَدُه

لاتُدْهَا مَا يَكَوَ لاتُدْها مَمْنَاتٍ بحد من عاسب معروف بانون تاكيد ثقيله، لايد هامَنَ لايد عام الكو لائد عام لَدَ تَنُهُ هَا مَتَنَ كَلاتُهُ هَامَتَاً بِهِ لاَيدُ هَامِيْهُ بَإِنَّ لاَ اَدْ هَا لَيْنَ كَلَائُهُ ها مَتَن لابُبُ هَامَنَ لَامِنُ هَامَانِ لَدَمِيهُ هَامَنَ لَا مُدَ هَامَنَ لَدَنْدُ هَامَةًاتِ لا مُدْهَامَهُ مَنَاقٍ لأ حاص معروف بالون أكبر خفيفه، لا تَدْهَامَنْ لاَتَدْ عَامَنْ لاَتَدْ عَامَنْ لاَ تَدْعَاؤَة بحث بحث من محاصر مجهول بالوان تاكيد حفيفي لا تُدْهَا مَنْ لَاتُدْهَا هُنْ لاتُدْهَا مِنْ بحث بني عام محروف بالون ماكب من هذه ما مَن لا يُدْهَدُها مَن لا يده لَا تَدْهَامَنَ لَدَادُهامَن لَدَدُهامَن بحث من عامب مجهول بانون تأكير حفيف، لَديدُ هامَّن لَدِيدُها مَن لَاثْنُهُ هَامَنُ لَا أَدْهَامَنَ لَانُهُ هَامَنَ بح**ت المم فاعل: مُد**ْهَامٌ مُدْهَامًا مِنْ مَدْهَا مَتَابٍ مُدْهَا مَتُون مُدْهَا مَتَه مُدْهَا مَتَاتِ مُدْهَا مَكَ بحن المم معول بمرك هُاهَ مُدْهَا مَرْ مُدْهَا مَتَانِ مُدْهَا هُوَ بَمُره هَا مَد مُدْهَامًاتُ متم الْعَنْعَالُ إِنْعِيْعَالُ حِرُّ ٱلْإِخْتِنِيْتَنَانُ؛ فدفعل تلاتى مزيد فيه صبحراز ہو **علامتہ** اس باب کی یہ ہے *کہ ایس* کی ماضی میں چیٹر حر**ف ہوتے ہیں ا**ک ى **ىتردى بى بېزة دصلى؛ يولقى جگ**ولۇ، اورغين كلمه مُك يَمْ جَاخِتُهُوْشِنَ بُخْشُوْشُونَ إِخْتَنْدُمْنَا أَنَّا فَلَاكَتُ مختشومتنوع برما الحنثومتين كما اختنوبتين الدريختيه مثدن لغريجت وشرج بالابخيتية مندم لامتحته متدجي كَنْ يَبْضَلُونِيْنِ لَنْ تَحْسُدُ بِعَنْ كَمُصْتُدُو سْبَدَة لَعْشَدُ شَكْنَ لَلْحَشْدُ شِنَى لَهُ خُشُو شَكَ الْأَمْرُ مِنْب فَيَتَوْيِشِنُ لِبَحُشُوشَ، لِيحَشَوْشِنْ لِيُخْشَوْشَنْ، إخْشَرُ مِنْنَى لِتُخْشُو شَكَ، لِيَحْشُو شَكَ لِيحْسَنُو شِمَنَ الْحُشَوْشِينَ لِتُحْتَكُو شَسَنَ الْحُشَوْنِينَ لَهُ حُشَوْشِنَ وَالنَّهُ مَحْسَمُ لَا تَحْشَوُ شِنْ لَا يُحْشُونَتَنْ ، لَا يَحْتَوُشِ كَا يُخْتَمُونَنْ ، لَا تَخْشُو شَنَّ لَا تُخْشُو سَنَى لَا يَحْتُمُونِينَ مَنْ يَكُونُشُوْسَنَنَ ، لادَخْتُ وَشِكَ لا يُخْتُوُسَكَن ، لا يَخْتُونُ مَن لا يُخْتُدُ شَكُ ٱلطَّرْفُ مِنْهُ مَحْشُونَيْنُ مُخْشُونَيْنَ مُخْشُونَ مُعْشُونَ الله صرف كبر ، **حت إثبات فعل التفي معروف : إ**خْشَوْشَنَ إخْشَوْشَنَا إخْشَوْشَنُوْ الْمُشَوْشَنُوْ الْمُشَوْشَنَتْ إخْشَوْشَنَسَ تَجَ إخُشَوْشَ إِخْشَرْشَنْ إِخْشَرْ مَنْ أَخْشَرُ شَنْتُما إِخْشَوْ شَنْتُمُ إِخْشَوْشُنُتِ إِخْشَوْشُنْتُهما إِخْتُوْشُنْتُ ٱلْحُسَو

خشوشنا بحث نفى فعل ماضى معروف ، مَا اخْشَوْشَ مَا اخْشُوْشَ مَا خُشُوْشَنَا اللهُ بحث إثبات فعل مامن ول، أخْشُوْشِنَ أَخْشُوْشِنَا أَخْشُوْشِنُوا أَخْشُوْشِنَتْ أَخْشُوْشِنَتْ أَخْشُوْشِنَتَا أَخْشُوْشِنَ أُخْشُوْشِنَا حَدَّة بِنَيْتُهُا أَحْشُو شِنْتُعْدِ الْحَشُونْشِنْتِ أَخْشُو شِنْتُهَا أَخْشُو شِنْتُ أَحْشُو شِنًّا بُ نفى فعل مأصى مجهول؛ مَااخَشُوْشِنَ مَااخَشُوْشِنَا (لل بحيث إنبات فعل مُضارح معرف، يَفْظُ يَخْشُوُسْٓنَانِ يَخْتَوُسْنُوْنَ نَخْشُوُسْ تَخْشُوُسْ تَخْشُوُ شِنَانِ بَخْشُوْ مِنْنَانَ نَخْشُو شِنَ تَخْشُو ەن تىنىقوينان ئىنىڭ ئىخشۇنىيى ئىخىتۇ بىڭ بىچىت **ئى قاخا تېمضار ب** معروف ولا يحشو بين لا يَحْشَو بشنان الن محت إتما فعل مُضارع مجرول وبَعْضَو شَبِ نَصْبَيْنِي تُحْشُونُ شَنَانِ تُحْشُونُ أَخْشَوْ شَنَ أَخْشَوْ شَنْ نَحْشُونَ أَخْشُونُ مَح**ت مَعْ فَعلْ مُصَابِحَ مِجْرُولَ:** فأرديش كديم خشوشنان الغ بحث لقني تاكيد تبكن درفعام ؿڣۅٛؠؾڹۅٵڮڹؾڂۺۅۺؽڶڽ۫ؾڂۺۅٞۺؚٵڬڹؾڿٛۺؘۅؿؚڹۜؽڮڹؾڂۺۅٛۺؚؽڮڹ تخۺۅۺٵڬ[ۣ]ؾڂۺۅۺٵڬ حَضُو بِيَبِي لَنْ تَخْصُو شِنَالَ نَحْسُو شِنَ لَنُ أَحْشَو مِنْنَ لَنُ تَحْشُو مِنْنَ بِحِ**تْ نَفِي مَا يَدَبَرُنُ درفعل** المجهول، كَنْ يَضْتُونُ مَنْ لَنْ يُحْشُونُ مَنَاكَنْ يَجْتُنُونُ مُعَالَنْ تَحْشُونُ مُعَالًا لَهُ تُحْشُونُ حُنْنُوْشَكَنْ تُخْشُوْشَ لَنْ تُخْشَوْشَكَاكَ تُخْشَوْ سَنَوْالَنْ تُحْشُونُ مَنْ الْمُ الله الله الم كَنْ تَحْشَوُ شَنَّ لَنْ أُخْشَوْشَ لَنْ نَتَّفْتُو شَنَ محت فَى جَمَر تَبِلَمُ درفع مُ مُ تَعْبَل معروف: لَمُ مُخْشَرُ مَنْ أَمُو مَخْشُو مُسْنَا لَمُو مَحْشُو شِنُوا لَمُ تَخْشُو شِنْ لُو تَخْشُو شِنَا لَمُ يَخْشُو شِنَ كَ يَحْشَوُشِنُ لَمُرْتَحْشُوْشِنَا لَمُرْتَحْشُوْشِكُوْا لَمُرْتَحْشُوْشِينْ لَمُرْتَحْشُوُشِنَا لَمُرْتَحْشُوشِنَ كَفُرَ تْ نَفْي جَبْ رَبَيكُمْ دَرْفِعِلْ مُسْتَقْبِلْ مَجْهُول الْدَبْيُفْتُوْشَ لَمُرْبِيفُهُوْ شَكَأ ويتي كريضيه متن كريغته شناكونخته مريجة يتوستنوا لرتحة وشنكا لأنخشؤ متنا مُدْخِشُوْشَنِي لَمُ تَجْشُدُ شَنَالَمُ مُحْشُوُ شَنَّ لَمُراضَحُ وَشَنْ لَمُ مُخْشُوْشَنْ بَحِتْ لامٍ بَاكْر مالُوْنَ لق**ا د فعل مُسَتقل معروف ،** لَيَضُقُو شِنَنَ لَيُضْتَوُشِنَا أَنِّ لَيَضْنُوُ شِنُينَ لَتَضُشُو شِنَنَ كَنَّضَتُو شِنَا بِ يخشونينان لتخشو فيكت كتخشو شنات لتختو شنائ لتخشو شرف لاَحْتُوْشِنَ لَنُحْتُوُشِنَ بح**ت لام ماكيد الون ماكيد فون مُسْتَقبل مُسْتَقبل مجبولَ و**لَيُحْتُونَنَنَ كعفتونسا يتفتوسكن كتفقو ملكن كتفقو شنائق الجف خاذ للجنب فلا للعفي فترات تعتبو سرامت كشف ومتراب كم محمد وشناي لتحقو شناي لأغشو شكى تتخشؤ شن محمت لام ماكيد بالون ما يدخف وفر م

ىروف، ليخشوشن ليخشوشن لتخشر شنن لتخشر شنن ليخشر من لتخشر من لتخشر شن لتخشر شن لاخشو سن لَنَحْشَوُ شِنَىٰ بح**ت لام باكبر بانون باكبرخف**يفرد فعلم ستقبل مجهول ، كَيْحْشَوْ شَنَى كَيْخَشُو شَنْب ڵؙڞٛؿۅٛۺؘڰؙڹٛڵؾڂۺؙۅۺؘؿؙڮؙڵؾڂٛۺۯۺڰڽڵؾ۫ڂؿۅٛۺڹ؋ڲٳڂؽۅٛۺڰڹڵڂٛۺڰڹڵڬڂۺۅۺڰڹ**ڮٮڤٳڡڔڡ** ٳڂؙؚۺؘۯڹؚ[ؙ]ۯڂؙۺۅٛۺؙٵٳڂۺؘۅٛۺؚڷٛۅٳٳڂؙۺؘۅٛۺؚڹؽٳڂٛۺۅۺؚٵٳڂٛۺۅ۫ۺؚڽ*ؘۜ؆ڝڹ امرحا سرمجُول، لِتُحَشَقُ* لِيَخْشُوُ شَنَالِيَخْنُوُ شَنُو الْبُخْنُونَةِ فِي لِيَّهُ شَوْشَنَا لِيَّخْشُونَ أَنَّ مِح**ت امرْ مَا سَمِعَرُو فَت** ؾ*ؙۅٛۺ ڸڂ*ؿۯڛ۫ٵڸيڂؙؽۯۺؚڷۯٳڸؾڂٞؽۯۺڹڶؾڂٛؽۯۺٵۑؠڂؙۺۅۺ؆ۑڮ سَ مجمول، لِيُحْتَبُونُ لِيهُ خُتَوْشُنَا لِبُحْنَوْ شَلُرَا لِيَحْتَبُونِهُ لِيَحْتَبُونَهُمَا لِيُحْتَبُونُ وَخُتَنُوْ بَمُنْ المرحاص موف بالون ماكيد تقيله، إخْصَبَو شِنْنَ إخْصَوْ مِنْهَا مَوْ الْحَصَوْ مِنْهَا مَوْ الْحَصَوْ شِنْنَ إَخْصُوْ مُوسَنِّلَنِ الْحُسُوُسِتَاتَ بحن امر عاصر مجهول بالون مَاكِيد تعتب المُسَوَسَنَ لِتُحْسَوْسَ الْحُسَوْسُ مَدَ لِنَّحُسَّوُ سَنَاتٍ لِيَحُسُو سَنَتَكَنِ محمت المرغا تربُ معروف بانون تاكيد نفيله، لِيَحْسَوُ شِنَا لِيَ ليَخْسَرُسْنَى لِتَخْسَوْشِنَنَ لِيَحْسَوُ شِنَانَ لِيَحْسَوُ شِنَانَ لِيَحْسَوُ شِنَنَ لِنَخْسَوْ شِنَنَ لِح**ت امزِع** مجهول بانون الحد تقبيله وليخشؤ شنك ليخشؤ شنات ليخشؤه ام **حاض مروف بالون بالجد تصبيفه، الخشَرَ**شِينَ الحُسَوُشِينَ المُسَوَّشِينَ محت أمر حاضرتم ول بالوت كي تخفيف، التُخ ڠؙۺؘۅ۫ۺؘ؋۫ؽٙڸؿڂٛۺٞۯؚۼؘڹۣڹٚ**؉ؚحٺ امرغام بمعروف بالُون ٱلجَيد خفيض، بِ**لِيَخُشَوْشِنَ لِيَخْشَوْشِنَ لِيَخْشَوْشِنَ لِيَخْشَو خشو شنى بحث مرغام مجهول بأنون المح تعفر وليحُسَون أي مع معر ولي مُسَوَّسَ أن المُحْسَو سَنَن لِلْحُسُو سَنَن ال مروف، لا تَخْشُونِنْ لا تَخْشُو شِنَا لا تَخْشُو شِنْوا لا تَخْشُو شِنِي كَا تَخْشُو رِشْنَا لا تَخْشُو شِنّ بَ بْنِي حاضر مجهول ، لَا تُعْمَشُوْشَنْ لَا تُحْشَرُ شَكَالا تُحْشُو شَلُو الدَّتْخَشُو شَبِي لَا تُحْشَو شَنا كَ ى كَمْشَوْشَنْ بمحت مَنْ**ي غابَ معروف ؛** لَا بَحْشَوْشِ لَا يَخْشَوْشِنَا لَا يَضْدُوْشِنُوْ لَا تَخْشَوْ شِنْ كَدَة خُسَوْ شِنالاً يَخْصُو بِنِنَ لَا أَخْشَو شِنْ لاِنَخْشَو شِنْ بح**ت بْنِ عَابَ مجهول ،** لَا يُخْسَو شِ لا يُحْشَوْ شَنَا لا بُخُشَوْشَلُوم الا تُخْشَوْشُنُ لا تُخْشَوْشُنَا لا يُخْشَوْشُنَ لا اخْشُو شَنْ لا نُخْشُو شُ بحرب نى **حاصر معروف بالون ما كيس فقب ل**ير ، لا تَحْشَدُ شِنَنَ لا تَحْشَدُ شِنَانِ لا تَحْشَدُ شِنْ لا تَحْشُو شَنْكُو لا تَخْشَوُشِيَّاتٍ مِحَتَ مَنْ ما صرم جهول بانون ما كيد تعيله ، لا مُحْشُو شَنَنَ لا مُعْشُو شَنَاتٍ لا محتو شك لا تحسون من المحشون المناق لا تحسون التركي المن عا م معروف بالون اليد تقيل، لا يحشون ال لايخَشَوْسَنَانَ لايخْفُو شِنُنَ لَا تَخْشُو بِشَنَ لاَ تَخْشُو شِنَانِ لَا يَخْشُو شِنَانِ لاَ خَشَو شِنَ لاَنْحُنُو شِنَى لاَ يَخْشُو شِنَانَ بحث مَبَى عَامَب مجبول بالون تاكير فقيلم، لا يُخْشُو شِنَنَ لَا يُحُشُو شَنَانَ لَا يُخْشُو شَنَنَ لَا تَخْشُو ش

لا تختون إن لا يختون أو الأراد الموالي ا **ٵڮۑۯۼيفر،** لاتَخْشَوُسْنَنَ لاتَخْشُوْشِكُ لَاتَخْشُوْسِ لَى كَتَخْشُوْسِ بِي مَعْتَ مِنْ عَاصَر مَجْمُولَ بالون الي خصف لاتحشو شكن كر تحشو شكن كانخ فر شكن كالم محرف بالون الي بِقَرِة لَا يَخْتَنُوْ شِنْنَ لا يَحْتَدُو شِنْنَ لَا تَخْتُوُ شِنَنَ لَا أَخْتُو شِنَنِ لاَ نَخْتُو شَنَى بَحْتُ بْنِي فالمَبْ مجهول بالون ، يدتعنهم ؛ لأديخُشُو شَكَنَ لا يُجْشَدُ سَنَنَ لَا تُحْشَدُ سَنَنَ لَا تُحْشَدُ سَكُن كُ مت اسم فإعل، مُحْشَرُ شِنَ مُحْشَوْشِكَانِ مُحْشَوْشِكَانِ مُحْشَوْ شِكْوَنَ مُحْشَوُ شِنْكَ تُحَدَّون مُخْشَون مُخْشَون اللَّي بحث الجرم فعول: مَحْمَدُونَتَنَ مُخْشُونَتُنَان مُحْشَون اللَّي مُحْشُون مختوشنة مُخْشَوْشَنّان مُخْشُوشَات م تحمر إفعِوَّال ميمح إز أباب إ فتحوَّالُ يُحِل الإجبارَة · وتر المحادة وأس المراجع المراجع المس المساحي المستحد المراجع المحاص ا م وينه بين بين اصلي نين دائد يعني تشروع مين بمزة ومسلى اورعين و لا م دميان دوداد مشترد بصورة تتماري الت إِجْلَوْدُ يَجْلُودُ إَجْلِوَادًا، فَهُوَ مُجْلَوَدٌ - وَاجْلُودَ بَعْجَلُوْدُ أَجْلِوَادًا، فَلَ الْتُ مُجْلُود - مَ ٳڿؚڸؙۅۜۮؘ؉ٳۼڰؚڐۣۮٚ٠ڵڡۯؽڿڮۅٙڎڵۿؽۼؚڮڮٙ[ۣ]ۮ؞ڵٳؽڿڮۅٙڎ؇ڵؽۼڹۊڎ[ؚ]؞ڶڹؖ؞ؾٞۼڸۅٙۮؘڶڹؖؾؖڿڮۅٙۮٵڸؘڿڵۊؚۮڽ لْمُجْلَوْدَنّ ، لَيَجْلَوْذَن كَيُجْلَوّ ذَن الْأَمْرِمِنْهُ ؛ إجْلَوْ لِتُجْلَوّ فِيجْلَوْ فَ لِيَجْلَوْ فَ ل ؞ڸۣڿۜڮؘۑۊۮؘڹٙٳڽۼڵۊۮڹ؞؋ۿؙۘڮڐۮڹ؞ڹڿۘڵۅڐۮڹ؞ڸؾڿۘڵۅڐٮؿٳؿڿۘڸۅۜڐٮڹۅٳڶۼٚٚۅٛۼؿ؞ٛۥڶڐۼۘڮؘۅڐۮڵڐۼؖڵۅڐۮڵٳڲ۫ڵۊڐۥڵٳڿڬۅڐۥڵٳڿڬۅڐ لَا تَجْلُوذَنَّ ، لَذِيجُلُوذُنَّ لَا بَيجُلُودُنَّ ، لَا تَجْلُونُ ثَنَّ لَا تُجْلُونُ نُ ، لَا يَجْلُوذَنّ لَا يُجْلُونُنَّ أَنْفَارُكُ حِبْ هُ مجلود مجلودان مجلودات -صرف ڪبير بحت إثبات فعل ماصى معروف، الجلوَّذَرَ الجلوَّذَرَ الجلوَّذُوْ المجلوَّذُوْ المجلوَّذَنْ المجلَوَّ ذَمَّا المجلَقَةُ فَ إجْلَوَ ذِبْ إَجْلَوَ دُمْمَا إِجِلَوْ دُمْعَ أَجْلَوْ دُبْ الْجَلَوَ دُمْمَا إَجْلَوَ دُمْنَ الْجُلَوَ دُمَّا ا فعل الصى محروف ، كما اجْلَة د كما اجْلَة د كالد بتحت إثبات فعل ماصنى مجهول ، المحلَّة د أعظرة دا المجلَّة ، في

مُجُلُوذَ مَ مُجُلُودَ مَا مُجَلُودَ مُحَلُودَ مَ مَجْلُودَ مَمَا مُجْلُودَ مَعْ مُجْلُودَ مَعْ مُجْلُودَ مَا م المجلود ما مجلود ما المجلودي المجلودي المجلودية المجلود مع محلود ما محلود ما المجلود ما المجلودين المجلودين يَّدُنُا بحت في تعل ماضى مجهول ، مَا الجَلَوَدُ مَا الجُلُودُ مَا الجُلُودَ النَّح بحت إثبات قُعل مُضارط معروف ، ڵۅؚٙۮ۠ۑڂڮۅۜۮٳڹ**؉ۛڿڮؘۅ**ۮ۠ۏڹڗۜٛڿڮؘۅۮ؆ڿڮۅڐڒٳڹڹڿڮۅٞۮڹڹڿڮؘۅڐڎ؆ڹڿڮڗڐڒٳڹڗڿڮڗ؞ڗٛڹڗڿڮڗڋۣۑ؞ تَجْلَيْدْانِ نَجْلَةٍ دَنَ أَجْلَةٍ مُ نَجْلَةٍ * بَحِ**تْ نِفِي قُعلْ مُضارِع مُعروف ؛** لَأَيْجُلَةٍ * كَذَبْ الْجُ **بَحِتْ** إشات فعل مُصارحا عجمول، يجلد ويجلو دان بجركة دان بجركة وفن تجلود نجلودان بجلودن ترجر كود به المحكود في مجلود من مجلود أب تحكود ن أجلود فجلود محقق في معلم صا**رع مجرول** لأيجلود لا يجلود والتج**ري تعني ناكبد** *ڭ وثلام منقبل معروف أ*نَّهُ يَتَجْلَوْهُ إِنَّ يَتَجْلَوْهُ النَّهُ يَتَجْلَوْهُ مُوْالَنُ نَتَجَايَوْهُ لَنُ تَتَجْلَوْهُ لَنُ تَتَجَلَوْهُ كُنْ مُتَجَلَوْهُ إِنَّ اللَّهُ يَتَجْلَوْهُ كُنْ كَنْ تَتْجُلُوْذَا لَنْ نُتَجَلُوْ ذَقَا لَنْ تَجْلُوَ فِي لَنْ تَجْلُوْ ذَاكَ تَجْلُوْ فَ نَا أَجْلَدِ وَلَنْ تَجْلُو ذَكَ نَتْجُلُو فَكُنْ تَتْجُلُو ذَكَ نُتَجْلُو ذَكَ نُتَجْلُو فَكُنْ سِنْقَبْلِ مُجْهُولُ: لَنُ يَتُجْلَدُهُ لَنُ يَتَجْلَدُ دَالَنْ يَتَجْلَوُهُ وَالَنِ تَجْلَوُ دَلَنْ تَجْلَوُ كُ تُصْلُوْهُ الْلَّى تَعْجَلُوهُ فَالَى تَجْلُوَ ذِي لَنْ نُجْلُو دَالَ تَجْلُو دُنْ لَنْ أَجْلُو دَلْ بِحَدَةُ **بُحد فَلْ عُرْبُرُو** ورفعل مستقبل معروف ؛ لَهُ بَجْلَوَةٍ لَا لَهُ بَعَلَوَ ذَالَعُرَيْجَلَوَ ذَوَالَعُرْبَجَلَوَ ذَكَرَ تَجْلَوْ ذِي لَعَرَبَجَهُ تَجَلَةِ دَالَمَ تَجْلَةِ دَكُوا لَمُ تَجْلَقِ فَي لَمُ تَجْلَةِ فَالقَرْنَجْلَةِ ذَلَ لَقُرَاجُلَةٍ دُلْمُ نَجْلَةِ وَكُمْ مَجْلَةِ مَن مَعْلَةً وَقِعْلَ سَنْقَبِل مجهول، لَمُ يُجَلَّوُذُ لَمُ يُجَلَّوُذَا لَمُ يُجَلَوُ ذُوَا لَمَ تُجَلَوُ ذُكْرَ تُجْلُو ذَا لَمُ ي لَوَذَا لَمُ تُجْهِ كُوَدُقًا لَفُرِتُجُهِ لَوَّذٍ يَ لَمُرْتُجُسِكَوَذَا لَعُرْتُجُهِ بَوَدُن لَسَرً أُجُسكَوَ الأرد بحت لام ناكب ربانون ناكب رنقبا در فعل مستقبل معروف، اللَّ لَنَجْلُو ذَكَ لَتَجْلُو ذَانٌ لَيَجْلُو ذَانَ لَبَجْلُو ذَنَا لَبَجْلُو ذَنَّ لَتَجْلُو ذَانًا لَتَجْلُو دُنّ لَيَجْلُوا دَنَ لَيَجْلُون أَنَّ لَيُجُا جُلُوَذِنَ لَنَجُلُوَذَاتَ لَتَجبود ماتِ لَكَجَلُوَدَتَ لَنَجَلَوَ ذَنَّ بَح**ت لامٍ تأكيد بالون ناكب لفيله لِخل** ول ، لَبُبُجُلَوَ دَنَّ لَبُجُلُوَدُ آَتِ لَيْجُلُو دَنَّ لَتَجُلُونَنَ لَتَجُلُو دَانَ لَيُجُلُو ذَانَ لَتَحُلُونَ لَتُجُلُوَذُانٍ لَتُجُلُوَ ذُنَّ لَتُجُلُوَ ذِنَّ لَتُجُلُوَ ذَنَاتٍ لَتَجْلُوَ ذَنَاتٍ لَاحْظُوَ ذِنَّ لِنَجْلُوذِنَّ كُمُ مَا بالون ككيرخيفرد ومعل مستقبل معروف، لَيَجْلَوَكَنْ لِيَجَلَوَدُنْ لَتَجَلَوَ ذُنْ لَتَجَلَوَ ذُنْ لَتَجُلَوَ ذَق ت كام اكبير بانون ناكبد خصيفه در فعل مستقبل مجهول، كيُجلو ذن لَتَجُلُونِ لَاجَلُونَ لَا مُجَلُونَ لَنَجُلُونَ ٢ لَيُجْلَزُ ذِمْنَ لَتُجَلُّدُ ذَنْ لَتُجْلَدُونَ لَتُجُلُقَ فَنْ لَتَجْلَوَ ذِنْ لَاجْلَوَ ذَنْ لَ**نُجْلَدَ**ذَنْ **بَحَثْ الْمُخْلُقُ مَا** روف : إنجلوتذ الجلودة المجلودة فرا الجلودي الجلود المجلودة المجلودة في محت امر ما صرم مجهول ، إِنْهُ لَقَدْ لِتَحْطَوَدُا لِتُجْلَوَ وَالِيَّجُلَوَ وَي لِتَجْلَوَ وَمَ لِتَجْلَوَ ذَا لِتَجْلَوَ ذَن محمت المرعام محموف للبُجُلَوَ ركَيْجُلُوَّذَا لِيَجُلُو دُحاً لِتَجْلَوْهُ لِتَجْلَوْدَا لِيَجْلَوْ دَن لِآجُلُوْ ذَكْنِجُلُوَ ذَكْمَتْ المرغانَب مجهول

رمجكوّة ليُجلَوّدُ البيجلَة دُوّاليَّجلَوَة لِتُجْلَوَة لِتَحْلُونَة إليجلوّة ن لِلْجلُوّة لِنَجْلَوَة بمحت مرحاص مردف بالون ماكيد نقيلم والحكود كالمجلود آت الجلودة والجلودة الجلودة الجلودة الجلودة بالت بحيث امر ما صرم بول بالون باليد تقيليه ؛ لِنهُ جَلَوَ ذَنَ لِنَهُ جَلَوَ ذَانَ لِنهُ جَلَوَ ذَنَ لِنهُ جَلَوَ ذَنَا ارم عاسَب مردف بانون ماكيد لفيلر ، ليَجْلَوِ ذَنَ ليَجْلَوِ ذَنَ لِيجَلَوِ مَنَ لِيَجْلَوَ مَنَ لِيَجْلَوُ وَأَ لِيجَاوِدُنَانَ لِدَجْلَوِدَنَ لِنَجَلَوِدُي بَحَتْ امرغان مَ مجهول باون ماكَيد لقيلم، لِيُجَلَوُ ذَنَ لِيجُلَد لِيهِ عَلَوْ مَنْ لِنَجْلُوْ مَنْ لِيُحْلُو مَانَ لِيحْفَلُو مُنَاتٍ لِمُسْتَفَدَة مَنْ لِمُجْلُونَة مَنْ لِمُع ناكية جنيفه، إنجلةٍ ذن الجلةِ ذن العلَةِ ذن بحِمت امرحاص مجهول بالول ماكية عنهم، المُعَهم وأن العُلَة دن لِتُجْلَدُون بحت امرغات معروف بالون الكير خيف، لِيَجْلَوْدَن لِيُجَلَوْدُن لِيَجْلَوْدُن لِتَجْلَوْدَن لِآجَ لَوَ لِنَجْلَةِ ذَنْ محت امرْعَامَتٍ مجهول بالون ماكيد خفيض، لِيحَجَلَةَ ذَنْ لِيُجْلَقُهُ نَ لِيُجَلَّوُ ذَنْ لِلْ لِيُعْظَوَدُنُ مُسِحِبٌ بْرَى حاصر معروف، لَا تَجْلَةٍ لَا نَبْجَلَةٍ ذَا لَاتَجْلَةٍ ذَا لَاتَجْلَةٍ ذِن لانتجالَةٍ ذَا لَتَجْلَةٍ ذَا عت بنى حاصر مجهول، لَا يَتُجَلُّوَنُهُ لَا يَعْجَلُوَنَهُ اللَّهُ جَلُوَ **لَا يَتَجَلُوَ فَي أَنْ يُتَجَلُو**َ الْأَنْتَجَلُوَ فَي كَلُنَّهُ عَلَوَ أَلَا تَتَجَلُونَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَي أَن بنى عائب معروف ، لَذَبَه جَلَةٍ ذَ لاَ يَجْلَةٍ ذَا لا يَجْلَةٍ ذُو اللاَ تَحْلَةٍ ذِ لاَ تَجْلَةٍ ذَا لاَ يَجْلَةٍ ذَ لَا يُنْجَلُونَهُ بِحِينَ مِنْهِي عِمامَتٍ مجهول ولَا يُجَلُونَهُ لَا يُجْلُونَهُ أَلَا تُجْلُونَهُ لَا تُحْلُدُهُ اللَّهُ يَجْلُونَهُ أَلَا تُحْلُونَهُ لَا تُحْلُونَهُ أَلَا يُحْلُونُهُ أَلَا تُحْلُونَهُ وَلَا تُحْلُونَهُ أَلَا يُحْلُونُ أَلَا يُحْلُونُ أَلَا يُحْلُونُ أَلَا يُحْلُونُونُ أَلَا يُحْلُونُ أَلَا يُحْلُونُ أَلَا يُحْلُونُ أَلَا يُحْلُونُ أَلَا يُحْلُونُهُ أَلَا يُحْلُونُ أَلَا يُحْلُونُ أَ م و المرجود المراجعة والد المجلود والمحت من عاض مع معرف بالون ما يرافق لم ولا تتجلودة من لا تتجلودات لَا تَجَالَةٍ ذَكْ لَا تَجْلَوِدِنَ لَا تَجْلَةٍ ذَاتِ لا تَجْلَةٍ ذُنَانٍ بحسَ بَنِي ماصر جهول بالون ماكب لفيله، لا تُجْلَو دَنَ لَا تُجْلَدُهُ آنِ لَا تُجْلَدُ * ثَاكَة تُجُلُو ذِنَ لَا تُجْلَدُ وَأَتِ لَا تُجْلَدُهُ أَنَّ بِحِمَّ مِنْ عَ المُنْجُلَدَةُ آنِ لَا تُجْلَدُ * ثَالَة تُجُلُو * ذِنَ لَا تُجْلَدُ وَأَتِ لَا تُجْلَدُهُ أَنَّ مُحِمَّ مِنْ ع لقيلم: لايجلودَنَ لايجلودَنَ لايجلودَاتِ لايجلو في لابتجلودَنَ لاتَجلودَاتِ لايجلودَنَاتِ لااجلودَنَ لانتجلودَنَ بحث منى غاب مجهول مافون ماكيد لقيله ولا يُجْدَدَنَ لَا يَعْبُدُوَ وَأَنَ لِا يُجْدَدُ مَنَ لَا تَجْدَدُ وَ لَا لَا يُحْلَوَ ذِنَا نِي لَا المُجْلُوَدَنَ لَا مُجْلَوَدَنَ مُحت بْحرت بْحرص ما مرمد من بالون ما كميد معيد ما لات المؤ تَجْلَدِ ذِنْ لَد تَجْلَدِذِنْ محت مَنِّى حِاصر مجهول بانون ماكيد خصيف، لا تُجْلَوَ ذَنْ لا تُجْلَدُ فَمُجْلُو م بحث نبى غائب معروف بالول ما كين عمي فرو لا يجاود ف لا يجالود من لا تد جالود ف لا تد جالود ف لا تد جالود ف لا ت ، حت نهى عاش مجهول بانون تاكيد تعيضر، لا يُجَلَو دَنْ لا يُجْلَوَ دَنْ لَا يُجْلَوَ دَنْ لَا مُجْلَوَ دَنْ لَا مُ محدث أسم فاعل: متبكوًذ ممجلوًذ ان متجلوَدُون متجلوَدُون متجلوَد كَمَ مَتَكَوَد مَانِ مُجَلَوَدًاتَ محدث *المجمعُ*قول مجكود مجكودان مجكودون مجاودة ممجكودة مجكود تان مجكودات

. ۳۳

بِ إِنْعَلْ مِحُونٍ وَلِإِطْهَرُ بِإِلَى بِوْمَا کی ماضی میں خط حرف یوتے ہیں ، ٹیش اصلی ک به بعین متروع میں ہمزہ وصلی فاء کلمہ اور سن کلمہ مکر رمست فأذك متطقر شااطق ال طقر مطقر اتَطِقَرُ لِتُطَعَرُ، لِيَظَفَرُ لِمُطَلَقَرُ، إِظَهَرَتَ لِتُطَهَّرُنَ ، لِيَعَ ظَهَرَنْ لِنُظَلَّهُرَتْ ، لِيَظَلَّهُ رَنْ لِيظَلَّهُ رَيْ وَالنَّبْمُ عَسَبُمُ ، لَا يَظْلَمُ وَلَا يُظُلَّهُ لا يُظَلَّهُ وَلا يُطَلَّهُ لَا تَتَكُلُقُونَ لَا يُطَهَّرُنَّ، لَا يَتَطَهَّرُنَّ لَا يُتَطَهَّرُنَّ ، لَا تَتَّطَهَّرَنُ لَا يُطْهَّرُ نُ إِلَيْطَهَّرِنْ لَا يُطَهَّرُنُ لنظر فرينه ومتطقر مطقران متطقرات -سرون ڪ مت إثبات فعل ماصى معروف ، أَتَطَعَّدَ إِتَظَعَدَوْ إِتَظَعَرُوْ إِظَفَرَوْ الظَفَرَةِ الظَّفَرَةُ عَا الْحَقَرَةُ تظهّرت إطّهُرْنُهُ الطَّعْرُبُ مُعَالًا ومُعَالًا ومُعَالًا ومُعَالًا مُعَالًا ومُعَالًا مُعَالًا ومُ إِطَّقَدِتُ إِطَّقَدِينَا بح**تِ تَفَى فعل اصْمِ محوف** : مَها تَطْقَرُ مَا الصَّطْقَرُ الح*بحي* إثبا**تِ فل** ماضى مجبول؛ أطَهَرَ أُطَهَرَ الْطَهْرُ الْطَهْرُوا أُطَهْرَتْ أُطَهْرَتَ أُطَهَرَنَ أُطَهَّرْتَ أُطَّهَرْ مُكَا أُطَّهْرُهُ ، تُظْهَدْ نَبِها الصَّلْقِدْ مِنْ الْطَهْدِينَ الْطَهْدِينَ الْطَلْقِدْ بَالْحِ**تْ مَعْنَ فَعَلْ مَاضِ جَبُولْ،** هَا الظَّفَرَ كَالطَّفَرَ **ت آثبات فعل مُضارع معروف :** يَظْهَرُ يَظْهَرُا بِ يَتَعْلَهُ وَذِنْ تَطَهَرُ أَنْ يَظْهَرُ ان يَظْهَرُ ت نَ تَطَلَّدُونَ تَطَلَّدُونِ تَظَلَّدُونَ أَظَلَّدُونَ أَظَلَرُونَ مَظْلَرُونَ مَعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَ َ يَظَهَرَانِ التَ**بْبِحِيثِ ابْثَاثَ نَعْلِ مُصْ**ارِحًا مجهولَ: يُظَهَّرُ يُظَهِّرُهُ نُ مُطَهَرٍ مُتَطَهَّراب مُطَهَّرُينَ تُطَهَّرُ مُتَطَهَّرَانِ مُطَهَّرُونَ مُطَهَّرُونَ مُطَهَّرُانِ نُظُهُ مَرْمُطَقَرُ مُجْتُ فَعْنُ مُعْارِمُ مُجْهُول ، لَدِيطَقَرُ لَا يُطَقَّدُ إِنِي اللَّهُ مُحْتَ لَقَي تأكيد بُه لَن وتُزْمِل شقيل محروف: لَنُ يَطَعَرُكَنَ يَطَهَرُكَ لَنُ يَطَعَرُوا لَنُ يَطَعَرُوا لَنُ تَطَعَرُوا لَنُ يَطَعَرُنَ لِنُ تُ كَنْ تَطَهَرُ أَنْ تَطَهَرُوْالَنْ تَطَهَدِي لَنُ رَتَطَهَرًا لَنِ تَطَهَرُ لَنْ أَطَهُو لَنْ نَظَهَرُ كَنْ أَط در معام متقبل مجهول : أَنْ يُطَهَرُ لَنْ يُعَظَّهُوَ إِنَّ يُطَهَّوُ الْنَ تُطَهَّدُ لَنْ تُطَهَّدُ ا لَنْ يُطْهَرُ نَ لَنْ تُطَهَّدُ

لَنْ نُطَهَّرًا لَنْ مُطَهَّرُوْ إِلَى مُطَهِّرِي لَنْ مُطَهَّرُ إِلَى مُطْهَرُ إِلَى مُطْهَرُ إِنَّ ت تفى تجدَّبُهُمْ وتُعْلَ مُنْظَمَ مِوْاكُ مُعَلَّقُ لَهُ مُطَعَّ الْهُ مُطَوَّدُنَ لَمُ مَطْقُدُ لَهُ ف **لام ماکررانون ن**اکردهما^{در} القرق التطقران ليطقر بان لتعا لَقْرُنَانٍ لِتُطَهَّرُنَّانٍ ث لام باكيد مابون مايد حضفه درخوا مستقبل معرو يَرَّمَنْ لَتَطَهَّرَنْ لَتَطَهَّرَنْ لَتَظْهَرُنْ لَتَظَهَّدُنْ لَتَظَهَّدِنْ لَحَقَّرَنْ لَنَظَهَرَن لمدخذ فد دنعل مستقبل مجهول؛ لَيُطَهَّدَنْ لَمُعْظَهَّدُونْ لَتُطَهُّدُنْ لَتُطَهُّدُنْ لَتُطَهُّدُنْ دُونُ لَتُطَهَّدِنْ لَأُلْمَهَّدَنُ لَنُطَّهَّدِنَ **بَحِثْ امرحاصُ موقٍ:** الطَّهَرُ الصَّعْظَةُ إِطْهَرَا الْطَهَرَنَ بح**تْ امرحاضرْ بَحَبُولَ ، لِنَظْهَرُ مُعَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُتَظَهُرُ وَالِتُهُ** . مرد الطَّقَرِي يُظَهَّرَ الْعُطَهَّرُنَ بَح**تْ المرغا سَبِ معروفَ ،** لِيَتَظَهَّرُ لِيَظَهَّرُ الِيَظَهَّرُوا لِنَظَه حت امرغاسَ مجهول؛ ليُطَهَّرُ لِيُطَهَّدُ إِلَيْطَهَّدُ الصَّطَهَدُ ليَظْهَرُنَ لِأَطْهَرُ لِنَظْهَرُ طَّهَرُ لِنُطَهَّرًا لِيُطَهَّرُنَ لِأُطَهَرُ لِنُطَهَّرُ لِنُطَهَرُ بَحَيْتُ الم*حاصر مُعروف بالون باكيد لَقِت* إِطَّلَةُ إِنَّا إِطَّلَةُ أَنِ إِظَلَةُ مِنَ التَّطَلَقُوتَ اِطْلَقُواَتِ اِطَلَقُرُ أَنَّ بَحَتْ المركاضر جمول بانون ألم لْقَبِلُم إِنَّطَهَرَنَّ لِتُطَهَّرَانَ لِنُظَهَّرُنَّ لِتُطَهَّرُنَّ لِتُطَهَّرُنَّ لِتُطَهَّرُنَانَ تُحت المغامر حروف بالوان تاكير تقيله و لِيَتَظَهَرُونَ لِيَتَظَهَرُونَ لِيَتَظَهَرُونَ لِيَتَظَهَرُ تَ لِتَظَهَرُ لِا تَلْهَرُنَّ إِنْطَعَرُنَ بِحِتْ إِمرْعَاسَ مِجْهُولٍ بِالْوِنِ مَأْكِيدَتْقَتِي لِهِ الْيُطْعَرُنَ إِيطَعَ ر لِيَعْظَهُوَ ثَنَا لِيُظَهَّرُانَ لِيُظَهَّرُنَانَ لِأُطْهَرَتَ لِيُطَهَّدُنَّ لِيُطْهَرُنَّ بِحسبُ المرحاض معرف بانون المجدخ بِإِظَهَرِنْ إِمَّاهَدِنْ بِحِ**تْ امرحاضرْجهول بِالْوَكْ تَأَكِيدِخْفِيف**ِه لِتُطَهَّرُنُ لِتُطَهَّدُنُ لِتُطَهَّدِنْ جَعْتْ امرْعَا معروف بانون ماكيد تعنيف إلينظ تكرت ليتظفرون لتظلون لأطلوك لنطقون بحس أمرعات مجهو بالون الكد حفيف، ليطَهَرَن ليطَهَرُن لِتُطَهَّرُن لِتُطَهَّرُن لِلُطَهَّرَن لِنُطَعَرُنَ سُجعت بهى جا فرم عروف ولاتَظْهُ لَدِيَطُهُرُ الدَيْطَةِرُوْ الدَيْطَةَرِي لَابَتَظَهَرًا لَانتَظَهَرُ الدَيْطَةَرُن مجعث بي ما ضرمجهول: لاَنْطَةُ دُلاَنطَةَ دَرَا لايُطَهَرُ والأَسْطَهَرِين لاتُطَهَّرُ الأَتُطَهَّرُ نَ مُحَتْ بَنِي غَاسَبَ مُعروفَ ، لاَيَطَهَّرُ لاَ يَظَهَّر

٥ لَذَا طَّقَرُ لَا نَطَقَرُ بحث منهى عامَت مجهول الأيطَقَرُ لَا يُطَعَّرُ الديطَة رُ لاَتْطَقَهُ لاَ يُطْهَرُ مَالَد أُلْمَهُوْ لَا نُطَّقَرُ لَمُخْطَةً وَ تَجْعَنْ مَنْهِ مَا صَرْمَ حروف بالون تأكيد نَفْيَلْم، لَاتَظْتَرُ عَلَ ةَرَآتِ لَاتَطَةُ مَنَ لَايَظَةُ فَكُلاتَظَةُ أَتِ لَانَظَةً رَبَانٍ محبت بنى حاصر جهول بالون الميد تقيس ا المَدْرِينَ لَا يُظْهَرُ أَنْ الْسُلْدُونَ لَا يُطْلَقُونَ لَا يُظْلَدُونَ لَا يُطْلَقُونَانِ محت بني غاسب مروف بالون مَاكِيدُهمِلِر: لَا يَطَعَرَنَ لَا يَظْهَرُانَ لَا يَظْعَرُنَ لَا تَظْهَرُنَ لَا تَظْهَرَانَ لَا يَظْهَرُنَانِ كُ ف منى عامب مج بول بانون المبدلفيله ، لَا يُطَقَرَقَ لَدُيطَقَرَآنَ لَا يُطَقَرُنَ لَا يُطَعَرُونَ لَا تُطْعَرُوا لِيَ لايطَة دِنَابَ لاَ أُطَّةًرَتَ لَا نُطَعَرُنَ بحث *بنى حاضرمع د*ف بانون نابيد خفيفر الانطَّة رُن لانطُة مُدَ ذَيْتَظَهَرِنْ سجنتْ بَنِي حاصر جهول بالون أكبير خفيف، لَا نُطَهَّدُنُ لَا تُطَهَّرُنْ لَا تُطَهَّرُن مجعت مَخْ معروفَ بانون فاكْبِدخفيفر، لاَ يَطَهَّرُنَّ لَا يَتَطَهَّرُنَّ لَا ذَعَظَهَرُ فَا لَقَهَرَنَ لَا أَطْهَرَنَ لَك مجهولَ بالوْن ماجيدتْفيغ، لَامِيطَةَرَنْ لَايَطَةَمُ كَ لَاتُطَةَّدُنْ لَا أَطَّةَرُنْ لَانُطَةَرَنْ محت *المُس* فاجل: مُتَطَهِّرُ مُطَهِّرًانٍ مُتَّطَهِّرُونَ مُتَطَهِّرُهُ مُطَيِّرُ مُطَيِّرُ ثَانِ مُطَهِّرًاتٌ بحست أتم مفعول مُطْهُرًان مُتَطْهَرُونَ مُطَهَّرُة مُتَطَهَّرُهُ مُتَطَهَّرَيَّانِ مُتَطَهَّرُاحَتُ بنجرات عل بيج از إب إيناً عُلْ مد جون ألا تكافل ، توجس بونا-مراسکی **باصی میں چی**تہ حرف ہوتے ہیں ^سیتن الی بین رائڈ یعنی مترفظ ی مثبت ثرد، ا در المسس کے بعد الفس تَشَاقِلُ سِوَاتُوْتِلْ مِنْعَاتُكُ إِنَّاقَلًا ، فَذَاكَ مُقَاقَلٌ مِمَا أَنَّاقَلَ مَاتَقُوْقِلَ، لَهُ يَتَاقَلُ لَمُ يُنَّاقُلُ الدَيَثَاقُلُ لَابِيَّكُولُ، لَنُ يَتَثَاقُلُ لَهُ يُتَّاقُلُ، لَيتَنَاقُلُنَ كَيتَناقُلُ لَيسَتَّافُلُ لَيسَتَّاقُلُ لْدَمْرُمِنْهُ، إِنَّاقَلْ لِتُنَّاوَلْ، لِيَتَّاقَلْ لِيمُتَّاقَلْ، إِنَّاقَلَتَ لِحُقَّاقَلَ مِلْيَتَّا فَكَ لِيتَّاقَلَ ، إِنَّا طَلْ لِتُنَّاقَلَ، لِيَنَاقَلَنُ لِيهُ فَكَافَلُ وَالنَّمْيُ حَنَّهُ ، لَا تَتَقَاقَلُ لَا تُتَاقَلُ ، لَا يَتَافَلُ لَا مُتَقَاقَلُ ، لَا رَبَّ اخَلَنَ لَا مِيَنَّا قَلَنَ مِلَامَتَنَا قَلَنُ لَا يُنَكَاقَلُنْ مَلَايَتَ الْفَلُنُ لَا يُتَا قَلَنُ مُ صرف حصير ف إنبات فعل ماصى معروف، إنكاقال إنمَّا قَلَد إنَّا قَلَدُوا إِنَّا قَلَتَ إِنَّا قَلَتَ إِنَّا قَلَتَ الْمَ

إِنَّادَلْتِمُوا ثَافَلْتِ إِنَّا تَلْنَبُهُ إِنَّا تَلْعَنَ إِنَّا قَلْتِ إِنَّا قَلْنَا بِح**تْ نِعَى تَعْلِ مَاصَى مروفٍ؛** مَا أَنَّذَكُو الم بحت إنهان فعل طعن محربول. أتوقيل أتوقيل أتوقيل التوقيلة م مرتبع مع مديم مع مدينا بحث ففي فعل مامن مجهول بتما الشَّوْتِلَ مَا اللَّهُ عَلَالَة محت إثبات معروب، يَشَاقُلُ يَشَاقُلُانٍ يَشَاقُلُونَ تَشَاقُلُ مَشَاقُلُانٍ يَشَاقُلُنَ تَسَسَّا حَتَلُ نَتْ عَلَانٍ تَشَاتَلُونَ مَكَّاتَلِنَ مَتَّاتَلُن مَتَّاتَلُ نِ مَتَّاتَلُ مَتَّاتَلُ مَتَّاتَلُ مُحد فَق فعل مضارع مووف يَّانَكُ لا يَتَاذَلُانِ الن بحَتْ إنبات فَع مُصارح مجول، يُتَّاذَلُ مُتَاذَلُون مِتَاقَلُون مُتَّادً اظَلْنِهُ مَيَّاتَلُهُ نُشَاقَلُ مُشَاعَلُهُ مُشَاعَلُون مُشَاعَلُون مُشَاعَلُهُ مُشَاعَلُ مُشَاعَلُ مُسْاعَلُ م الْمُصْارِيعَ مجهول، لَا مِتَّاقَلُ لَدُمِيَّ أَقَلَانِ الله بحتَ نَعْنَى مَالِيدِ بَرَنَ دُوْحِلْمُ تتقبل معروف، لَ يَحَاقَلَ لَنُ يَتَنَاقَلُا لَنُ يَتَنَاقَلُوا لَنُ تَنَتَاعَلُ لَنُ تَتَقَاقَلُ لَنُ تَقَاقَلُ لَنُ تَقَاقَلُ ل نْ تَتَآتَلِهُ لَنْ تَتَاقَلَا لَنُ تَتَاقَلَنُ لَنُ أَتَقَالَكُ نَتَقَالَكُ مُتَقَالَكُ مُحد فَقَى المرير لَن لَنْ تُشَاعَلَ لَنْ تُشَاعَلُو لَنْ يُحَامَلُو إِلَنْ مُتَاعَلُو لَنْ تُشَاعَلُو لَنْ تُشَاعَلُونَ لَن كَنُ ثُنَّا الَّذُ الَنُ ثُنَّا اللَّي ثُنَّا اللَّهُ ثُنَّا اللَّهُ ثُنَّا اللَّهُ ثُنَّا اللَّهُ ثُنَا اللَّهُ مُوْتُعُ اللَّهُ مُوْتُعُ لمُعروف، لَمَدْ يَتَنَادَلُ لَعْرَيْشَا قَلَا لَعْرَيْشَا ذَكُو الدِينَقَاءَلُ لَمُ مَتَا قَلْلا لَعُ يَشَا تَكُن لَعُرْ تَطَاعُلُ ومَتَقَافَلا لَمُرْتَشَافَكُوا لَمُ مَشَافَلِي لَمُ مَتَقَافَ لَمُ مَتَقَافَ لَمُ أَمَّاقَلْ لَمُ مَشَافَل بحسن في محدر كم فرا مفيل مجهول، لَمْ يُثَاقَلْ لَمُرْبِينًا تَلَا لَمُرْ مُتَاقَلُوا لَمُ تُثَاقَلْ لَمُ يَثَاقَلْ لَمُ مِنَاقَلَ لَدِيْنَا مَلْ لَدُرِينًا كَلَا لَرُبْعَامًا وَلَوْ الْدُرْ تُشَاعَهِ لَحِنْضَاتَلَا لَحَرْمُثَاقَلُ لَعُامَتَاتَ لَحُرُمُنَنَّاتَنَ بحست المِرْمَكِيدِانُون مَاكِيدِ تَفِيلِ وَفُحْ مُسْتَقْبَلِمُ عَدْهِ يُثَاقَلُنَّ لَيَثَّاقَلُانَ لَيُثَاقَلُنَّ لَنَتَّاقَلُنَّ لَتَتَّاقَلُانَ لَيُتَّاقَلُنَّ لَيُتَّاقَلُنّ يَّمَاعَلِنَّ لَتَشْاءَلَاً بِي لَتِسَجَّاءَلْنَا بِ لَاتَنَاءَلَنَ لَسَتَّاعَلَنُ بِح**ت لَامٍ الجدمانون الجدنغار وفعل** بول، لَيُنَا عَلَنَ لَيُسْتَا عَلَاتٍ لَمُسْاعَلْتَ لَتُخَافَلَتَ لَتُخَافَلُونَ لَمُسْتَا عَلَنَ لَتُسْتَع لَسُتَاذَكُنَّ لَسُتَّاحَلِنَ لَسُنَّا مَلَدَتٍ لَسُتَا وَلَمُنَاقَ لَا خَافَلَتَ لَنُتَّاذَلَنَ بِحسف لأم تأكيد الجرن ماكيد خَفَيه تَقْبِلُ عَرُوفٍ، لَيَشَافَلُ لَيُشَافَلُ لَتَشَافَلُ لَتَنَافَلُ لَتَنَافَكُمُ لَتَقَافَحُ لَتَشَافَلُ لَنَشَا الم روانون الجريز خبيف وربع الم مستقبل مجهول ، أيشًا وَلَن أَيْسَاً وَلَن لَشَاً وَلَن لَشَاً وَلَن الشَّا وَلَ لَنُضْاقَلَنُ بَحِ**تْ امِحاضِ مُوحْتِ ،** إِنَّاقَلُ إِنَّاظَلَا لِثَّافَكُوْ إِنَّاقَلُ إِذَا يَقَافَلُ بَحِسْ لِمُرْ عَز مجهول، يشتَّادَلْ لِسُمَّادَلُا لِسُتَّادَلُا لِسُتَّادَلُوْ لِسُتَّادَلُ لِسُنَّاذَلُ لِسُنَّاذَلُ بُحسن المرعائم من المتأدَّن

لِبَنَّافَلَالِيَتَّافَلُا لِتَتَ**افَلُ لِت**َثَّافَلُا لِيَتَّافَلُنُ لِلاَثَّافَلُ لِبَتَافَلُ لِيتَافَلُا لِيَتَافَلُوا لِيَتَافَلُوا لِيَتَافَلُوا لِيَتَافَلُوا لِيَتَافَلُوا لِيَتَافَلُوا لِيَتَافَلُوا لِيَتَافَلُوا لِيَتَافَا لَيَتَافَ لسُنَّاةَلُوَ المُتَعَادَلُ لِيُشَادَلُا لِيُنَاةَلُ لِيُنَاقَلُ لِمُتَاةَلُ لِمُتَاةَلُ بَح**ت امرحا ضرمعرَوبْ بالزن ماكيدتعبلرد** إثْآةَلُبَ ٳؿؖٲۊؘڵٳۜڣٚٳؿؖٲۊؘڵڽۜٳؾٞٵۊٙڸۼٳؾٵڎڵٳؖؿٳؽٵۊڵڮؾ*۬ؠڂؾٵڡڔڟڟڔۼۘۼۅڶؠٳڬۅ۬ڹؙڗٳڲؠڔ۬*ڷڨڸٮڐٵۊؙڶۯۜڸؚؾؚٵۊڶ لتتكافلُن لتتفاقلُن لتقاقلات ليتقاقلُنان بحث امرعام معروف بالون تأكيد تعيله: ليسوَّاقلَ ليساً قلَ المَتَاقَلُنَ لِتَنَاقَلُنَ لِتَتَاقَلُنَ لِيَتَاقَلُنَانَ لِلَاظَاقَلُنَ لِتَنَاقَلُهُ فَيَتَاقَلُنَ لِيتَقَاقَلُنَ لِيتَقَاقَلُنَ لِيتَقَاقَلُنَ لِيتَقَاقَلُنَ لِيتَقَاقَلُنَ لِيتَقَاقَلُنَ لِيتَقَاقَلُنَ لِيتَقَاقَلُنَ لِيتَعَاقَلُهُ لَعَنَّ المُعَامِ المُعَامُ المُعَامِ المُعَامَةِ المُعَامِ لِّيُنَا مَلَنَّ لِيُتَا تَلَاتٍ لِيُثَادَلُنَّ لِتُشَاحَلَنَ لِتُتَا تَلَاتَ لِيُنَا وَلُدَّا وَلُمَا تَلَنَّ لِ بالان ماكيد خفيفه، إنَّا قَلَنَ إنَّا قَلْنَ إِنَّا قَلْنَ إِنَّا قَلِنَ بِحَتْ امرحاص مجهول بالون ما كير معيضره لِنَتَّ آذَلَ لِتُتَّاقَلُ ج لِتُتَاقَلِنُ بحت امرتام بمعروب بالون ماكيد فيقده وببئاً قَلَنَ كَنِينًا قَلْنَ لِتَتَاقَلَنُ لِتَتَا يت امرغاس مجهول بالذل الكرير حقيقه ولينتَّا قَلَنُ لِينتَّا قَلَنُ لِتَقَاقَلُ لِتَقَاقَلُ لِمُنَّاقَلُ بحث بهي مروبَ ، لَدَيْتَغَاقَلُ لَا يَتَقَاقَلُا لَا يَتَقَاقَلُوا لَا يَتَقَاقَلِي لَا يَتَغَاقَلُوا لَا يَتَقَاقَلُو لَا مُتَاقَلُ لَاسْتَكْفُلُا لَا مُتَاقَلُوْ الاَتُخَاطَىٰ لَا تُشَاقَلَا لَا يُتَاقَلُنُ بَحِ**تْ بَى عَاسَبُ عروت ،** لِّدَينَتَاقَلُ لَا يَتَاقَلُ لاَبَتْ اللَوْ لاَسَتَاقَلُ لاَسَتَاقَلُا لَا يَتَاقَلُ لَا اتَقَلْ لاَ مُتَاقَلْ لا مُتَاقَل لا يُتَاقَل الله يُعَام عَلَي مُعَام عَلَي مُعَام عَلَي مُعَام عَلَي مُ ار متاخله الأمتاقل لا متاقلا لا متاقل لدامة على لا متاقل بحث بي ما صروف بالون تاكير في لم كَنَتْ قَلَنَ لَا مَثَاقَلُونَ لَا يَثَاقَلُ لاَ يَتَاقَلِنَ لا تَقَاقَلُونَ لاَ تَقَاقَلُونَ لاَ تَقَاقَلُونَ ل الحيد نفيل مركز المركز الم مروت بانون ماكير فيله ، لايتًا قُلْنَ لايتًا قُلُاتٍ لايتًا قُلْنَ لا يَتْأَعَلْنَ لا يَتْأَعَلَنَ لا يَتْأَ قُلْ لَدَا يَأْقُلُنَ لَا يَشْاقُلُنَ بحسن من عاسَب مجرول بالون ناكير تقيله، لا يَشْاتَكُنَ لَا يُتَأَتَكُ فَالَيْنَ لَا تُتَّاطَلَنَ لَدُنْتُ اَوَلَانِ لَدِبُتَّا قُلْمَانِ لَا مُتَّاطَلَتَ لَدَ مُتَّاطَلَتَ **بحث بني حِاضر مروت** بالو**ن ما يجد** خفيف، لاتَتَبَا عَلَنُ لاتَتَا عَلَنَ لاتَتَا عَلَى لا بَعَتْ تَعَلَى لَمُ عَصْ مُحْمِد المَرْجَعِيول بالون الكير خفيف، لا تُتَبَا قَلَن لاَيْنَا قَلْنُ لَاتُتَنَاقَلِنُ بحث بَهِي عَاسَب معروف بالون مَا يُحد فَقيفه، لاَيتَ أَقَلَنَ لاَ يَتَأَقَلُنُ لاَ لَذَا ثَاقَتَنَ لَانَتَاقَلُنُ مجمعتُ بِمح عاسَب مجهول بالولن تأكير في فرد لايتَ لَذَانَ لَدَيْتًا قَلُنْ لَدَا مَتَاقَلُنْ لَدَا مَتَاقَلُنْ بح**مت الممارك،** مُتَّاقِلٌ مُتَّاقِلَانٍ مُتَّاقِلُون مُتَّاقِلَة مُتَّاقِلَة مُتَّاقِلَة مُتَّاقِلَة كُمُقاقِلًة مُتَاقَلَانٍ مُتَاقَلُون مُتَاقَلَة مُتَاقَلَة مُتَاقَلَتَانٍ مُتَاقَلُك بکی ۔ و بہان تک نُو باب نُلاقی مزید فیر ہا ہمزہ دُس کے ختم ہو گئے - آگھ پاریخ باب بے ہمزہ دخس کے دکر کے جاتے ہی ۔

لان مزيد في بي بيره وُصل كے يا يخ باب بيد بي ، لحل نُلَاتي مزيد في من ارباب إفعال - حَوَّل الإكْر المر، عَرَّة كرنا ي**علامة** س کی اصلی بین جیسٹ ار حرفت ہوتے کی، ایک زائد تیعنی منتروع میں ہمز ہ قطعی يحتجرم المرامًا وفَهُو مُكْرِدُ وَأَكْدِم بَكُرُم إِكْرَامًا وَلَاكَ مَكُوم - مَا أَكُونُ لَعُرْبَكُومُ ، لَامَكُومُ لَانْكُرُمُ ، لَنْ يُتَكُوم لَنْ يَتَكُومُ ، لَيَكْرُمَنَّ لَيُكُرُمَنَّ ، لَيُكُرِمن لَيكُومَنْ أَلَقُومُومًا تَكْرُمُ بِلِيكُومُ إِيكُومُ ، أَحِيدُومَنَ لِتَكْرُمَنَ ، لِيكُومَنَ لِيكُومَنَ ، أَكُومَنُ لِتُكَرُمَنْ ، الم وَأَرْمَنْ وَالْبَعْنَ عَنْهُ ، لَا يَكُومُ لَا يُكُرُمُ ، لا يُكُومُ لَا يُكُرُمُ ، لَا يُكُومِنَ لَا تُكُرمنَ ، لا يُكومنَ لا يُكومنَ ، لامكرين لأتكرمن ، لا يكرمن لا يحسب وَمَنْ الطَّرْبُ مِنْهُ، مُكْوَمَ مُكُومًا فِكُرِمَان محت إبات عل العنى معروف: اكْمَامَ أَصْحَدَمَا الْمُوْمَوْ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدَ الْمُحْمَدَ الْمُ اكومنتفراً كمومت المومين المومن المرمن المومن المومن بحث في فل صى مروف : مَا المُومر مَا المرع التي محت إثبات فعل ماضى جهول: أكَمِ مَراحَظِهما أكَمِ مُوْا أكْيِعَوْ الْكَيْمِتُ أَكْمِهُ مَا أَكَمَةٍ مُ الْأَدِمُ الإخت الكرمية الكومين الكيمين اليمين الحيث المحث فعي فعل ماص مجهول، مآ الكيمة الكريمان مجمت إنبات فعل مُعْماري معروف : يَكْدِمُ يَكْمِهان يُكْرِمُونَ تَكْدِمُ تَكْمِهان يُكْمِنُ تَكْمِدُ تَكْدِمُونَ تَكْرِمُونَ تَكْرِينِ يَرْمَان مَكْرِمْنُ أَكْدِمُ مَكْدُم بحث تعى فعل مفاري معروف ، لَا يُكْدُمُ لَا يُكْدِمُ النابخ بحث إثبات فعل تصاري مجرول: فيكرم بكرمان بكرمون تكرم بكرمان بكرمان بكرمن نكرم بكرمان مكرمون مكرمون مكرمون مكريّان بكرمن أحترر مصحرت محت تفى فعل مضاري مجهول ولد يستدم لا يحتركان العركمة لعى تأكيد مركن وفع المستقب معروف وكن يحرم كن يكوما كن يكومو كن تكرير كن تكرير كن تكرير كن تكريرًا فن يكويت كَ مُكْرِمَ كَنْ تُكْرِمَا كَنْ تُكْرِيمُوا لَنْ مُكْرِيمُ لَنْ تُكْرِمَانَ تُكْرِمَانَ تُكْرِمَ كَنْ أكْدِم كَنْ تُمْصِيرِ بم محتفق تأكير رَبِّلَ د فعام متقبل جيول الذيكريم من يكريما من تكريما من تكريموا لن تكرم من مكريما لن يكرمن بن تكرم من مدير م كَنْ تُكْرُمُوا كَنْ تُكْرُبِي كَنْ مُكْدِمًا كَنْ تُكْرَمُنْ كَنْ أُصْحَرَمَ كَنْ تُكْرُمُ مجمعت كَفَى حُكْرُ بكُم ورفعل مُستقيل موف لَمَرْتِكُومُ لَعَرْبِيكُوما لَعَرْتِكُومُ لَعَرْتُكُومُ لَعَرْتُكُومُ لَعَرْتُكُومُنَ لَعَرْتُكُومُ لَعُرْتَكُومُ لَعُرْتُكُومُ لُعُرُومُ لَعُرْتُكُومُ لَعُرْتُكُومُ لَعُرْتُكُومُ لَعُرْتُكُومُ لَعُر

لَمَ مُكْمِةٍ عَنْ لَعَرْ أَكْدِمْ كَمُدَيمَةٍ تَجِب**َ نَعْنَ حَبَرَتِهِ لَمُ ورنعان مُسْتَعْبَل حجبول :** مَعْ مَكْرُمُ لَعْرَ فَكُرُمَةً لَعَرْ تَكُرُمُ الْعُدْ تَكْرُم لَحْتِكْمُ مَا لَمُ يَكُومُنَ لَعَ تُكْرُمُ لَهُ يَكُرُهُ لَمُ تُكُمُ أَلَوْ تُكْرُمُ لَمُ تُكُرُمُ مُحسب لام ماكيد بالون ماكيد تقيلة ومعلم منتقبل معروف ، كَيْكُرِمَنَّ كَيْكُرِمَنَّ كَنْكُرُمَنَّ كَتْكُرِيَّنَ كَتْكُرِيَّانَ تَبْكُرُ مِنَّ لَتَكْرِيُّونَ كَتْكُرِيَّانَ تَبْكُرُ مِنَّ لَتَكْرِيُّونَ لَتَكْرِيُّونَ لَيُكْرِيُّنَانَ لَيَّكُمِنَ لَتَكْرِمَا فِلَتَكْرِمُنَ لَتَكْرِمِنَ لَتَكْرِمَنَ لَتَكْرِمَا فَي التَكْرِمُنَانِ لَا مَتَحْدِمَ ستقبل مجبول؛ ليكرمن ليكرمان ليكرمن ليكرمن لتكرمان ليكرمان ليكرمان تكرمنات ليكرمن لتكرمان لتكرمن ٱحكرُونَ ٱلمكرُمَانَةِ مَتَكرُمُنَانَةِ لَأَكْرِينَ مَنْكُرُمَنَ بمحت لام ماكيد بابون الكروفي وفعلم سنقبل معروف البرين ٱبكرِيُنَ لَتَكْرِينَ لَتَكْرِينَ لَتَكْرِينَ لَتَكْرِينَ لَا كَبِينَ لَلْكُونَ لَلْكُرِينَ لَلْكُرِينَ لَكُونَ مجهول، كَيْكُرْمَنْ لَيُكْرُمُنْ لَتَكْرَمُنْ لَتَكْرُمُنْ لَتَكْرُمُنْ لَتَكْرُمُنْ لَكُرْمَنْ لَكُوْمَ مَح ف الم ٱلْدِيَالَةُ وَعَوْا ٱلْمَدِينَ أَحَيْدُهُا أَصَحْدِمْنَ محمت المرحاض محمول: لِنُحْتَدَمَ لِنُكْرَ مَا لِتُحْتَرُهُوْ الْمُكْرَدِي لِنُكْرُ مُمَا لِتُحْدَثُ سَجِعْتُ امْرْعَا سُجْعُرُوفَ، لِيُكْرُ إِيكُوْمَا لِيكُومُوا لِتُحْضُمُ لِتُكْرُمَا لِيكُومُن لِأُحْشُرِم ليتحصير بمبحت امرغات مجهول ويفائز مريفت الميكر متوالفكرم وتكريما يفكر من لأكرم وتلكرم بحت ماضر معروف بالون ماكيد نفيب ، أكَذِبَنَ أكَذِبَنَ أكْثِمَانِ أكْثِمِنَ أكْثِمِنَ أكْثِمَاتِ أكْثِمَنَا في محت المرحاص مجهول بانون تأكيد لغيله ويشكرمن بشكر مآت لشكرمن لتكرين يتكر مآت يشكر متآت مخت امزعا تسب روت بالون ناكيد فقيله ويكرمن ليكرمن بكرمن لتكرمن لتكرمن بتكرمات ليكرهنات ليكرهنات لأتحر من لينت ومن بحت إمرامت مجهول بالون ما كيدر فيدر وبكريمن ليكومان يبكر من الشكر من الكرمان الكرمان اليكر مناب الدكر من إِنْهُ يَهُنَّ بِحدْثُ امرِ العرمعروف بالون ماكبد تعنيف، أَصْحَدِهُنَ أَكْدِينِ مُحبُّ المُواصر تجهول بالون ما بيرخفيفه، يشكوكمَنْ لِمُصَحَدَمَنْ لِيَكُونُ مُحِتْ امرْعَامُ معروف بانون ما بيرخيف، لِيكُومَنْ لِيكُومَنْ يتكُرِين لِأكْرِمَنْ لِمُكْرِمَنْ بحسن امرغائب مجهول بانون تأكيد تعنيف، لِيكُوْمَنْ لِيكُوْمَنْ لِتُكُرْمَنْ لِا تُحَدَّمَ ېنىشىخەت بىمىت نېپى **جاھزمىم د**وت، لاتىتى قالەتىر مالاتىر مەللاتىر مى لاتىر مى لاتىر مەلكەت كېرى قاھر مجمول وتد تكرَّمُ لا تكرُّمًا لا تكرُّمُو الديم تربع لا تكرُّب لا تكرُّمُن محيث مجي عا مُبْم وف ، لا يكرم لا يكرما لَا يُجْدِعُوا لَا تَكْمِ مَا لَا يُكْرِمَا لَا يَكْرِمُ لَا لَكُومُ لَا لَكُومُ كَا لَكُمْ مَحْدَثْ فَاسْ مُجْهُول المُرْكُمُ لَا يُكُرُمُ فَا لَا يُحْدَثُنُوا لَا تركرة لا تكويما لا تكرمن لا المؤمرًا لا تكرم تجت بني حاضر معروف بالون تاجير فيند المتكيف لا تكريمات لا تَكْمِسْ لا تكْمِسْ لا تكْمِيمَان لا تكرِيمَناكَ بحث به حاصر مجهول بالون ماكيد تقيله : لَدَيْ تَكُوبُنَ لَا تُكْدِما بَن لانكرمن كد تكرين لا تكريمان لا شكر من آن بحث بنى عامت معروف بالون ما جد لقيله ، بك يُكْمِينَ لا مِكْمِماً نِ لا مُكْمِمَنَ لا تُكْمِينَ لا تُكْرِمَانَ لا يُكْرِمْنَانِ لا أكْرِمَنَ لا مكرِمَنَ بحش كما

مجهول بانون نامي رفقيله، لا يكرمن لا يكومان لا يكرمن لا تكرمن لا تكرمان لا تكرمان لا يكرمنان لا اكرم لذي يحت بني حاضر مروف بالون ماكيد خفيف ولا تكرمن لا تكومن لا ترجو من الا ترجو من بحث بني حاضر مو بالون تاكيد خضبفه، لأنكر مَنْ لا مُتَكْرَمُنْ لا مكرر في محت بنى عام معروف لم نون تاكيد من عنه ولا يكرمت لايي من لا يومن لا أكرمن لا أكرمن لا يومن لا يحت بحا مات مجهول بالون ما كي تر منعد لا يكرمن لا يكرمن لا تكرين قدة كوي كوككرمن محت أحم فاعل، مكرير مان مكريمان مكرمون مكريرة مكريستان مكريماً على محت تفجيش في يوك التصريف الجمييرا ي كدايس ما منى مي تجار حرف بوت بي - تين أملى، علامتر اسس ماب جی بہ ۔ بني عين حَرَبَ يُصَرِّي تَصْرِي يُفًا . فَهُو مُصَرَّي فَ وَصُرِّ فَ يُصَرَّ فَ تَسْرِي يُفًا ، فَذَاكَ مُعَتَّى فَ مَعَاصَتَ ف مَاصِينَ، لَمْ يُصَيِّى لَمْ يُصَيَّى فَيْ الْدَيْصَيِّ فَ لَا يُصَيِّى فَ الْنَ يَصْرَفَ لَنَ يَصْرَفَ كَ لَيْصَمَّ ذَنَّ ، لَيُصَبِّي فَنْ لَيُصَبَّ فَنُ ٱلْأَمَرُمِينَهُ؛ حَرّى فَ لِتُصَبَّ فَ لِيُصَبِّ فَ لِيصَ لرَّصَرَّ فَنَ المِصَرَافَنَ لِمُصَرَّافَنَ ، صَرَافَ لِيُصَرَّفُ لِيصَرَفُ لِيصَرِّ فَنْ لِيصَرَّفُ وَالنَّفَى عَنْهُ ، لَا يُصَرِّفُ لَدِ مُصَرَّفٌ ، لَا يُصَرِّي فَ لَا يُصَرِّى فَنْ لَا تُصَرِّ فَنْ لَا يُصَرَّ فَنْ لَا يُصَرِّ فَنْ لَتُصْرً كَرْيَصْرْفِنْ لَا يَحْتَى فَيْ أَنْظُرُونُ مِنْهُ ، مُعَتَرُفْ مُعَتَرْنَان مُعَتَرْفَات -مس اثبات فل مامنى معروف ، حَتَوْف صَرَّف مَتَوَفَّوْ اصَرَفْت عَتَرَفْتَ عَتَرَفْتَ اصَرَفْنَ عَتَرَفْت صَرَّفَ صَرَّنْهُ مُصَرَّنْتُهُ صَرَّنْتُهُمَا صَرَّفْتَنَ صَرَّفْتُ صَرَّفْنَا بحث نعى فعل أصلى موقف كماصَرْف عاصرًا الغ ف إنبات فعل ماصى مجمول ، صُرِينَ صُرِنَا صُرِينَ المُرِينَ المُرِينَ صُرِينَ صُرِينَ صَرِينَ مُوَرِينَ بقت مَزْدِنْهُما صَرِفْتُنْ هُرَيْفٌ صَرِيفًا محت تَفَى تعل ما صنى تجهول ، مَاصَرِفَ الله محت البرا فرا مُضارع معروف؛ يُصَرِّفُ يُصَرِّفُ ان يُصَرِّفُ نَ يُصَرِّفُ نَ يُصَرِّفُ نَصُرَّفُ نُصَرِّفُ نُصَرِّفُ تُصُرّ مر . تصرفون تصرفون تصرفار تصوف أصرف ففر محف فعل مصاح معرو ملاي الشير المقرف المربع الم المساح المحفار مجهول، يُصرف يَصَرَّدُانِ يُصَرِّفُونَ تَصَرُّفُ تُصَرِّفَانِ يُصَرِّفْ تُسَرِّف تُسَرِّفانِ تُسَرِّفُونَ تُصَرِّفِينَ تُصرّفانِ تُصرّفن

يَمَرَفُ مُصَرَّفًا مُجت تفى **فعل مُضارت مجهول؛** لَا يُصَرَّفُ لَا يُصَرَّفُ إِن الله **بحت نفى تأكيد رُب**كُنْ در فعل متقبل معروف: مَنْ يَعْبَرُفَ مَنْ يَعْبَرُوا مَنْ يَصْبَرُهُ إِنَّى تَصْبَرُفُ مَنْ يَصْبَرُوا مَنْ تَصْبَرُوا مُ تُصَرِّفٍ لَنْ تُصَرِّفًا لَنْ نُصَرِّفْ لَنْ أُصَرِّفَ لَنْ نُصَرِّفَ لَمُ نُصَرِّفَ مُح**تَظِق الجَدِرُن وَرَصْ سَتَغَبِلَ مُحولٍ :** لَنُ يُصَرَّفَ لَنُ يُصَرِّفًا لَحِيه فِكَالُمُ يُصَرِّينَ لَنْ تَصَرِّفَ لَنْ تُصَرِّفُا لَنْ تُصَرِّفُوا لَنْ تُصَرِّفِ لَمُ تُصَرِّفَا كُن تُصَرّ ت تفى تجاريم ورفعا مستقبل معروف، كمُرْعِضَ المُرْعِصَرِفَ لَمُرْمِصَرِفَ المُرْتَصَرِفَ لَمُرْتَصَرِفَ لَمُ يَرْمُعْالَمُ مُعَرِّبًا فَمُنْصَيِّدُ أَصَبِي أَمَرَ أُصَبِيتَ لَمُرْ مُصَبِّحَةً لَعْ مُحْدَكُم وَمُولَ مُسْتَقْص مُجول المُولِيصَرِّخ ڵۯڡؙڡۜڗڣؙۅٵڵۄٛڹۜڝۜڗڣڵۅ۫ڹڝڗڣٵڵۄؙڹٛڝؘڗؖؿ؆ۘڵۄؾؖڝۜۯڣڵۿڹۜڝڗڣٵڵڡۯڡڞڗڣۅٵڵۄڹڝڗ؋ۣڮڵۄ۫ڹڝڗڣڵۄ۫ڹڝڗڣڹڵۄٵڝڗڣڵۄؖ^ۥڶڝڗڣ لْإِلَى لَيْعَادُ لَمَ الْعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ عَامَةً عَامَةً عَنَيْفَةً عَامَةً عَنَيْنَ الْمُعَادِ فَ المستوفّات كمصرّديني كمنصرّرين كتصير فاتي كمنصرّ نناتي كأصرّف كمنصرّون المصرّون بح**ت لام ماكيد بالون ماكير لحبيد وزم** المُعَلِّمُ مَجُولَ، لَيُصُرَّفَنَ لَيُصُرَّفَانَ لَيصُرَّفَنَ لَتَصْرَفُنَ لَتَصْرَفُانَ لَيُصَرِّفُنَانَ لَتُصَرَّفَانَ بِصَرِّفَنَ لَتُصُرَّدِينَ لَتُصَرَّفًا بِي لَتُصَرَّفُنَانِ لَا مُصَرَّفَنَ لَنُصُرَّدَنَ بِح**تْ لام الكِد الون تاكِيرُ غَيف در** منتقبل معروف، ليصرّون ليصرّون لتصرّفن للصرّون للصرّون لتصرّفن لتصرّون لدمرّة، للمرّدن لنمير فن معرف ما كرمان ما كر معني ورفعل مستقبل جمول ، كم تحقق في كم ترفن كم تحريق كم تعريق كما تعريق كما تعريق كم لَدْصَرَيْنَ لَنُصَرَّفَنُ بَحَسْ امرِ الْمُرْمِرُوفَ ، حَتِيتَ صَبِّخَاصَةِ فَخَاصَةِ فَيْ صَرِّفَ صَبِّدَنْ بحت مُرْكُمْ مجرول، إيْصَرَّف لِتُصَرِّفَا لَيْصَرِّفُوا لِيسَتَرَّفِي لِنُصَرّْفَ لِتُصَرِّفُ كَحسْ امْجَاسَ محوف، لِيصَرِّف لِيُصَرِّفُ لِيُصَرِّوُ إِلَيْصَرِفَ لِنصَرِّوْ الْمِصَرِّوْنَ لِأَحَتِرِفَ لِنُعَرِّفَ لِنُعَرِّفَ مُحت امرْكَامُ مَهُولٌ، لِيُصَرِّفَ لِيصَرَّفَ لِيصَرَّفُ لِيصَرَّفُ لِيصَرَّفُ لِيصَرَّفُ لِيصَرَّفُ لِيصَرَّفُ لِيصَرَّفُ لِيصَرَّفُ لِيصَرِّفُ لِيصَرِيفُ لِيصَرِفُ لِيصَرِفُ لِيصَرِفُ لِيصَرِّفُ لِيصَرِّفُ لِيصَرِّفُ لِيصَرِيفُ لِيصَرِيفُ لِيصَرِفُ لِيصَرِفُ لِيصَرِّفُ لِيصَرِّفُ لِيصَرِّفُ لِيصَرِيفُ لِيصَرِيفُ لِيصَرِي لِيصَ لِيْصَرَّبْ لِنُسَرَّفَا لِيُصَرِّفِنَ لِأُصَرَفَ لِنُعَتَرَتْ مجعتُ امرِ حاصْر مروض الون الجيدُتُقيل، حَرَفَ عَرَفًا تِنَصَرَق عَرَضَ حَبَرِذَاتَ حَبَرِذَاتَ بحن المرحاض جمول بالون الجيد تقبله ، لِتُعَرَّفَنَ لِتُعَرَّفَاتِ لِتُعَرَّفُنَ لِتُعَرَّفَنَ لِتُعَرَّفَنَ لِسُرَّخَاتِ لِيَسَرَّنُانَ مِحْت امرغا تَب معرُوف بالون الجيرُفيل، ليمترفنَ ليصَرِفاتِ ليمتريفنَ ليصرِفات لِيُمَكُونُونَ لِيمَرِفُنَاتَ لِأُمَتَرِفَنَ لِنُصَرِّذِي بحث امرا رُجهول بالون بالكُلْقيلم، لِيمَتَرُفَنَ لِيمَدَفَاتِ لِيعُدَفْنَ لِتُمَرَفَنَ لِتُعَتَّرُفَآتِ لِيُعَتَّدُنْنَاتِ لِأَحَدَّنَ لِنُعُدَّنَ مُحت المرحاص مرحوف بالون تاكير تعييم، حَترف حترف متردن محت امرحاصر جميول بالون ما يجد تفيضر التُصَرَّفَن لِنصَرَّفُ لِتصَرَّفِن الصَّرَّفِين محت امرعات معروف بالون ماكيد **خفيف،** لِيُعَتِرِنَنَ لِيمُنَتِرِهُنَ لِيتُصَرِّمِنَ لِيُصَرِّدُنَ لِنُصَرِّعَنَ بَحستُ امرْعا سَبْطِجهول بالون تأكيد خفيظ لِيُحَدَّفَنَ لِيعَدَرُقُ لِمُعَرَّفَنَ لِنُعَرَّضَ لِنُعَرَّفَنَ لِنُعَرَّفَنَ بِحِتْ بَح عَرْبَح مُعروف، لانتُعَرِّفَ لائتَقَرِّفَا لَاتِقَ لاتفر في لا تفر فالأشر في محت في ماصر مجهول الاقصر في لا تصرُّف لا تصرُّف لا تصرُّف لا تصرُّف لا تصرُّف لا تصر نُصَرَّفْنَ مجدت جي عامَب معروف ؛ لَا يُعَتِرِفَ لَا يُصَرِّفُ لَا يُصَرِّفُ لَا نُصَرِّفُ لَا نُصَرِّفُ لَا أَ

لاَ نُصَرِّفٍ بحسن بني غامب مجبول؛ لاَ يُصَرَّفَ لَا يُصَرَّفَ مَا لَا يُصَرَّفَ هُوْا لَا نَصُرَّفَ لَا تُصَرَّفُ لَا أَصْرَفَ فِ جن محاصر محروف بالون باكير تعليم ، لاتُصرّ مَن لاتُصرّ فَي لاتُصرّ فَان لاتُصَرّ فَي لاتُسَرِّفِي لاتُعَرّ فا نَانَ بحث نَبْى حاصر جَمول بانون ايد تقيد ، لاتفتر في لا نصر فار تكر في لا تُعرّ في لا تُعرّ في لا تُعر فار وَيْنَا بِجِتْ رَى عامَ معروف بالون ناكيد تقيله، لا يُجترِدُنَ لا يُعترِدُنَ لا يُعترِدُنَ لا يُعترِدُنَ لا يُعتر آتِ لَدُ أُصَرِدَنَ لَا مُعَرِّدَة بحث منهى عامت مجهول بالون ما بجد تقييله، لَدَيْهُ مَرْدَة لَا يُعْتَرُذَاً ت دِنَّهُ لَا يَصَرِّفَانِ لَايمَة رَفْدًا نَ لَا أَصَرَّفَ لَا نُصَرَّفَنَ مجمِت بَنِي ما صرم وق بانون ما يجد خصيط، الاَصَرَّفَ لاتُحَرِفْ كَدِيْصَرْفَ بِحِ**تْ بَهِي حاصر مجهو**ل بالون ناكب خفيفر، لاتُحَرَّفَ لانصَرَح لاتُحَرَّف كَدَيْ فاسم محروف بالول ما يرد فيعد ولايمترفَن لا يُمترفن لا تُصَرِّفُ لا تُصَرِّدُن لا أُصَرِّدَن لا يُسترد في محت بهي عام تجمو بالون تاكير خفيف، لا يُصَرِّف لا يُصَرِّف لا تُصَرِّف لا أَصَرَّف لا أَصَرَّف لا يُصَرِّف محت المجمع ف العل ، مُصَرِّف مصرِّفَانِ مُصرِّفُونَ مُصرِّفَة مُصَرِّفَة مُصَرِّفَتَانِ مُصَرِّفًا في محسن المحمقة محارف مصرفون مصرفة م مُصَرِّكْتَانٍ مُصَرِّفَاتٌ -ب**ئوم هُفَ**اعًا ک صغير عل تلاتي مزيد في صحيح إزباب محسب عليه جوْل أكمَّقا تلكه م بابه الرائي كرا، سَ باب بي بير سب كماسي الفي مين جار حرف بوخ بين نين الني المريضي در مري الف حَاتَلَ مُعَايَلُ مُفَاتَلُهُ فَمُوْمَعَايَلُ وَقُوْتِلَ عُمَاتًا فَمُقَاتَكَةً فَذَاكَ مُعَاتَلُ مُعَاتَلُ مَا فَوَتِلْ ، لَمُ يُعَايَل لَسُ يفَاتَلْ، لَا يَقَاتِلُ لَا يُعَامَكُ لَنْ يَقَاتِلُ لَنْ يُقَاتَلْ لَدُقَاتِلَنَّ لَدُقَاتَكَ أَلُهُ مُعَرَم بُرُم : قَا سِلْ لِتُعَامَلُ ، لِيُعَابَلُ لِمُتَاتَلْ ، قاتِلَنَ لِمُقَاتَلُنَّ ، لِيقَاتِلَنَّ ، لِيقَاتَلَ ، مَا تِلْ لِيُقَاتَلُ ولِيفَاتَلُ ، ۘۘۘۅٞالتَّفَى عَنْهُ ، لَاتُعَا<mark>َبِلُ لِانْعَامَلُ ، لَا</mark>يْعَادَلُ **لا**يْعَامَلُ مَلَائِقَاتِلَنَّ لَا يُقَابَلَنَ لا يُقَابَلَ لَا يُقَابَلَ اللهُ لاتْعَاتَلُنْ، لَا يُقَاتِلُنْ لَا يُعَاتَلُنْ أَوَظَرْتُ مِنْهُ، مُعَاتَلُ مُعَاتَلُ مُعَاتَلُ عُمَا بحث إثبات فعل ماضى معروف و قاتَلَ كَابَلَة بَانَكْ فَاتَلْتُ فَاتَلْتُ فَاتَلْتُ عَاتَلْتُ عَاتَلْتُ عَاتَلْتُ تَحَاتَكَتِ كَاتَكْتُهُمَا قَاتَكَتْنَ كَاتَكَتْ كَاتَكْنَا بحث تَعْى فَعْل ماضى معروف ، ماتَاتَكَ مَا تَاتَكَ الذ بحبث إنباب فعل ماصى مجهول، قودين مويلا فويلوا فويلت مويلنا توريلاً مويلت فويلت فويلت المويلية المويلية فريله تُحد تِلْنُ تَدُ تِلْتُ تَدُ تِلْتُ المحت لغى نغل ماصى مجهول ، مَا تَوْ تِلْ مَاتَوْ يَلا الله بَجَت إشات فعل مُضارك

مروف، مُقَاتِلُ مُقَاتِلاً مِعَاتِلُونَ مُعَاتِلُونَ مُقَاتِلاً مُقَاتِلاً مُقَاتِلاً مُقَاتِلاً مُقَاتِلاً مُقاتِلاً مُقاتِلاً مُقاتِلاً مُعَاتِلاً مُ يَفَاتِكْنُ أَقَاتِلُ نُقَاتِلُ بحن نفى عن مُصارح معروف ولايتاتِلُ لَا يقاتِلُ بِالدِم حت إثبات نعسرً مُصْارِح مجمول ، يُعَاتَلُ بِعَاتَلُانٍ يُعَاتَلُونَ تُتَاتَلُ تَعَاتَلُ مُعَاتَلُونِ يُعَاتَلُ مُعَاتَلُه وَ تقاتلان تُعَايَلُ أَحَادَكُ نُقَادَك بحت ففى فعل مُضارع جمول الديقات لايتاتلان الد بحت فق الج **بركن درفع المُستنقب معروف ؛** لَن يُقَاتِلَ لَنُ يُقَاتِلَا لَنْ يَقَاتِلُوْا لَنْ تُقَاتِلُ لَبْ تُقَاتِلًا لَنْ يَّقَاتِلُ لَنَ مُقَاتِلا لَنْ تَقَاتِلُوْالَدْ تَقَاتِلِج لَنْ تُعَاتِلا لَنْ تَقَاتِلْ كَنْ أَحَاتِل لَنَ تَق بل جهول ، أَنْ يَقَامَلُ لَنْ يَقَامَلُ لَنْ يَقَامَلُ لَنْ يَقَامَ تَلُو إِلَى تَقَامَلُ لَنْ يَقَامَلُ لَن ت نْ تْقَاتَكُوْا لَنْ تْعَاتَلُى لَنْ يْقَاتَلَا لَنْ نْقَانَكْنَ لَنْ أَقَاتَلُ لَنْ تْقَاتَلُ بِحِتْ فِي جُرْرَبِكُمُ درفعل مستقبل محرف كَرْيُقَاتِلْ لَرْيُقَاتِلا لَعْرُيْقَاتِلُوْ الْعُرْتَقَاتِلْ لَعُرْتَقَاتِلَا لَمُ يُقَاتِلْنَ لَعُرْتُقَاتِل كَرْتُقَادَلُا لَعُرْتُقَادِلْ كَرْأُمَّادِنْ نَعْرُنْغَانِي بحت نَفَى تَجْرَبُهُمْ دِنْعَامُ مُسْتَقْبِلْ مجهول، لَدْيُقَاتَلُ لَعَدَيقًا تَلَا لَعُر مِقَانَلُوا لَعُرْتُقَاتَلُ لَعُرْتُقَاتَلُا لَعُرْتُقَاتَلُ لَعُرْتُقَاتَلُ لَعُرْتُقَاتَلُ لَعُرْتَقَاتَلُوا لَعُرْتَقَاتَلُوا لَعُرْتَقَاتَلُوا لَعُرْتَقَاتَلُ لَعُرْتَقَاتَلُوا لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتُقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتَ لَعُرْتَقَاتُ لَعُرْتَقَاتُ لَعُرْتَقَاتُ لَعُرْتَقَاتُ لَعُرْتَقَاتُ لَعُرْتُقَاتُ لَعُرْتَق ٱحَاتَلُ لَهُ نُقَاتَلُ بحث لام تكَي*د بالذن تاكيد تْعَبْلُه فِعْلَمُ سَتَقْبِلُمُ حُوف* ، لَيُقَاتِلُنَّ لَيُعْتَاتِلُنَّ كَتْعَاتِلُنَّ لَتُعَاتِلُانِ لَيُقَانِلُنَاتٍ لَيُقَاتِلَنَّ لَتُعَاتِلُ لَتُعَاتِلُ لَتُقَاتِلُ لَتُقَاتِلِنّ لَا حَاتِلَنَ لَهُ مَا يَكُنَ تَبِحَيْتُ لاَمٍ مَا كَمَدْ بَابْحَدُ مَا يَكُذُ تُعَبَّدُهُ مُنْفَقَل مُعْمَول ، لَيُعَا تَكَنَ لَيُعَا تَلَا يَ كَيْطَانَكُنُّ لَتُقَاتُكُنُّ كَتُقَاتُلُوْ لَيُعَتَّاتَكُنَّاتِ لَتُقَاتَكُنَّ لَتُقَاتُكُونَ لَتُقَاتِكُنَّ كَتُقَاتُكُو مَتّ لَتُعَالَكُ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَكُمُ المُحدانُ المُدافِق المُسْتَعْبِل معروف ولَيُقَاتِكُ لَيُقَا تِلُنُ لَتُقَاتِلُنُ لَتُقَاتِلُ لَتُقَاتِلُ لَتُقَاتِلِنَ لَاُقَاتِلِنَ لَاُ قَاتِلَ لَمُقَاتِلُ *بِحِتْ لاُ الكِدِيانُون قاكِيرُغَبُ* وتعلم ستقبل مجهول وكيفانكن ليقاتكن كشقاتكن كتفاتك كتفاتك كتفاتكن كتقاتل كوتاتك كنقاتك كنقاتك بعث اضرم وف، قاتِلْ قَاتِلَة اعَاتِلْوَ اللهُ عَاتِلَي حَاتِلَا حَاتِلَ كَاتِلْ بِحَتْ لِمُرْحَاضَ مُجْهُول النَّقَاتَلَ لِتُعَاتَلَ لِتُقَاً تَكُوْا كَتُمَّاتَلِي لِتُقَاتَلَا لِيُقَاتَلُ بَحِمَتُ مرْعَامُ محوف لِيُقَاتِلْ لِيُقَاتِلُا لِيُعَاتِلُوا لِتُقَاتِل لِتُعَاتِلا لِيُعَاتِلْنَ لِمُعَاتِلَ بِمُعَاتِلَ بِحسنُ مرْعَاسَ جَهْول، لِيُعَاتِلْ لِيُعَاتِلُ لِيُعَاتَلُو التُعَاتَلُو لَيُعَاتَلُو لِيتَاتَكَنَ لِاحَتَاتَى بِنْعَاتَكَ سَجِعت المرحاص معرَوف بانوَن ناكُيدَتْق لد، خَاتِكَ تَاتِكَتِ تَاتِكَن عَاقلِت تَاتِلَدَنِ قَاتِلْنَانِ بَعَتْ امرحاصر مجهولُ بالوَنَ تَأْكِيدُهُ المُقَاتَكَنَ لِتَعَاتَلُوَ لِتَقَاتَكُ، لِتَقاتَلُون لِتُعَا تَلْنِأَنِّ بحت امرغا سَب معروف بالون ما جبرتُقبِله، لِيُقَاتِلُنَّ لِيُعَاتِلُاتِ لِيعَابِدُنَ لِتُعَا لِمُقَاتِلُكَةِ إِبْمَنَا تِلْنَاكَ لِأُقَاتِكَ كَنْفَايَكَ بَحِت امرِعامَ مَجهول بالون ماكيرتعيد، لِيُعَا تَكَ

لِيُعَاتَلُانِ لِيُقَاتَلُنُ لِتُعَاتَلَنَ لِتَعَاتَلَا نِ لِيعَاتَلْنَانِ لِمُحَاتَلُنَانِ لِمُحَاتَلُ لِنُقَاتَكُ بحت المرحاص مروف ون يجد تَادِلَ قَاتِلُ قَاتِدِن مجمعت امرحاض مجهول بالون ماكي رضيفه ٤ لِتُقَاتَكَ لِتُعَاتَكُ لِتُعَاتَكُ ل مروف بالوان مكيد يجير خد ليعُناتِكَ لِيمَاتِكَ لِيحَقاتِكَ لِيحَقاتِكَ لِدُقَاتِكَ لِنْعَانِكَ بِحَث امرعا بَ مجهول بالوك ناكى رخيف، لِيُقَاتِكَنْ لِمُعَاتَكُنْ لِمُقَاتَكَنْ لِحُدَّاتَكَنْ لِنُعَاتَكَ، بحسن بَى حاصرمع وف، لاتَقَاتِكْ لاتُعَاتِلَا لَاتِقَاتِلُوْإِلَاتُقَاتِلِيُ لَانْعَاتِلَا لَاتَقَاتِلْنَ بِحِ**تْ بَى حَاصْرِج**ِبُولِ «لَا تَقَاتَلُ لَا تُقَاتَلُا لَا تَقَاتَلُوْ الْأَنْقَاتِلِي لَابَعَا تَلَا لَا تُقَاتِلُ بِحِبْ بَهِى عَامَ بِمحروفٍ ، لَا يُقَاتِلُ لَا يُقَاتِلُوا لَا تَعَاتِلُوا لَا تُقَاتِلُ لَا يُفَاتِنْ لَا أَقَاتِلُ لَا مُعَاتِكُ بَحْمِتْ بَنِّي عَاسَبِ مجهول ، لَا يُغَاتَلُ لَا يُقَاتَلُا إِلا يُعَاتَلُوا لا تُعَاتَلُ لاحتقابتلا لايقاتتن لأوفكاتل لانقاتان بحث بنى حاصم معروف بالون باليراقيد ولاتقابتك كا نُتَنا تِلَاتِ لَا تُقَاتِلُ لَا تُقَاتِلِنَ لا تُقَاتِلاً فِي لا تُقَاتِلُنَاتِ بِحَسَّ بَحْ عَصْرِ مِجهول بالأن المجد تعليه وبر مُقَاتَلَنَ لَاتْقَاتَلَانَ لَاتَقَاتَلْنَ لَانْقَاتَلِنَ لَاتَقَابَلَ لَاتَقَابَلُوْنَ لَاتُقَاتَلُنَانَ بجن بخي غامر معروف بالون الج ڷڡۑل وكلابقًا دِلَنَ لَدْيُعَادِلَا يَ لَدَيْعَادِلُنَ كَدُنْعَادِلُنَ لَدَيْتَ اللَّآتِ لَا يَعَادِلُنَا فِي لا عاسَب مجهول بالون تاكير فيله ولايتنا تكنَّ لا يقاتلُات لا يقاتلُ لا تقاتلُ لا تقاتلُ فاتكنَّ لا تقاتلُ في الله ا لَدَامَةَا تَلَنَّ لَا نُعَامَلَنَ بحرت مِنى حاضر عروف بانون تاكير خفيف، لَاتْعَامَلُ لَانْعَامَةً لَانْتَا تِل منى حاصر جرول بالون تاكيد خليف، لا يقائك كانتك الديقاتك لا تقاتل المتقاتلي بحث منى عائم معروف بالون تأكيد حفيض، لا يُحْتَا يَكْن لا يُعْتَا يَكْن لا تُعْنا يَكَن لا أَحَا يَكَن لد نُقَا يَكَن محمت منبي عاسب جميول بالون ما يرتجب من ال يُعَانَكُنُ لَنَيْقَاتَكُنُ لَدَقَعَاتَكُنُ لَدَامُنَاتَكُنُ لَائْقَاتَكَنْ بِحِتْ أَكْمِ فَأَعْلَ، مُعَاتِكُ مُعَاتِلَانِ مُعَاتِلُونَ مُعَاتِلَة مُعَاتِلَتَانِ مُقَاتِلاتٌ بحت أحم فعول ، مُقَاتَلٌ مُقَاتُلُانٍ مُقَاتَلُوْنَ مُقَاتَلُوْنَ مُعَاتَلُتُ مُعَاتَلُتُ 21265 مغيرفيل تلأتي مزيذ فيصحب إزباب فيغتل بيجول ألتقبتك فبول كرنا بعلامتر <u>د وزائدً-</u> يعني تترويخ بين مار اور عين كله تَعَبَّلُ يَتَعَبَّلُ يَتَعَبَّلُ فَعُومَتَعَبَّلْ - وَتُعَبِّلُ يَتَعَبَّلُ فَتَعَبُّلُ فَدَاكَ مُتَعَبَّلُ - مَا تُعَبَّلُ مَا تُعُبِّلُ ، لَوْ يَتَعَبَّلْ لَمُرْيَتَعَبَّلْ، لَايَتَقَبَّلُ لَايَتَعَبَّلُ، لَنُ يَتَعَبَّلُ لَنْ يُتَعَبَّلُ، لِيتَعَبّلُنَ لِيمتَعَبّدُنَ لِيتَعَبّلُ

يُتَعَبَّكُنَ ٱلأمرُمِنْهُ، تَعَبَّلُ لِتُنتَبَّلُ إلينَتَقَبَّلُ لِمُنتَبَتَكَ التُتَقَبَّكُنَ لِيُنتقبَكَ لِينتَقبَكَ تَعْبَكُن سَتَقَبَّلَنِ مِلِينَقَبَلَنَ لِيُتَفَبَّلُ وَالتَّحْمُ عَنْهُ وَلا يَتَفَبَّلُ لا تُنْفَبَّلُ ، لا يَتَقَبَّلُ الأينَ فَبَقَبَلُ ، لا مُنْتَقَبَّلُ لَا يُتَعَبِّكُنَّ ، لَا يَنْفَبِّكَنَّ لَا يُتَعَبِّكَنَّ ، لَا يَتَفَبَّكُنْ لَا يُتَقَبِّكُنْ لَا يتفَبَّكُن مُتَقَبَّلَانٍ مُتَقَبَّلَاتٌ صرف كرا بحث إثبات فل المن مروف : تَقَبَّلَ نَقَبَتُ لَا تَقَبَتُ لُو أَ تَقَبَّلُوا تَقَبَّلُتَ تَقَبَّلُتَ تَقَبَلُتُ تَقَبَلُنَهُ تَقَبَلُتُحُرِّنَقَبَلَتِ تَقْبَلُهُمَا تَقَبَّلُنَ تَقْبَلُنَ تَقْبَلُتُ تَعَبَّلُنَا بِحَ**تْ نَعْي فَعلْ ضَم ووف ،** مَاتَقَبَّلُا حت إتهات فعل من مجهول، تُقَبِّت لَا تُقَبِّت لَمَّ تُقَبِّدُوا تُقَبِّدَتَ تُقْبِداتَ تُقْبِدانَ تُقْبَداتَ تُقْبَداتُ تُقْتِلْتِ تُعَبَّلْتِها تَقْتِلْنَ تَقْتِلْتُ تَقْبَلْتُ تَقْبَلْنَا بَح**تْ نَعْي فَعَلْ صَحْمَ بِو**لَ، مَا تُقَيِّلَ مَا تُقَيَّلَا لِع بح**ت إثبات** فعلمصارح معروف؛ يَتَقَبَّلُ يُتَعَبَّلُونَ يَتَقَبَّلُونَ تَتَقَبَّلُ فَتَقَبَّلُونَ يَتَقَبَّلُونَ يَتَقَبَّلُونَ المُنْ تَتَقِبَ لَانِ تَيَقَبَ لَنَ اللهُ اللهُ تَقَبَ لَ مُحمت فَى فَعَلَ مُصَارِح معروف، لايَتَقَبَلُ لايتقَبَلُ وَالله مُحمّ إنبات فعل مُضاكع مجهول ، يتقبّل يتقبّلان يتعَبّلُون مَتعَبّلُ تُنتَبَعُلان يُتَعَبّدُن نُتقبّد مُنتَبَع تُتَقَبَّلُونَ تُتَعَبَّلُهُنِ مُتَقَبِّلاً نِنْتَقَبَّلْ أَمْقَبَّلُ مُتَقَبَّلُ مُتَقَبَّلُ مُح**تَفَى عَلَّصَاتً مجهول**، لَا يُتَقَبَّلُ لَا يُتَقَبَّلُا حت ففى تاجر رُبَكَن در فعل مُستقبر معروف، لَن يُبتقبّل لَنْ يَتَقْبَلُا مَنْ يَنفَبَكُوْ الْمَ تُتَقَبّلُ لَنْ يَسْفَبَلْنُ كِنْ تَتَقَبَّلُ لَنْ تَتَقَبَّلُا لَنُ تَتَعَبَّلُوا لَنْ تَتَقَبَّلِ مَنْ تَتَقَبَّلُا لَنْ تَتَقَبَّلُ لَنْ تَتَقَبَّلُ كَنْ تَتَقَبَّلُ مَعْنَ فَعُ *؆ڮڔڔؙۑڵؙۮڔڣٚڵۺڹڣڸڴۼۑۅڵ*؞ڶؘۯؙؿؙڡؘۜۼۜٮؙڵڶؘۮؿؖؾؙڡٙڹؖڰۮڶؽ۫ؿؽۜڡؘۼڰۅ۫ٳڶڽٞؿؙؾڡؘؾؘڵڮڬ؞ؿؿڡؘؾڵۮڵؽ۫ؾۘؾؘڡٙؾ كَنِ نُتَقَبَّلَ لَنُ تُنَقَبَّلُا لَنُ نُتَقَبَّلُوْا لَنْ تُتَقَبَّلِي لَنْ تُتَقَبَّلُ لَنْ تُتَقَبَّلُ لَنُ بَهِلْمُ ورَحْلِمُسْتُقْبِلِمعروف، لَمْ يَتَقَبَّلُ لَمُ يَتَقَبَّلُ لَعُرْبَنَفَ لَعُرْتَتَقَبَّلُ لَعُ تَتَقَبَّلُ لَعُرَيَتَعَبَّلُ لَعُر يَتَقَبَّلُ لَعَرْنَتَقَبَّلُوا لَعُنَتَقَبَّلِي لَمُنَتَقَبَّلُ لَمُ يَتَقَبَّلُ لَمُ اَتَقَبَّلُ لَمُ نَتَقَبَّلُ مُون للقبل مجرول؛ لَمُ يُتَقَبِّلْ لَمُ يَتَقَبَّلُا لَمُ يَنَقَبَتُكُوا لَمُرْتُتَقَبَّلُ لَمُ يُتَقَبَّلُ لَمُ تُتَقَبَّلُ لَمُ يَبَهُوُ المَرْتَنَعَبَيْلِي لَمُرْتَفَبَكُ لَمُرْتَفَبَكُ كَعَرْمُ تَقَبَيْلُ لَعَرْنُتَفَبَيْلُ محمث لام تاكير الون الحرف ورفعل مُستقبل مروف، فيتقَبّلَنَ لَيتَفَبَلَانَ لَيتَعَبّلُنَ لَتَتَقَبّلُنَ لَتَتَقَبّلُ لَا لَيُتَقَبّلُنَا لَ لَتَتَفَبَلُانَ لَتَتَفَبَكُنَ لَتَتَقَبَلِنَ لَتَتَقَبَلُانِ لَتَتَقَبَلُنَانِ لَاتَقَبَلُنَا لَتَتَقَبَلُنَ كَنتَقَبَلُنَ مُحمد المراجي المراجي تْقِبْلِدِرْغُلْمُسْتَقْبِلْ مِجْرُولٍ، كَيْتَقَبَّكُ لَيُتَقَبَّكُونَ لَمُتَقَبَّكُ لَتُتَقَبَّكُ لَتُتَقَبَّكُ لَتُتَفَبَّلَاتِ لَتُنتَعَبَّلُنَ لَتُعْبَلِنَ لَتُتَعَبَّلُنَ لَتُتَعَبَّلُنَاتِ لَاتَعَبَّلُنَ لَتُنتَفَبَّلَ أَ

المحول المنفتل متقتلان متقتلون متقتلة متقتلنان متقتلات اب سخم تفاعُلُ ل لأَتَى مزيد في الماب تَفَاعَلْ حُوُل التَّقَامُ في السوس روز وموا. یہ ہے کہ اسلی ماصی میں تیا کچ خشٹ موتلے ہیں۔ شرقرع ملي تأوا در تيسري جب تَقَابَلُ يَتَعَابُلُ تَقَابُلُهُ فَهُومَتَعَادِكَ وَتُعَدُّرِلْ مُتَقَابُلُ تَعَابُلُ مَنْذَاتُ مُتَقَابُلُ م مُقُوْبِكَ مُدَيَبَقَابَلُ لَدُمِينَعَابَكَ ، لَا يَتَقَابَلُ لَا يُتَقَابَلُ، لَنُ يُتَقَابَلُ لَنْ يُتَعَابَلُ ، لَينتقابَل لَبِينَعَا بَكُنَّ ، لَيَتَعَابَكُ لَنتَقَابَكُ الْمُرْمِنَهُ ، تَقَابَلْ لِتُتَقَابَكُ ، لِيَتَقَابَكُ مَقَابَكَ لِنتَقَابَكُ لِيرَتَعَابَكُنَ لِيتَقَابَكُنَ ، تَقَابَكُن لِيُسَتَعَابَكُ ولِيحَقَابَكُ لِيمَتَعَابَكُ كَالنَّحْيُ عَنْهُ ، لا تَنْقَابَكُ لَا يُتَعَابَكُ لَا يَبَعَابَلُ لَا يُتَعَابَلُ لا تَتَعَابَكَ لَا تُتَعَابَكَ لاَ يُتَعَابَكُ لا يُبَعَابَكَ لا يُنَعَابَكُ لا لايْنَعَابَكُنُ أَنتَّظَرْتُ مِنْهُ : مُتَعَابَلُ مُتَعَابَكُ مُنْعَابُكُنِ مُتَعَابَلُاتٌ -مربن ک بحت إثبات فعل ماضى عروف وتقابَل تَعَتَابُ لا يُعَابُلُوا تَعَابُكُوا تَعَابُكُ تَعَابُكُ تَعَابُكُ تَعَابُكُ تَعَابَلْنُهُا نَقَابُلْتُعُرَبَقَابُلْتِ نَعَا بَلْنُهُا تَقَابُلُنَ تَعَابُلُنَ تَعَابُلُنَا بِحِتْ فِي فعل ضي مروف، مَا يَقَابَلُ مَا تَقَابَلُا النِ مُجِعَتْ إِثْبَات فَعَلَ مَاضَى مُجَبُولَ: تُقُوْبِكَ نُقُوُ بِلَا تُقُو بِكُوا تَقُو بِكُوا تُعُوْبِلَتَا تُقُوْبِلْنَ تُقَوْبِلْتَ تُعَوْبِلْنَهَا تُغُوْبِلْتُمَ تُعُوْبِلْتِ مُقُوْبِلْتِ تُقُوبِلْتَهَا تُعُوْبِلْتَ تُعُوْبِلْتَ تَقْوَيِلْنَا بحت في عل ماصى جهول وتماتقُوْ بِلَ مَانْقُوْ بِلَ مَانْقُوْ بِلَا الله بحت إنبات فعل مضاربً مود، يَتَعَابَلُ يَتَقَابُلُانٍ يَتَقَابَلُونَ ثَتَقَابَلُ تَتَعَابَلُن يَتَقَابَلُنَ تَتَعَابُكُ تَتَقَابُلُانِ تَنتقابُلُون تَتَعَابَلِنِي تَتَعَا**بَلَانِ نُتَعَابَلُ**نِ ٱتَعَابَلُ نَتَعَابَلُ **بَحِتْ فِي فَعلَ صَارِحَ معرَوف** لَايَتَعَابَلُ لَايَتَعَابَلَانِ البِح مِتْ إِبْرات فعل مُصارِح مجهول ، مُتَقَابَلَ مُيَنَقَابَلَانِ مُتَقَابَلُونَ مُتَقَا بَل مُنَقَابَلانِ مُيَتَفَابَلْنُ تُتَقَابُلُ مُتَقَابُلُانِ تُتَقَابُلُونَ تُتَقَابُلِنُ تُتَقَابَلُنِ تُتَقَابُلُنُ أَبْقَابُلُ فيتقابل سجست تعى فحام تمضار يطم مجهول ولايتنقابك لاينتفابلاً بوالع بحت لغى ماكيد تبكن ونعل ستقبل معروب، كَنْ يَّيْتَعَابَلَ لَنْ يَتَعَابُلَا لَنْ يَتَعَابُلُوا لَنْ تَتَعَابُلُ لَنْ نَنَعَابُلا لَنُ يَتَعَابَلُ

فَى تَتَعَابُكُ لَنْ تَتَقَابُلُا لَنُ تَتَقَابُلُوْا لِنَ تَتَقَابُلِهُ لَنُ تَتَقَابُلُا لَنُ تَتَقَابُكُ لُت نْتَقَابَلُهُ بحدث فعي ما محدثه لَنْ وَتِعَلَّ مُسْتَقَبِلُ مجهول : لَنْ يَبْتَعَابَلُ لَنْ يَبْتَعَا بَلَا أَن لَنْ تُعْطَبُهُ إِنَّى مُتَقَابُلُوْلَنْ يَبْعَابُلُى لَنْ شَقَابُلْ فَنْ شَقَابُلُو لَنْ يُتَعَابُلُوا لُن تُتَقابُلِي لَنْ تُتَقَابُلُو لَنْ يُتَقَابُلُو كَنْ احْتَابُكُ كَنْ تَتَعَابُكُ بِحِمْتُ تَعْ**ى جُدْبَهُمُ دَرْعَلْ مُتَعْبَلُ مَرْدِ**فْ ، لَمَّ يَتَعَابُكُ لَرُكَتَعَا بُلُكُ لَمُرْتَبَعَا بِلْ لَمُ تَتَعَابِلُ لَمُ مَتَعَابَكُ لَمُ تَتَعَابُكُ لَمُ مَتَعَالُا لَمُ يُتَعَابُكُ لَمُ تَتَعَابُكُ لَمُ تَتَعَابُكُ لتقتبا مجهول، لْوَتَتَعَابَلِي لَعُرْتَبَعَا مَلَا لَعُرْتَتَعَا بَلْنَ لَعُراَتَعَا بَلْ لَعُرْتَتَعَا بَلْ مُحسب في تخديكم وتعلم مُتَعَابِلُ لَمْ يُبَقَابُلَا لَمُرْبِبَقَابِكُوا لَعِرْتَتَقَابُلُ لَمُسْتَقَابِلُا لَمُ يُتَقَابَلُ لَو تُتَقابَلُ لَو يَرْتِنَقَابَلِي لَرْتَنَفَ بَلَا لَحَرْبُنُعَابَلْنَ لَعُرْبُتَقَابَلْ لَوْ بُنَقَابَلْ بحث **لام اليرانون ناجد تغيا ورُعل**ُ والمتقابل المتقابل فيتقابلات لمتقابل لتتقابلات لتتقابلات ليتقابل ليتقابل لتتقابل لتتقابل يتتقابل التنظامي التتقابلات الدينة بلنات لاتقابل التقابل التقابل التقابل المتقابل المناجد بالحزن الجدافيد مقبل مجهول، لَيْعَتَابَكُنَّ لَيُعَقَلُبُكُونَ لَيُنْتَظَ بَكُنَّ لَتَقَابِكُنَ لَتَتَقَابُكُونَ لِيُعَقَابَكُ الآق لَنْتَقَامَكُنَّ لَتَعَنَّا بَلَنَّ لَتَقَيَّدًا بَلَاتٍ لَتُعَقَّا بَلْنَاقٍ لَا تَقَابَكُنَّ لَنْتَقَابَكُنَّ كَنْتَقَابَكُنَّ بَحسَ لام ماكروانون فَجُرُفُعُلُمُسْتَقْبِلُمُعُرُوبٌ ؛ لَمُتَعَابَكُنْ لِيُتَقَابَكُنْ لَتَتَفَابَكُنْ لَتَتَفَابَكُنْ لَتَتَقَابَكُن لَتَتَقَابَكُونَ لأتقابكن لنبقابك بحت لام بالدوانون بالجد جنيفة وفعل ستقبل مجهول وكيشقا بكن كيشقا بكوج لَتَتَقَابَكُنَ لَتَتَعَابَكُونَ لَتُتَعَابَكُونُ لَعُتَقَابَكُونُ لَقُتَقَابَكُنُ لَنْتَقَابُكُونُ محت أمرحاضرمعروف : تَعَتَ بَل تَقَابَلاً تَعَابَلُوْا تَعَابَلِي تَفَيَابَلاً تَقَابِلُنَ بمحسف مرجهول ولِتُتَقَابَلُ لِتُتَقَابُلُ لِمُتَقَابَلُ لِيَتَقَابَلُ لِيَتَقَابَلُ لِيَتَقَابُكُ لِتَتَقَائِلِ لِتَتَقَابَلَ لِيَتَقَابَلُهُ بحيث المُخاسَبِ معروف، لِيَتَقَابَلُ لِيتَقَابَلُ لِيتَقَابَلُوا لِتَقَابَلُ لِتَتَقَابُلا لِيَتَقَابَلُ لِتَعَابُلُ لِنتَقَابُ لِمُتَقَابُكُ مُحَمَّ أَمْرَعَاسَ مُجْهُول ولِيُنَقَا بَل لِيتَقَابُكُ لِيتَفَا بَكُوا لِنتَعَا بَلْ لِنتَحَقَا بَلَا لِمُنتَعَا بَلْنَ لِإِنتَعَا بَلْتَ لِمُتَعَا بَلْ بَحَسَفَ المَراصَرِ مع وف بالون ما يورقب تَقَا بَكَنَ ؖٮٞڟۜڹڵۮٙؾؚ ٛٮڟؘڵ۪ڵؙڹۜڟؘؠڵڹؘۜ نڟؘڶ۪ڵۮؾ نظارلنات بحمضا مرحبول بازن ماجد لفيل وليتتقابكَ ليتُطّابكَ ليتشطّابكَ ليتشطّابل يشَقَاكُلَّ بِنسْطَائِلُكَ بِح**مْث امرْط مُبْحروف بانونَ الجِمانُيْتِيا**رَه لِيَتَعَابَكَنَ لِيَتَعَابَكُنَّ لِنسَقَابَكَنَ لِتَسْقَابُكَنَ لِتَسْقَابُكُنَ لِتَسْقَابُكُنَاتِ لاتقابك ينتقابك بحسط مرحام مجهول الون الصالحة ويستقابكن يستقابلات ليتقابلن لشتابك لينتقابك ينتقابك يستقابك لِا مُقَابَكَ لِنتَعَابَكَ بحث امرحاً ضم حروف بانون المجد خفيف وتقابك تقابك مقابل بحت امرحا ضم ول بانون الجيز غيف لِتُتَتَابَكِنُ لِيسَقَابَكُ لِيسْقَابَلِنُ بِحِمَظُ احرُ تَامَ مِعْرُوف بِالْحُلْنَ فَكِيرَ خِفِي فَرَ لِيَتَقَابَكُ لِلسَقَابَكُ لِأَنقَابَكُ لِلَهُ عَالَكُ لِلسَقَابَكُ لِلَهُ عَالَكُ بحت معامر مجرول بانون ما جبر معطر إلينتا بكن المتقابل التقابل لاتقابل لاتقابل محت محامر موجد لاتتقابل لانتقابلا لاستقابلا

ذيتَقَابَلِيُ لَإِنتَعَابَلا لَانتَعَابَكُ بحث بنى حاضر مجهول ولا يُتَعَابَكُ لَانتَعَابَكُوا لَا يُتَقَابَلُو لانتقابلالإيتقابل بحيث بنى عام معروف ، لا يُتقابل لا يتقابلا لا يتقابلوا لانتقابل لانتقابل لديتقابلى لأانقابل لانتقابل بحث تنى عائب جمهول ولايتقابل لايتنة بلالايتقابل لايتنا كالاتتقابل ڵٳڹٛؾؙۊٵڹڵٳڵٳۑؿۊٵڹڵ؇ۜڷٵٛؾ۫ۊٵڹڵ؇ڮٮ**ڹ؉ۑٵڞڔڡڔڡٵؚٳڹ؆ۑڔڷڡۑڸۏڹٵڮڔڷڡۑڸ**ۄ؞ؚڵٳؾؾۊٳڹڵڗڵٳڹؾۊٵٜڹڵ؆ لا يُتقابكُ لا يَتقابلِ لا يَتقابلاً بِ لا يَتقابلُناتِ محت بن حاصر محمول بالون ما كبر تقيله ولا تُنقابكَ بالا تُتَعَابُلانِ لا يُتَعَابُكُ لا يُتَعَابُكِ لا يَتَعَابُكُ لا يُتَعَابُكُ لا يُتَعَابُكُ في جُفُ مِنى عامَ محرف بالون الجبر تقيله، لايَتَفَابَكَنَّ لَايَتَقَابَلَاتٍ لَا يَتَتَابَلُنَ لَانتَتَابَلَنَّ لَاتَتَقَابَلُنَّ لِايَتَقَابَلُنَاتٍ لَأ فر المتب مجهول بالون ناكيد تقيله ولا يُتَعَابَكَ لَدُيْبَعَا بِلاَتَةِ لَا يُتَعَا بَكُنَّ لَا تُتَعَا بَكَ لَ لايتنا بكنان لأا تعابك لانتقابك بحث ني مامرمروت بانون الجد تقيم لانتقابك لانتقابك لا تتقابك لاَيْتَتَ بَلِنْ بَحِيتْ بَهى حاصر مجهول بالون ناجيد خفيف، لَاتتَعَابَكَ لَاتَتَعَابَكَ لَاَنتَتَ بَلِنْ الحَتْ مروف بالون تاجيد تحفيفر ، لَايَتَعَابَكَ لَا يَتَعَابَكُ لَا تَسَقَابَكُ لَا تَسَقَابَكُ لَا أَنْتَابَكُ لَا نَت مرك بالون تأجير تعيفي، لأيتَقَابَكَ لَايتَقَابَكُ لَا تُتَقَابَكُ لَا تُتَقَابَكُ لَا اتَقَابَكُ لَا نُتَقَابَكُ بحت أَكُم فَا رَحْل مُنْعَابِلُ مُتَعَابِلُانِ مُتَقَابِلُونَ مُتَعَابِلُهُ مُتَعَابِلُتَانِ مُتَعَابِلُاتٌ بحس المم فعول : مُتَعَابُلُ مُتَعَابُلُانِ متقاملون متقاملة منقابكتاب متقابلات رباعی سعی دوشتم سیسب فرخرد ومزید نید ، مجرمز بدخیر همی دوشتم مرسب - ایک وه جس میں ہمز ہ وصلى مور دوسر في واجسيس ممزه وصلى ندمور اول كاليت اورناني في دوباب من مُ بَأَعى مُجَرَّدٍ ڪ سغ فيول التي تحرير المجري المالية التحرير المتحرير المتحرير المع المع المع المعرين المعرين المع المريم المعرين ا ں باب کی بیہ ہے کہ ایکس کی ماضی میں جار حرف اصلی *بیستہ ہی*ں بینی فار بخین 'اور کو لا م و حَرْجَ بِيلَ حَرِجَ وَحُرَجَةً، فَهُومُلُحْنَ ، وَدُحْرَجَ بِلَحْنَ مُوَجَدَةٍ، فَنَ إِلَى مُلَ حَنَ مَا حَن مَا دُحْرِجَ، لَعُرِيدُ حُرِجُ لَعُرِيدُ حُرَجُ، لَدِينُ حُرِجَ لَأَيدُ حَرَجَ، لَنْ يَدْحَرِجَ لَنْ يَدَ حُرِجَنَ لَيدُ حُرَجَنَ لَيْدَ حُورَجَنْ لَيْدُ حُرَجَنْ أَلْآمُو حِنْهُ ، دَحْمِرِجُ لِتُدَحْمَرِجُ لِيُدْحَمِجُ لِيُدَخْرَجُ، دَخْرِجَنَ لِتُدْحُرُجُنَ،

4.

، مرجع الله مرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع نَدَجُوَجَقَ لَتُدَحُوجاً فِ لَتُدَحْرَجُنَا فِ لَا دَحْرَجَنَ لَنْهُ حُرَجَنَ مَحمت لام ما كِيد بالون ما كَير خفي ورفل **قرام حروف ،** لَهَ يرَجْنُ لَيُدَخُوجُنَ لَتَدَخُرُجِنَ لَادَخُوجَنْ لَنُلَا خُرَجَنْ كُعْتَ المرحاً فَرْمِعْرِفْ ، دَخْرِجُ دَخْرِجا دَحُو حُوْا دَخُرِينَ يَحْصَيبُ المَحْتُ المُحَتْ المُرْحَاصُ مُحْرِجُ لِنَدْ يَتْدَخُرُجُ لِنَدْ حُرَجًا لِتَد لِنْدَتَّحْوَبَنَا لِتُدَجَّدَ مَحْتَ أَمرْمَا مَبْمُعْرِفَ إِلَيْدَجْرِجَ لِيدَحُوجَ لِيدَ خُرِجُوًا لِتُدَجْرِج لِنتُدَحْرِجَا لِيُدَحْوِجْنَ لِادْ يَحْبِ لِندُحْرِجْ محمت المرعا مُب مجهول الميدَحْرَج لِيدُ مَرْجَا لِيدَ حَرَجُوْ الدَّهُ حُدْجَ لِنَّنَ صَرَبِحَالِيهُ حَرَجْنَ لِاحْدَ حَرَبِحُ لِنَهُ حَرَبَةُ مُحَمِّ المرصاف محروف بالون ما يجد تفيد ، د خوجَنَ د غريجاً بَ بُوجَنَّ دَحَرِجِنَّ دَحَرِجَانَ دَحَرِجَنَّ آنِ **بحديث المرحاص مجهول بانون تأكيد لقيله،** لِتُدَجَرَبَتَ لِنُدُ حَرَجات لِتُدَحْرَجْنَ لِنُهُ حَمَيجِةً لِتُدَحْرَجاً ذَلِيتُهُ حَرَجاً في بحكت أمر عام محروف بالون ما يدفق لم وليه دُحْرِجة حَرِجَايَة لِبُدُعْرِجْنَ لِتُدَحُرِجَنَ لِتَدْحُرِجَانِ لِيُدَخْرِجُنَانِ لِأُدَحْدِجْنَ لِيُدَعْرِجَنَ لِمُحْ لَمْ كَبِلْحَصِيلَمِ إِنْهُ حَرَجَتَ لِيهُ حَرَجَةَ لِللَّهُ حَرَجَةَ لِتُدَحَرَجَةَ لِيهُ حَرَجَتَا لِلهُ حَرَجَةَ لِنُهُ حَرَجَةً عبت امرحاض معروف بالون الجيد خفيفه، تحيريجن وتحريجن وتحريج تحييت المرحاص مجهول بالون بدر منبعد ، رائمد تحدّ بيند تحرّ بيند تحرير المتد تحرير بر من المرتمان محروت بالون ما كبير تحقيظ ، ليد تحريك لِيدَ تَقْدِجُن لِتُدَخَرِجَن لِأُدَحْرِجَن لِنُدُحْرِجَ محت امرعاب مجهول بالون ما كَبَرَ هَيقُم ولِيدَ تَحْرَجُ لِيُدَحَوَجُنَ لِيَحُدَجُنَ لِنُدَحَرَجَنَ لِنُدَحَرَجَنَ لِمُدَحَرَجَنَ مُح**ِيتَ مَنْهَى المُرمروف، ا**لأَثْدَخَرِجَ لَاتَدَ تَوْرِجُوالا تَدَخَرِ جُوَ ڵۮٮۛ۫ۮڂڔۣڿ٢ڵڗؙۨۮڂڔؚۼٵڵڒؽؖڂڔؚۼڹؗ**ڮؾ؆ۑؾٵڞڔؖۼؠۅڶ؞**ڵٳؿۮۼڗڿڵۮؽڎڂۯڿٵڵٳؿۮڂۯۼۊٳڵٳؽڎڂۯڿ لاَ تُدُحْوَجالاً مِدَحْرُجْنَ محت بْص عامَ محروف: لأَيدُحْوج لاَ يُدَحْوجالاً بِدَخْرِجُوالاَ تُدُحْنِ لاَ تُد لَايْدُ حَيِجْنَ لَلااً حَصِيحَ لَانْدُ حَيرِج بحست تَهَى عامَبَ مَجهول ، لَا يُدْحَرَجُ لَا يُدْحَرُجُوْ الأَتْدَحْرَج لاَ تَدَكَمُوَجالاً بِدُكْرَجْنَ لَأَدْ حُرَج لأَنْدُ حَرَبَ بَحَتْ بَنِي حاصر معروف بالون بالجيد نقيله ولا تُن جريعة لاَتَدَحْرِجَابَ لاَتُدَخْرِجْنَ لاَتُدَخْرِجِنَّ لَا تُدَجْرِجَابَ لاَتُدَحُرِجَابَ **كُمْتَ مُحْمَد مُنْ مُحْمَد الرُّحْنَ المُرَكْفَيْلِهِ إ** لٱتُدَحَرَيِّينَ لَا تُدَعَرَيِّياًةِ لَاتُدَحْرَجْنَ لَا تُدَخْرَجِنَ لَاتَدَحْرَجاً إِنَّ لَاتُدَخَرَجُنَانِ **مُحرف بَي عامب معروف الون ٵڮۑڒلڡۑلم،** لايدُ خَرِجَنَّ لَايدُ حَرِجَانٍ لَا يُنْحَدِجِنَ لَا تَدَحَدِجَنَ لَا تُدَحْدِجَانَ لَا أَدْحَدِجَنَ لَا نُدُخْوِجَنَ بحث تمنى فاسب مجرول بالون ما جيد تقبيله ولاية تحرَّجَةَ لَايَدَ حُرَجَانِ لَايَدَ حُرَجَةَ لَدَيْدَ حُرَجَةَ لَا

لَا يُكَ حُرَجْنَاتِ لأَاد حَرَجَنَ لأنك حَرَجَتَ محت بني حاضر معروت بالون باكير تفيفر ولا بدي حَرَجَنَ ك م جرجت لا مد خرجة بحت تم عاضر مجول بالون الجي خصيف الد تد مرجق لا تد محرجة لا تد محرجة لا تد محرجة بحت منى عامب معروف بالون تاكيد خفيفه، لأية خرج بالأيد حرج في لا يد حرب لأنه تحرج في لا يوجي لا المرجز عن المعد خرج بحت تهمى عاسب جمول بالون ما جبار خفيفه ولايد خدجن لايد خرجن لايد خرجن لا المحرجين لا المحرجين الا محرجين المحرجين بحيث المحم فاعل: مدخرج مد خرجان مد خريجان مد خريجة مد خريجة مد خريجتان من خريجان محت المم فعول: مدخر بجمد عربان مد حرجون مد خرجة مدخرجة مدخرجتان مد خربات ر زباجی مزید فیسے ک (بے برہ وس) فلل يتجل البند يحرب الرصلا يعلامهم رفت شريع أراعي مزيدهم ں باب ی *یکے سے کہ اسی ماصی بی پی سے سرونہ ہو تھ ہیں* خلاط کا ایک کر سے تروع میں مت ع نَدْحَنَجَ يَنَدُ حَرَجَ مَدْ حَرَجًا ، فَهُوَ مُنْكُرُ حَرِجَ - وَقُلْحُرِجَ مُنْدَكَحْرَجَ تَدَكَمُ حَرَجًا ، فَذَاكَ مُنْدُ حُرَجًا مَنْ مَا تُدْحَنِي ، لَعَرْيَتُنَا حَرَج لَعْدِينَهُ حَرَج ، لَا يَنْ لَحَرَجُ لَا يُتَدَحُكُ ، لَنْ يَتَنَا حَرج لُنْ يَتَلَكُحُرج ، يمَنَّ لَيتَدَحُرُجْنَ، لَيَتَدُحُرُجُن لَيتَدُحُرُجَنَ الْأُمْرِمِنْهُ وَنَدُخُرُجُ لِتُبَدُحُرُجُ لِيتُدَخُرُ لِيَنَعُرُجُ لَدَ حَرَجَنَ لِنتَدَحْرَجَنَ ، لِينَدَ حَرَجَنَ لِيبَتَدُ حُرَجَنَ إِنَّتَ حُرَجَنَ إِنَّتَ حُرَجَنَ المُتَد ۘۘٵڵڹؖؖڰ۬ڡؚؾ*ڹ*۠؋۠ ٤ڵڹ**ڷڰ**ڝؾؙڹ؋٢ڵڹٮۜڬڰڂڔۼڵٲؾٮۜۮڂۯڿٵڮٳؽڹڬڂۯڿڵٳؠڹۘۮڂۯڿٵڵٳؾڹۮڂۯڿٵڵٳؿڹۮڂۯۼڹ لايُتَدَخْرَجُناً ، لَا تَتَذَكُخْرُجَنْ لاتُتَهُ حُرُجَنْ ، لايَنَدُ حُرَجَن لايُتَهُ حُرُجَن أَلظَّر ف مِنْه م مُتَدَ حُرَّجُ مُن حُرُجُ مدرخرجك صرف كبلا محت إنبات فعل صى مروف الدخرج تد تحريجاند مخرجوة الدخر تجدة الدخر بجنة الله خريجانا الله حسر جش ر مر ور از در وروع در مرور در از در د و مرا بر در د مر کر در د مر الا خرجهها الد خرج شوند، خرجت مل خرجهها الد خرجهن الا خرجيت ۷. َلَدَ حُوَيَجْنَا **بحت تَقَى فعل ماصى حروث :** مَاتَدَ حَرَبَهُ مَا تَدَهْرَبُهُا اللَّهُ سَجِعَتْ إِثْب**ات قُعل ماصى مجهول ب**َتَخَيِّطُ وم در ما محر مرد ا مرم و مرد مر مر محر مر مر مرم مرد مر مر مرم مرد مرا مد مرد مرد مرد مرد مرد مرم مرد مرم مرد م تد حور مجا تد حر محرا تد حرر من تد محرجت تد محرجن تد محرجت ند خرجت الد خرجيما تد محرجت مر در محرجت الد حرجت ا م مقريجة من مد خريجة ما محمة العن على المن مجمول ، ما تد خرج ما الد عربة ما تد عربة ما الم محمة التي محمة التي فعلمضارع معروف، يتدخر محرجان بتلاحرجون تتدخرج بنار خرجان يتداخر ج

رُباعي مزيَّد في ڪ روم افعِنْلَالْ (بابمزة وش) ماعي مزيد في متصح إزباب الغُنِّبُ لأن - جون الاخر نجا مرجمع موما -ں کی ماصنی میں حکہ حرف ہوتے ہیں۔ ليعنى شنزدع ميں جمزة وصلى أور يوتقي جب كر نوب فرهو مخر نَجْهِ، لَبْحُرَجْهُمْ لَحُوْرَ تَجْمَنَ ، لَيُخْرَنِهُمُ مغربي اخربجت لن لَانْحُرْ يُجْهُوْ لْحَرْجُهِ لَا يَجْرَجُهُ لَا يَحْرُجُهُمْ الْحَرْ يُجْهُرُ بَجْهُمْ بَ نحبهن والنقوم عنائك جمن ، لا يكونجمن لا يحونجمن ، لا يحرنجمن لا تحريجمن الا يخديجمن لا يجريجهن الظرف ور در در در در در مور در در حرمجو محردجمان محرنجهات -مرف کرار إتبات فعل ماصى مروف المحرنجة لاخرنجة الخرنجة والمخرنجة فأراحد بجهت المحدجة حرجتن الحربج فتشا حرنجتهما الحربج تشفا حريقت إخرنبه تنا حرنب تتز حُرَنْهُمُنَا محت لقى تعل ماضى محرف : مَا احْرَنْهُ مَرْمَا حَرَثْمُ مَا اللَّهُ مُحِتْ إِتَّبَاتَ فَ احرمجترا حرمجتها الحربجين احرمجتين اخرعتها أحرم ورقيبة ودوجون مردد الحريجين الحريبة منها المحريجية ألمحريجية ألمحر تجيئت أخريجيت المح**ت فق معل ماضي م**ج مَااحُونِجُمَاالِحِ**مجِيتُ اتَّبَاتُ فَعَلْ مُصْارِقَ معروفٍ :** يَعْرَبُجُودَيْجُعَانِ بَ يُحْدَانِ يَحُونُجِمْنُ نَحْرَجُهُمْ تَحْرَجُهُانِ تَحْرَجُهُونَ نَحْرَ فَجُونَ نَحْرَ نَجْهِانَ تَحْرَجُهُنَ أَعْرَجُ ىخت نى نى مُسْارى معروف ، لاين رَبْحَ مُرْلَكَ خَذَجْ مَانِ الله **بحدث إنبات فعل مُصَالًا** م در در در جرم در جرم در بر کرد بر و مرز جرم و در جرم مد بر و مدر بر از مرد بر از مرد بر از مرجم از ترکیز در از بخر جمر بیشر محمان بیش بیش بیش مدون مشتر مسطر مسر محمان بیش بیش بیش مدهد مد مروز مدر بیش ترکیز در جُهَانِ تُحَرِّنُجُهُنُ الْحَرِيْضِةِ مُحَرِيمُ **مُحَرِيحِتْ فَعَ فَعَلَّ مُصَالًى مُح**ولٍ: لَا يَحْدَرُ جُسَمُ

64 بتقبل معروت لَ تَتَحَرِ عَمَالَنْ يَخْرِ عَمَالَ بِح د مريضان الغ **بحث لغي تأكيد أراد وقعل م** كَنْ تَحْرَجُهُمَا لَنْ تَحْرَبُهِ مُوْا لَنُ تَحْدُ يَجْعِي لَنْ تَحْ لَنْ حَرَضَعَكُ تَحْرِبُهِمَاكُنْ يَتَجْرَجُهُمْ لَنْ تَحْرَجُهُمْ ر*بد لَوْ وَ*رْبُول*ْ مُسْتَقْبِلْ مَجْبُول* ‹ لَهُ يَحْرَى فأنصدا رتعبا درنعام عُرَبْجِمَانِة لَيَحُرُنُه نَحْبُنَ لَتُح يا ي له رُنْجِينَ لَتَحْرُنْجِمَانِ لَتَ مرتجبن لأخرنيس لتدريجه ن كَتْحَرْنْجَيْنْ كَتْ معل مجرول (ليخر بجمع ليحون بي إَنْكُوَيْهُمِهُمَا إِحْرَبْ تحر بجري ل 2 المحر تنصر النجر من المديمة المدينة **بالون ناكير القبيله، د**اخرَنْتِيمَنَ الحرَنِيجِيمَاتِ الجرَنَةِ مرحافة معروت مت امر حاصر مجهول بالون الجيار تعليه، لِتَحْرَبْجَهُنَ التَّوْخُ التَّالَةُ لِتَحْرُجُونَ التَّوْرِجُون ليتحد بمكالي ليحد بنعثان محت امرعات معروف بالون الجد تقيله، ليحد ونبطن ليعرف لي

لِيَحُوَنَجِمُنَّ لِتَحُوَنُجِمَنَ لِتَحُرُنُجِمَاتٍ لِيَحْرَنُجِمَنَاتِ لِأَحْرَنْجِمَنَّ لِنَحُرُنُجِمَنَ *بِحَدْ امْعَامُ مُجْوَا* **بالون ما كيلاهيلم (** ليحونجمن كيبحونجمات ليحونجمن لتحويجن لتحويجمن ليحريجه لِتُحْدَنْجُهُنَ لِيحْدَنْجُهُنَ بحت إمر حاصر معروف بالون الجيد معيضر، إخر بُجهن إخريجهن ف امرحاصر مجبول بالون ناكر مخصصه ؛ كَيْشُوْنْجُمْنْ لِيُحْدَنْجُمْنْ لِتُحْدَنْجُمْنْ لِتُحْدَنْجُمَاج بحيث ، مالون بالحد حق يقية لبقر نجبين ليخرذ مرتضين ليدو بعين محت برك فتشرق حاقرتم ويتشر التشريجي مَّا لَا تَحْرُجُهُنَ **بحث بني غاب معروف ا**لأَمُ لاَ يَحْدَى مَالاَ بَحَدَ جَعُوا لاَ تَحْدَى بَجُعَد لاَ تَحْدَ بَجْمَا لاَ يَحْدَجُمْنُ لَا اَحْدَبُجُم لاَ بَحْرَبْجِع مُر كُمَ عَامَ مرول الأيحر بحقر لأبيث غيما لا يحر نجمو الإنتخر نجف لاتحر نجعا لايقو تحسن لا أعر نسب لَانْ حَدَنْ جَعْر بح**تْ نَهِي حاضر مروت بالولْ ناكِير تقبيله،** لَا تَخْدَ بْجَعَهُ، كَانَتْ مَدْفَعَهَا بْعَالَ لَا نَحْدَدُ نْجِعُهُ بْ لاَ نَحْدَرُ بِجَمِينَ لاَ تَحْدَرُ بَجْمَانِ لَاِنَّحْدُ نُجِهْنَا نِ بح**تْ نِبِي حاصْرِ جُول الأَن** الجُد**لاَ يَدَا** م رو بحريجين لات م محمد براية لانتخار بحمن لأ تَرْبُحِيَّانَ لَا يَحْدَيْهُ بَدْنَانَ **بَحْتُ بِبِي عَامَ مُعَرُف** ب**الون تاكير تقمله،** لا يحدّن جمنَّ لا يحد نجمان لا يحدّن جُمُنَ لا نصَد نَجِمَنَ لا نَصْرَ خِمَان ال لَاَ اَحْدَجْهُنَّ لَلْنَاحُدُ نَجْهِنَ تَجْمِ**تْ بَى عَامَبْ تَجْهُولَ بِالْوَنْ مَا كَيْدَلْقَيْلُهِ،** لَا يُحْدَنْجُهُنَ لَا يُحْدَنْجُهُمَا لَيْ يتحر نجمن لاتحر نجمات لايحرن جنات لأاعر يجمن لاحرزجان بحت مي حاص بالون تاكيد خفيف، لاتَحْرَيْجِمَنْ لَانْحَرْبَجْمَنْ لَاتَحْرَنَجْمَنْ لَاتَحْرَنَجْمِن بحت تمي حاصر مجهول بالون بج ميفر، لا تقريب كالمقر تجمن لا تعريب لا تعريب المرابع من عام معروف بالون ما كر معرف لا يترغ عد الديكة الم جْمَنْ لَا تَخْدُ بَجْمَنْ لَا أَحْدَ بْجَمَنْ لَا مُحَدَّخِبَ مَح م م م عام م م م م الون الدر تغير الذي وتغير مر در در . نصو بجس بح**ت ارم فاعل ،** مصر نجره محر نجر بهاین د مرجود از تحریجین از اخریجین در تحین لا تحریحین لا اخریجین ب محرد محرد بجيرة محرد بجيريان محرد بجيرات محت الم مفعول ، محرب بجملة محرنجة أن محردجات باب سوم الحصر آل (بابهزه وش) وصغير رئبای مزيد سيس از باب الحفيلات بچ را الافتين غرار ،

بال بدن بدائما - علامة المسس باب كى يرب كم المسكى ماصى مي تيل حرف بوت بي - جاراتنى، ووزائد بين شرق مى تمرو ولى اورلام كلم دوم متحرر مست رد إِنْسَبَعَرَ يَقْسَعِرُ اقْشِعُرَارًا، فَهُوَمُقْشِعِنَ وَإِنَّسْعَمَ يُعْشَعُمَ اسْشِعُرَ الْسَيْعُر مَا ادْسَعُنَ مَا اهْسَعْرَ، لَعُرْ يَعْسَعِنَ لَعُرَيْقُسَعِمَا لَعْرَيْقُسْعِمَا لَعْرَيْقُضْعُمَ لَعُر كُنْ يَقْشِعِ كُنْ يَقْشِعُ أَلَيْفَسَعِ أَنَي فَسَعِرَ أَنَا لَهُ مُسْعِرً أَنَ لَهُ مُسْعِرً أَنَ الايقشوع لا بُنْشَعَرُ لِيُقْتَشَعَنَ نَ الْأَمْرُمِنْ، إِقْسَتَعِينَ إِذْ يَعْدِر إِنَّ تَعْشَرُ لِتَقْتَشَعَنَ لِيَقْتَشَعَ لَا مُر لِيَعْشَعِيّ لِيَعْشَصُ رَبِلِيُعْشَحُنَّ لِيُعْشَعُنَّ لِيعُسْمَن َ لِيعُسْمَ ثَن التَّسْتَحِيّ مَت لِيفَسْحَرَينَ الْقُسْجَرَنَ لِيعْسَدُ مَنْ لِيفَسْجَرَنَ لِيفْسَعُرَنَ لِيعْسَمُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ لَآيَة لا تَقْضَعُهِدْ، لَا تُعْشَعُمْ لَا تُعْشَعُمْ لا تُقْضَعُ لا يَعْشَعُونَ الاَيَعْشَعِ لَا يَعْشَعُونَ برمد مربع مديد بريد بريد مربع مربع مربع مربع الا يقشع لا يقشع لا يقشع لا يقشع الا يقشع الا يقشع الا يقشع الا لَا يُعْسَطُعَ لَا يُقْسَعُهُ (، لا تَعْشَجُرٌ تَ لِإِنْقَدْهُمْ تَ لا يَعْشَعُونَ لَا يُقْشَعُ مَنَ ، لا يَعْشَعرَ نَ لا مُنْشَحَرَتَ فَي الاَيَقْشَعَرَى لَا يُعْشَعَرَى الطَّرْفُ مِنْمُ مُقْشَعَرَ مَعْشَعَرَ إِن مُعْشَعَرَ اتْ مونڪيتر بحت إنبان فعل ماصى معروف، إقْسَعَتَ إِنْشَحَرَ القَسَعَتْ وَالقَشَعَ مُوَالقَشَعَرَ ثَالَة فَشَعَرَ بَا ٳؚؚؿۺؘڠڕڋؾٳڣؿڿؖڒۮۺٳؿؾؘڂڕۯؚؾؗۿٳڨؾؠؘؖڡؚٛڕۯؾٳڣؖۺؘۼڕۯؾٵۣڣٞۺؘۼڕۯۺٵٳڨڛٛۼۨۯڔۛ؆ٛڹٵۣڨۺڠڕۯٵ يتْ نَعْي فَنْ مَامَى مَرُوفَ : مَا أَخْشَعُ مَا أَشْتَعُ أَالَتَ بَحِتْ إِثْبَاتَ فَعَلْ مَعْي تَجْهُولَ ، أُخْشَعُ أَنْشُوْرًا اقشيق ذا ومشيرات أقشين القشير زيادة مورز المشعر ريب وقشر زيبا أقشور دنعرا فشرور دمر المشرور والمشعر ازبها ا تشجر دين ودور م وجود ما محف فعن ما من مجهول ، مااذ شعر ما الشعر العرب الم محمت التبات فعل مُصْارع معروف > يَقْشَعِرُ يَقْشَعِرُ إِنَّ يَعْشَعُورُونَ تَقْشَحِرُ تَعْشَعُورُنِ يَقْشَعُورُنَ تَقْشَعِم تَعْشَعُورا ب تَعْشَرُونَ نَعْتَقَوِينَ تَعْشَعِيَّانِ تَعْشَعُونَ نَا تَسْعَوْ نَعْتَعَوْ مُعَتَّعَوْ مُعَنْ مَعْ مُصَارِع معروف الديقَتَشَع لَايَقَسَمِوَانِ المَ مُحَمَّتُ إِثْبَاتَ فَعَلَمُصْارَحَ مجهولَ ، يُقَسَّحَوُ يُعَشَّعَوَانِ يُقَشَّعَرُونَ تُقْسَعُ يَقْسَعُ الإِ مصارع مجهول؛ لايفت في لايفت عرب الن سبحث بغي تاكيد ركون دو فس تنعب معروف، لن يُعْتَقِع لَنُ يَقْشَعِرَ إِلَىٰ يَعْشَعِي وَالَنُ تَعْشَعِرَ لَنُ تَعْشَعُرَا لَنُ يَعْشَعُ لِمُ لَنُ تَعْشَعُ أَلَبُ تَقْشَعِرٍى مَنْ تَقْشَعِرَ الْنُ تَقْشَعَي دُنَ لَنُ أَقْشَعِ مَا لَنُ مَقْشَعِ مَ محمد فَعَى الجدر بُرُن درم متعبل مجهول ، لَنْ يَعْسَمُ لَنْ يُعْشَرُ الَنْ يُعْشَرُ إِلَى تُعْشَرُ لَنْ تُعْشَرُ لَنْ تُعْشَعُ الْنُ يُقْشَعُ إِنّ لَنْ

يغيب مرواك تقشير على تقشع آك تقشع رك كن أمستعر كن من من من من من على المستعر عن العن العن العن العن العن العن ا كُمُسْتَقْبِلِمُعْرُونٍ، لَمُ يَقْسَحُونَ لَمَرْ يَقْسَبُونَ لَمُ يَقْسَنُونَ لَمُ يَقْسَعُونَ الْمُ يَقْسَعُونَ لَفُرْ يَقْسَعُونَ لَمُ تَقْتُسُعِي رَكُمُ تُعْشَعِي إِلَا يَقْشَعُ إِنَّ لَمُ تَفْتُ حِرَ لَمُ تَقْشَعِ لَمُ تَقْشَعُون الْمُ تَقْشَعُ مَ مِنْقَشْحِ ٱلْدِنْقَشْعُرِدْنَ لَعَادَشَعَ لَمُرَافَتْحِيرَ لَمُ فَشَعَرِ لَمُ نَفَشَخُو لَمُ نَقْشُعِ لَمُ فَك مقبل مجهول لَمْ يُفْشِعَرَّ لَمُ يُقْسَعُو لَمُ يُقْسَعُونُ لَمُ يُقْسَعُونُ لَمُ يُقْسَعُونُوا يَقْشَعُهُا لَوْ يَفْشَعُ دُن لَعُ تُقْشَعُ لَرُ تُغْشَحُ لَعُ تُقْشَعُ رُكُمْ تُفْشَعُ الْمُ تُفْشَعُ وَالْعُرِ تُقْشَعُ بِالْمُ مريد كوافيت كرافتشر كر أفستر لا تفتر أكر تفسس كر تفسي كونفشي كونفش المونفشي المحت مراكب الوليا كمان وللمعظم وا لَيَقَشَعِرَنَّ لَيَقْشَعِرَانِ لَيَقْشَعِرُنَّ لَتَقْشَعِرَنَّ لَتَقْشَعِرَانِ لَيَقْشَعُرُونَانِّ لَنقشع رَنّ لِتَفَتَشْعِرُنَ لَتَقْشَعِرِينَ لَنَقْشَعِرَاتِ لَتَفَشَعُورُ أَنَ لَا تَشْعَرَنَ لَنَفْشَعِرَتَ لَنَفْشَعِرَ ؖ؆**ڮۑۮڣۜۑۘڷڋڔڣٵڞؙٮؾۜڣٙڹڔۻۅڶ**ۜ، ڵؽڡؙڹٛڂؘڂڗۜؾۜٛٙڵؽڣٛڹڟؘڋڗۜٳڣؚٚڵؽڣؽڹڂڗؚؾ۫ڵؿڣۺۼڗۜؾؘڵؿڣؙۺۼڗۜٳؠڿ لمُسْعُدِمُ مَا نَ لَنَفْسُعُونَ لَتَقْسُعُونَ لَيَقْسُعُونَ لَمُعْشَعُونَ لَتُعْشَعُونَ لَعُسْعُومُ مَا فِي لَ محت لأم أكبير ما يون ما كيد تفسط دفر مستقبل معروف ، ليَقْسُودَنَ لِيَعْشُودَنَ لِيَقْشُودَنَ لِتَقْشُودَنَ لَمُعْشَعِرُنُ لَتَفْشَحِرِنْ لَافْشَدِدَنْ لَنَفْشَجَرَ بَعَد الله مَا كَبِد بِالوْن الْكِدْخِيفَ دَرْفَعل مُستقبل مجول و موري الموريدي ويريد ويريد والموريدين الموريد ويريد الموريد ويريد ويريد ويريد ويريد ويريد ويريد ويريد ويريد وير ليفت عرب كيفت عرب لنفت عرب لنفت عرب لنفت عرب لنفت عرب لنفت عرب الفت عرب الموريد ويريد ويريد ويريد ويريد ويريد و **ما ضرمعروف ؛** إِنْسَتَعَبَّرًا تَشْعِبَرِ لِتَسْعَدِينُ إِنْسَبَحِرَا إِنْشَجِرُوْ لِإِنْسَتَعِبِينُ إِنْسَتَعَيِنُ سَ امر حاصر مجمول ، لِيَفْسَنُعَرَ لِيُقْسَعُرَ لِيفَضَعُرُ لِيفَسَعُرَ المُعْسَعُونَ إِلَيْقَسَعُ فَالمُعْسَمَ المُعْشَر المُعَنَ امرْغَامَبَ مَعْرَوْفَ، لِيَقْتَفَعِزَ لِيَعْتَشَعِزَ لِيَقْتَفَوْرُ لِيَقْتَشَعِزَا لِيَقْتَشَعِزُوْا لِتَقْتَشَعِزَ لِتَعْتَشَعُون لِنَقْشَعِرًا لِيُقْشَعُونَ نَ لِأَفْنَنُوَرَ لِأَقْشَعَرَ لِأَقْشَعَرَ لِنَقْشَعَرَ لِنَقْشَعَرَ لِنَقْشَعَرَ لِنَقْشَعَرَ لِنَقْشَعُ لِنَقْشَعُ لِنَقْشَعُ لِنَقْشَعُ لِنَقْشَعُ المُس مرول، ليفتشعر ليفتشغر ليفشغون ليفشغر ليفشعر أليفشخر والتفشغر لتفشغر لتفشغر ليفتشغر ل ليفتشخرن بالاقتشعة لأفشعر لأفتنع رم لنفتشغة ليفتشغ لنفتشغ لنفتشعن مجت امرحا فترمعهوف بالون ما يجد لغيبله، إفشتعِرَتَ إفْسَعِرَاتِ المُسْعَرَمَةَ إِنْسَعَرَيْ أَنْسَعَرَاتِ إِنْسَعَرِمُ مَانَ تَجعت أمرَ كُمَر مجهول بالون تاكير تقيله ؛ لِتُقَسَّعُرَنَ لِتُقْشَعُرَانِ لِتُقْشَعَرُنَ لِتُقْشَعُرُنَ لِتُقْشَعُرَ الْمُتَعَ ام عاسم معروف بالون ماكيد تغييله وليقش معوّن ليقشر ترات ليقشور كالتقشور كالتقشيري لتقشير مرات ليقش وراد لِاَ مَشْعِرَنَ كَانِفُتْعَجَرَنَ مُجَبَّ المرحاصَرَ معروفَ بَالَوْنَ تَأْكِيدَ عَيْفَ، اِتَّسْعِرَنَ اِتَشْعِرُنَ الْتَشْعِرَنُ بِحَفَّ امرحاض مجهول بانون ما يجد تعنيفه ، لِتُعْشَعَرَنْ لِتُقَسَّعَدُنْ لِتُقَسَّعَدُن لِتُتَسَعَدِن مجعث امرغا سب معروف بالون

كالجرار المقشير المقشرة المقشرة المقشرة والمقتشرة المقتشورة المقتشورة المحمث امرغاب مجهول بالون تاكبر نتخيف وليفشكري ليفشكرن ليفشكرن ليفشكرن لاكتشكرن لنفشكرن بمث بمص بمح مال مرموف، لاتقشور لَا تَقَسَّبَحِرِ لَانَقَشْعُرِمُ لَامَقْشَعِرَ لِلاَنَقْشَعِرْ كَالَاتَقْشَعِرِي لَا تَقْشَعُونَ أَن **بحث تَبْق حاضر مجول،** لَا تَفْسَتُعُرَّ لَا تَقْسَعُونُ لَا تُقْسَعُونُ لَا تُقْسَعُونُ اللَّ تُقْسَعُونُ فَا لَا تُقْشَعُونُ فَا لَ عاسب معروف، لَا يَعْسَبُورَ لا يَقْسَبُورَ لا يَقْسَعُون لا يَقْسَعُورَ الا يَقْسَعُونُ فَالا تَقْشَعُورَ لا تَقْشُعُون مُ ؘڮڗؾڣؾۜؾ۫ۼڗٙٳڵۮؘۑؿۺٛؿؘڔۣۯؾڵۮٵڣٛۺۼڗؚڵۮٵڎ۫ۺۼڗۣڵۮٵڎؿڣڂڕؽڒۮڹڤۺۼڗؚٙڵۮڹڤۺؘۼڗۣڵۮڹڠۺۼڕ*ڽڮڡؿ؉۬ؽٵ؆ۑڴڔۅڶ*٠ لَا يُقْشَرُ لَا يُقْشَعَرِ لَا يُقْشَعُنُ لا يُقْشَمَرًا لا يُعْشَدُو وَالا تُقْفَعَرَ لا تُقْشَدُو كَرَتَقَتَعُور لا تُقْشَدُوا لا يُعْشَدُون لَدَا مُسْتَعَوَّلاً أُسْتَعَدِيلاً تُسْتَرُي لا نُعْشَعَة لا مُقْشَعَدِ لا مُعْشَعُون محدث مجمع محاضر معروف بانون الجراهير دَيْعَشَهُ عِزَيَّةُ لَاتَقْشُعِرَيْنَ لاَنَقْشُعِرَيَّ لاَنَتَشْعِرِيُّ لاَتَقْشُعِرَيْنَ لاَ تَعْشَعُ رُم لاَ كعبله، لاَ يُقْشُعُونَ لا تُقْشُعُونَ لاَنْقَشْعُونَ لاتُقْشُدُونَ لاتُقْشُعُونَ لا تُقْشُعُونُ إِنَّ بحث بي عارم وف **ٳڹڹ**؆ڮ؉ڷڡۑڸ؞وڒ؞ؽڐٙۺؘڿڗؘؾؘۮؽڰۺێڗۜٳڹؚۮؽۼۺٛڂؚڗۘؽؘ؆ٮؘؿڣۺؘۼڗۘڹ؆ڎؿۺٞۼۯٳؾڵۮؽڡۺۼڕ؆ٳۊڵۮٲڎۺؘۼڗڣؘڵڬڡ۫ڣۼڗ بحث نهى عام جمول بالون ما يرتقيله الأيف حرّت لايقَسْحَرّت لايقَسْعَرّات لايقَسْعَرْتَ لاتفَسْدَرَتَ لا تفسّعتراً لايق تقريريان لا المشعرية لانفشغري بحث بنى حاضر معروف بالون الجد تفيد الاتفت ويرضى لاَتَقَشَرِينَ فَ بحث بحض مرجول بالون ما ي في في التقطير التقطير أَن لَا تُقضَر أَن لَد مُقضَع أَن بحب بحال م معروف بالون كير عبض لايق شيري لا يقضير في لا تقشيري لا أفظير أن لا نقشير بعض عام جبول بالون الجد معيم لايت مري لايل مري لاتقشوري لاالخشرين لانفشرين محمث مجاجل مقشو مقشوران متعقير في مقتوران مربر الترجمين المراجع الم سريفات إيواب ملح ابولب ملحقه برماع هجر مرف يفر للتي مزيدة يمكن بُرُباع تجرَّد ازباب اقل فعلكم يركن ألجليه علام السري المبتى يرتب كراسي عنى من جاز حرف و تعريق رئيسي المنتسبي منبع اور ايك زائد - يعسني لام كلمب منحرر الخسب في م

جَلْبَبَ يُجَلِّبُ جَلْبَبَةً ، نَهُوَمُجَلِّبِ - وَجُلْبِتِ يُجَلُبُ جَلْبَةً ، فَذَالَ مُجَلَبِتُال رش وحكبج -الع رُباعى جَرَدِ- ازباب دوم فَعُوَكَة مَرْ يُحُو المُسْرُوَكَة ، لدار کہنانا۔علامۃ ایس باب کی کیر سیے کہ ایک کی اصن میں حیظ لى، اور ايكس زائد يعنى عتراق لا محدر أن اواكماني. رف ہوتے ہیں ۔ تین ا سَرْدَلَ يُسَرُولُ سَرُوَلَةً، فَهُوَمُتَ دِينٌ وَمُسْرُجِلٌ يُسَرُوَلُ سُرُوَلَةً ، حَنَّذَاتَ مُسَرَّوُكُ ``الخ تْلِ دَحْرَبْ الْعَسْ-نَ بَرُبِاعِي مَجَرَّد ازباب سوم فَيْعَكَدُ ^{عِ}رُول القسكُ کی اصنی میں خیار تحرب ہوتے ہیں۔ مین داروعنه بهوما يغلام تراسس باب في بيه أصل، ادرایک زائر- لینی فت آء اور عین سے درمیان یاء الخس حَيْظُرُيْصَيْطِرُ صَيْطُرَةٌ ، فَهُوَ مُحَيْطٍ ﴿ - وَصُوْطِرَ مُصَيْطُرُ حَيْطُرَةٌ فَذَاتَ مُصَيْطُ ﴿ الْعَ بروُزْن دَحْرَجَ الترسم -بُرابى مُجَرّد إدباب جِهَامٍ فَعَيْلَهِ ؛ جُوْلِ الشَّرْيَفَةُ کے بڑھے ہوئے تیوں کو کا بنا۔ علامۃ اس باب کی بہ سے کہ ایک ماضی میں جالا حرف ہوتے ہیں تیکن اصلیٰ اورایک امدیکی عین علین اور لام کے در میان یا ء الحب رْيَفَ يُشَرِّبِينُ شَرْيَفَهُ ، · وَشَرُوهِ لَيْ نَشَرُلِهِ ثَانَةُ وَلَعَنْ شَرْكَةُ بمتل ذُخْرَبَحُ اللهُ 🛱 مرفقة علق يرون الجنورية بحوا می اصی میں چار حرف ہوتے ہیں۔ نبن اصلی اورا یک يهنارً علامة اس رعبن کے درمیان واؤ الخ زايذ يعم جَوْدَبٌ يَجَوْدِبُ جَوْدَبَةَ، ب وجوري يجورك جوربة ، فذ

نل دَخْرَج … الخ *سبع* مرف مغير ما تكوي مريد في مُلْحِن بَرُباع مُجَرَّد الباب شم فَعَنَكَهُ لَي حَوْل الْعَلْنَسَةِ الحويي بهنا-علامة إس باب كى يسب ، كداسكى مامنى مين جار حرف بوية بن يتن الملى اورايك فلامد -یعنی غین اور آم کے در میانے ک ومُتَلْسَبُ وَقُلْنِسَ يَقَالُنُ قَلْنَتَهُ ، فَذَاتَ مُعَلَّنَنَ الغ وَلَي مُعَالَيَنَ تَلْنَسَ يُعَلَّنِنِي مَلْنَ المستمرفع لألأ ويول القلسب تؤد ، ملحق برماعی مجب ترد ا چی رخرف ہوتے ہیں۔ إب في يد سے، کہ الْ مُقَلَّمَهُمْ مِمَا قَلْهُمْ مَا قُلْهُ 125 101 101 ِ لِنُقَلُبَ ، لِيُقَلُس لِيُقَلُبَ، تَلْسِبَنَ لِتُقَلَسُبَنَ ، لِيقُلُسِبَنَّ لِيقَلُسِينَ فَلُسَبَنَ وَتُقَلُ <u> لاِتُقَلْسَ، لَاِيْفَكْ لِي لَا يُقَلَّبَ</u> لِمُعَلَى مَنْ وَالْمَعْمُ عَزْمٍ لَاتَعْلَى لاتُقَلَى لاَيُفَلَى لاَيُقَلَى الاَيُقَلَى الْمُتَعَلَى لاَيُقَلَ لَا يُقَلَسُكُنَّ ، لَاتُقَلَسِينُ لَاتَقَلَسَيَنُ ، لَا يُقَلَسِينُ لَا يُقَلَسِينُ لَا يُقَلَسَينُ - اَيَظَ 0 يغل ثلاقي مزيد فيرتكحق برباعي مزيد فسه - ازما**ت تَفَعُلُ**لُ يَجُوَك سَبَابِ في يديم ، كدار في ما فني ادربهنا- علامة آ د وزائد یعنی تترقع میں ماءاورلام کلم تحرر لخب قی وتُجُلِبِت مُنَجَلَبَ مَنَعَدُ مَتَحَ نَهْوَمْتَجَلِّيبٌ -، ل لاقى زىد في مرباعى مزيد في مدارباب دوم قى قى كەڭ يوك اكتىرىڭ.

شلوار بېدنا علامة ايس باب کې يې س*ې ک*دام کې ما صخي مي ^جابخ حرب ہوتے ہيں -تین اصلی اور دوزائد یعنی شروع میں آء،ادر تین لام کے درمیان واؤالخس ان – تَسَرُولَ يَتَسَرُولُ تُسَرُولاً اللهُ مِثْنُ مَرْجَعَ اللهُ عِبْهُ تصغير فعل ثلاثي مزيذ فيسبه لمكحن سرماعي مزيد فيسه به ازماب سوم تنفيت لأيتحون التنه بيظنى ومنتبيطان ببونا يتلامته اسب باب كي ييس كياسكي خلى يرجرف ہو ستے ہیں تبین اصلی، دورا بدر تعبنی ترض میں ماء،او خاماور میں تحدر مان با الحاق تَسْبُحُنُ يَتَشَيْطُ تَشَيْطُنُا فَهُومُتَشَيْطِنُ الَحَ بِزَزْنِ تَدَحُرَجَ الله سبه مە صغرفىن ئىلاتى مزىدۇب مېڭى ئرماعى مزىدۇنىير. ازباب چہارم دە دۇغۇ ئىل يېچە يېپ التَجْوَرِيْجَ، جُرَابُ بِهِنا-عِلامته اِسْسِ بَابِ بِي بِهِ سِبْحُرُاسِ كَي مَاضَى بِسَ بِالْحَرِيجَ حرف يحت إلى يبيئ اصلى اورد وزائد لعبي تتروع ميناس اد فآوعت تحيي ميان واؤاكماتي. نَجَوْرَبَ بَيَجُوْرَبُ نَجُوُرُبًا، فَهُوَ مُنَجَوْرِبٌ - وَتَجْوَرِبَ مِنْجَوْرَبَ مَنْجَوْرَبَ مَ (للخ بمدفر فن تَدْخُدُ بَحَرُ اللهُ سبع م صرف صغير فعل ثلاثي مزيد في مُركبة برماعي مزيد نيه - ازباب نيخم تصعب بيركون البقلنين • قوبی بہنا۔علامہ ایس باب کی بینے کراسکی ماضی میں گانچ سراف میے ہیں۔ بین صلی اور دو زائد يعنى ترويخ يرمام، اورعينَ ولأم كم درميب إن نوت الحيّ الحيَّب الحيَّب الحيَّب الحيَّب الحيّ تَقَلُّسُ يَتَقَلُّسُ تَقَلُّسُما ، فَهُوَ مُتَقَلُنِكَ الخ سُلُ يُحُرُجُ الخ سِ مرد المربع من بد صد بازبات مشتم مصل محمل المتسلى : مُلَحَقَ مُرْباعي مزيد صد بازبات مشتم مصل محمل محمل التمسلي : یں ہونا - علام تہ اسب باب کی بنے ہے ، ^{کہ ارس} کی ماضی میں با^نے حرف ہوتے ہیں تتين أصلى، أورد وزائد ليعنى تترضي بين مآءادراست بعد قبل فآء ، ميتم الخسب تَعَسَيُكُنَّ يَتَنَسَسُكُنُّ تَعَسَيُكُنَّ اللهُ يَشْ مَحْرَيَّ ----- الخ سب -فيصغير ولأثى مزبد فيبسبه كملحق برًباعي مزيد فنيب ازباب مفتمه تفع كميع يور

کم بیرے کرا کی اُختی میں کا بخ پر ف ^{او}تے ہیں۔ مر می برعدمت بزما -علام **م** ليعقوب ، سريد يعنى متروع مين قاء ، أور أحب مين تا ين الى اور ديواند - يعنى متروع مين قاء ، أور أحب مين تا جسيد سيدور في تدخير ما، فهو متعفير في من الم شي تدخر علم بيريين تاردا ىيى ئويى يېنا. ف ہوتے ہیں ۔ تین آسلی 'اورد کوزائد کی اعنی میں کا تبخ فَقَلْسَى تَعَلَّسْنا، فَذَاكَ مُتَعَلَّمُ - -ى مَا يَقَلُونَ، لَعْرِيَنَقُلْسُ كَعْرِقْيَقُلْسَ، لَا يَتَقَلْسَى لَا يُنَقَلْسَى، لَنْ يَتَقُلْ الأمرم بيشره تَغَلَّبُ لِنَتَقَلْسُ بِلِتَقَلْسُ الْمَتَقَلْسُ المتقلسين ليتقلسان والم لِيُتَقَلِّسُهُنَّ لِيتَعَلِّسُكُنَّ ، نَعَلُسُكُنَّ لِيتَقَلُّ ورري امرر جرريز لَا تَتَعَلَّسُ لَا يَتُقَلُّسَ ، لَا يَتُعَلَّسُ لَا يُتَعَلِّسُكَنَّ لَا يَتَعَلَّسُكَنَّ لَا يَتُعَلَّسُكَنّ مَتَقَلَّسِينَ لَا يُتَقَلَّسَينَ ، لَا يَتَقَلُسِينَ لَا يَتَقَلَّسَينَ الظَّرِينَ الظَّرِينَ مُتَقَلْسَي مُتَقَلِسَيانِ مُتَقَلْسَيَ كُ ابواب مُلْحَقَّه بَرانْدِنَلَالْ رُمَاعُ مَرْيَقِمَ ر ملحق برماعی مزیدد ، ازاب اوّل إنْجِنْكُولْ مُحْسَ ام برکال کر (اکر کر) چلنا یعلامت اس باب کی شب تے ہیں۔ ٹیرین اصلیٰ اور میں زا یر۔ باين نوتن ، اورايخ من لام محرَّر المخت في . دين من مر وصلي ا يكى الله يس إحدَّن عَمَر الى بيم-مرف منج فول ثلاثي مزيد في مُكْمَقَ بَرُباعي مزيد في رازاب وما إفية بُلَاء مُرْجَع سُجُوس ألا سَتَلِنْتُ أَمر المريح بي يُشونا علامة أس بآب كي بي محد الم من من جفر حرف ہوتے ہیں بیمر صلی، اور تین زائد تعنی تنزوع میں ہمزہ وضلی، عین دلام کے

دميب إن نون اور آحت مي لام مكرر الخز ٣كَنْتَى يَسْلَنْتِى الشَّلِنَعْنَاءٌ، فَهُو مُسْلَنَتْ وَاسْلَنْتَى يُسْلَنْعَى اسْلِنْعَامُ ، فَذَاكَ مُسْلَنُقَ مَا اسْلَنْعَى السُلُنْقِي ، لَمُ يَسْلَنُونَ لَوُ يُسْلَنَى ، لا يُسْلَنْتِي وَاسْلَنْتِي لَنْ يَسْلَنَتْنِي لَنْ يُسْلَنُونَ لَيُسْتَلَنَقَبَنَ ، لَيَسَتَلَنُوْيَنْ لَيُسُلَكُونَ الْكُرُمِزْمَ السَّلَنْ لِتَسْتَلَنْ ، لِيَسَتَلَنْ أَلِي يَسْتَلَنُوْيَنَ لِيسْتَلَنُفَبَنَ ، إِسْلَنُوْيَ لِتُسْتَلَنَقَيْنَ ، لِيسَلَنُوْيَنَ لِيسُتَلَنْ مَتَسَبَ بَع وَاللَّحُسُ عَسُهُ: لَاسْتَلَبَقَ لَاسْتَلَبَقَ ،لَا يَسْتَلَبَقَ لَاسْتَلَبَقَ ؟ لَا تَسْلَقْنِينَ لَاسْتَلْغَينَ ، لَا يَسْتَلُبُقَ ؟ لَا يَسْتَلُبُونَ الْعُرِينَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُدَانِينَ لَا يُسْتَلُبُقَ ؟ لَا يَسْتَلُبُونَ الْعُرُقُصُ مُسْلَبُعُ مَنْ الْعُرُينَةُ عَلَيْهُ كُولَينَا وَعَلَيْهُ عَلَيْ الْعُرُقُصُ مُسْتَلُبُعُ مُسْتَلُبُونَ الْعُرُقُصُ مُسْتَلُبُونَ الْعُرُقُصُ مُسْتَلُبُونَ الْعُرُقُصُ مُسْتَلُبُونَ الْعُرُقُصُ مُسْتَلُبُونَ الْعُرُ مُسْتَلُبُعُ إِمَا مَسْتَلُبُونَ اللَّهُ مُسَلَبُونَ الْمُسْتَلُبُونَ الْمُسْتَلُبُونَ الْعُرُقُصُ مُسْتَلُبُو مُسْتَلُبُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُسْتَلُبُونَ الْمُسْتَلُبُونَ الْمُسْتَلُبُونَ الْعُرُقُصُ مُسْتَلُبُون بأب مُلْحَقْ بَرَ إِفْعِلَالُ من صغير محل كلاتى مزيد فيسه، مُعْمَنَ بَرُباعى مزيد في ازباب إفتو عُلَالَ - چُوس لِلْكَوُهُدَادَ^م، كومضش كرنا - علامته بس باب كى يسط كديسكى ماصى من چرخ ف محت إِن يَبْنَ صلى اور بِنَ مَا مَدَ يعنى تَدُوسَ مِن مِرْهُ وَضلى فَلْصَحِ بِعِزْاوَ لِحاق، اورلام كم مركز مُسْدَر مَدْ يَبَحُرُ هِذَ الْجُوهُدَادًا، مَعْدُ مَكُومُودَ حَاكُومُونَا بِحَوْمَ مَدَاحًا مَدَاحًا مَدَ مَكْمَ مُعْرَ

المركب في المرابع المدين فيها رحصة دوم () تاليف مُولانا نواجه خُداستش مُلتانی بانی دنهتم دارالعلوم الاست لامیتهٔ ملتان Tr's isi شركهر مُسَلِّدان ، بِاكْسَتَان

۲۱ نندجن مقرون : يبس تحفیل مجل، بادد لام بجل عما حرمت عِنَّز جو- بیسے طوی ا المجل وتعرق لي ليسون الكلي ستشران التجز الترجيني آخاد کمک، - داختم بواکدتری کے بعض کمکنامت ہیں حرفت جلتہ دہست ہیں ہجزہ م میں۔ مصباعتقب ، ۔ دہ ۔ ج مجن میں دو حرب قبل ، ایک بنس سے ہوں ۔ اِس کی دو مرب بعض م المب منس سے داد جومت ، وست م اور بعض گمات میں المن "جنوب (١) مُناعَف كُلاتى - مِسْكامِين كَمَدَ إدرا مُكْدَ أيس جنس كابو - بيب متبتّ ، مذکورہ بیز دل میں سے ایک میں نہیں ہوتی۔ بنا بریں ، کُل کُلُات غرب ہمات ٢٠) مضاعب ژبامی احس کافار کند ادر بطالام مین کمد اور دومرالام ایک ميح است فتمال ست مفاعم . • الميف واتص وتبتوز وأجوك . منس کرد بیمی متضمیض پژن نغلاً . مصبح · - اُس کوکشتان جس سرکس حرب اُسک سرمقابلدین بَمَرْه ، حرب عَلَّة ، اور درّ فاكره (١)، بَمَتَّده أس حرب مِلَّة ماكن كوكت من سبس مح ماتَّبل كى حَرَكَة أس محتوان حاف أسلى بمجنس زيول - جيسيه خترَّب ، ترابُّعلُّ جو۔ بصب قَالَ، يَقُوُلُ، يَبِيعُ لَيْنِ أَس مون بِغَرَ ماك كوك مِقْدِي بس ، ابْن بُعْمُورْ، _ مُ كوكت مِ جب كركسي حرب السلي تحدُّمقابُله مِي تيمزه ہو- إ س كَي مِنسِمِي ى وَكَرَدَ أَس مَكْمَعَالَف مِن مِعْمِي فَوْلٌ ، بَعْيَعٌ -فأبكده ١٢، - بمزه، حدبت مِكَّة، اور دوموت بم من مَعاف سے الفاظيں بوتَعْل ٥) مُتُور الغار : حسب محفظ المكرمي تجزه بو- بعيد أحراً : أَحْرًا جَهُ جَالَ مَتَوَدُ الغَلَمَ جَا ٢٠، فكمور العين : يعسب من كلمة من بمزه مر بعي سال ، مراش . آجا تب ، اُس کودود کہنے کے واسط چند قاعد سے مُعَرَّد میں ۔ اُن میں سے بعض میں حَذف : - حرب الله كوكراديا - سب يدف مؤسس لتويد فرم (٣) مَهموزُ اللَّام : مسبس کے لام کلمد میں تیمزہ ہو۔ جیسے قسات محرف -ا بدال ، ایک حزب کودد سی روز سے بالیک فرار کودوسری فراکت بدن مرت مِنْتر تين مِن - وآ دُر أيت ريّار - كرمور إن كا" واي " منه - تينون بي يناكر المل من فيول مما. مُودِبْ مُنْتُمْ، نَتْمَرِ بُمُسْبَدِهِ كَرَضِينَ سے بیدا ہوتے ہی ۔ بین مُمَّ كَکِینے سے دّائز، إنسكان، يمح من مرتد زال كردينا، جيس تيدُ عُنْ، بَعْضْ، كَرَمْسْ مِن فَمَرْكُ مسيني مس أبنت ، اوركسروكركسيني مس يار - إسى داسط وآ وكو أُخْسَبَ صَمَّه ، يَنُ عُوُ، يَزْيِعِي مِنّا بِ ألِف كواً طبت تعقر، ادريًا . كواً فت كمسره كيت من . فريك، ، - دور النوري مديك كوتركة دينا - بي المتكول الكيان المويد ب جس کلمذیں کوئی حرب جسل، حرب جلَّة بوء تو اُس کومُنتَل کیتے ہیں۔ یَقْرَنْسَ الطِيفِيف : - وه تُنْبِر ب ، جرَّتموزين بور يبيد تامع . كُلْفُس مِن تَكْشُ تما -کی تین میں ہر، (، مُنتَلَّ الغار ، حس کومتَّال ہو کیتے جن ۲۰ مُنتَلُّ الْمَتِين ، حسَّس کو إغلال لعليس: - دەتىنتر ب بۇنىش بى بو. بىيە تىل كەش ب تۆك تما-البوتين بيمي يكيتي مين امين أنقأم اجس كونا نفس مى كيتي من البراكيب كي تعريف إ دغام: - بِمِسْ يامِم مُغْرَج بِا قَرِيبُ الْمُزْجَ وَ وَحِرْفِلَ مِن سَے لَيک کو دوسرے تھ المرالكر برما. معيدة بت، وَحَدْثَ، ٱلمَدْ عَلَكُمُ . مِثْالٍ : . دہ ہے جس کے فاکر کمہ م حزب مِلَّة ہو، اِس کی د دسبی میں . ر، مثال دادی : حص سے قار کمیہ میں داؤ ہو۔ جسے وَعَدَ ، دَعْلَ م فواعد منمونه ٢٧، مثال باني : يعب سمه فاركمته من آربو - جيب بتشر ميسو . اَجْوَ کَتْ : - دو سے ، عمر کے معن کل میں حزب بلَّہ ہو۔ اِس کی درتسیں ہیں - ۱۱ اجوف دادی ، سبس تصمین گلند میں دآ زمید - جیسے تلاق مخول میں قاعدا 12 : - الرابك بتزد ساكن بر- تريمز مكواتش كى فترك محداف موم بلاً (٢) اجوف ياتى : معين سكمين كله ين ياربو - بيني بمائع ، بيع . ت بدل دينا جاتزي - معيد تراس، فذيب، بكوش - إلى المحلكة منا الكون يتحين ناقص: - وه ب، جس سرواد مجلد مى موب يك بود إس ك دوسي ير . وَيَعْنُلُوذَنْ إِنَّى كُلُسَ مِنْ مَزَّكُنٌ ، ذِبْتَ ، بُؤْسَ مِلْقَ الْمُعْدَانِيْنَا الَّذِن كُفُن () ناقص داوى : - جس محالام كمن من داوي معيد قد عام د مفوية . وتقذل اعتزه ليتسار (٢) ناقص یائی : يعب سے لام تجنہ پس بکر ہو۔ بصب سراملی ، سرَّفَیَّ -قاعده مل :- الردو بمرا ايك كم مي أن بور ، دوساساكن بد تدور سرا بمريح لفبیطف ۱- وہ سے جس تک دو مرمین آمل، طوب اللہ ہوں ۔ اِس کی دوسیں میں -بالم منوسه ك حَرَكَت موافق حرب بقَّت مل متاوات ب ب معيد أحمَّ او من ، والم النيعني بمفرون : - جن شك فارجم: ادرال مجمد بن حزب مِلْة جو جيب وَلِيَ المانا كأس ش أدمت ، أومن ، إنتاناتها . الم بول دوم دردوكر المشدر عود ورد دارد طل فراد الوصول مسال بو مد موب يلمة نام كودند وآوالف وياسعوله بركواور وسيسد فناجا ركوبرواسي والتته

قاعده مله . . الرايك برومتوك ، ابْل ساكن تابَّل خرَّكة تبود توجوازاً بعزه كالمركة بس 🛛 يتشخذ كم الش مي وعنَّ ، ورني ، ورسْعُ عنا -قاعدد ملا ، داوراك، غيرتد تم كريك معديد ، روم أب . معد مدينان . كونسه كر، بحذه كوكرا دييشه مير. بيسيه يَسَلْ يَسَلْ عَقْضَاهُ ، يَزْمِينَهُ (كَلْسُلْ بِي نَسَالُ ا المس بيل ميوذ إن تلها ، ادرياً من ماكن ، غير مُذكم ، مُعَمَّد مح معد وا وُروها كالب بصب بي يُوسَحُ يَدْ عَنْ أَخَاةً ، يَرْجِي أَخَاةُ تَعاد (حَرّ مَعْ مَعْ مُعْد عَمَا فَعَد من كأسل من يستركوا اورالف المترك بعد والأكتر كم بعديد بهوما آب جيسة قاتل فاكدة ، . يَدْبِي د يُدْبِي ، يَبْرَبُدُيْتِة مُصْتِق مَمَ أَنْعَالَ مِن مُكوره إلامًا مده وجول ب - ابدت ، ثقية محاسمايست تقدير المش ويكرا فعال وأشمار - حوارى - جمع قراقى ى قۇيىل ، درىغراب سىقاير، يى . تلاعده ايم : - بودار ، يَد أمل باب إنسال م فاركد من واقع مود وأس كوتار ي فوت من مربح، اور مرافق اسم معدول من مربع بر مناجا مرتب -بل كر الآركام مرود في من المحدد في أسب النَّقَدَ ، النَّسَرَ . كَمَسْل من المُقْقَدَ، المُتَكُومُ قاعده الم ... الحرايب بجزه منتوح ماتبل مغمور بالمحسوريد. توبوازًا بمره كواتبل كالجريم فاعدد م ، الرجد مدوع من دودا دمتوك دافع مور - توسيط داوكو مرا م مدل مم مونى، حوف بلَّة مع بدل ديت بي جسي سُوَّالاً، مِيتَرُ، يُوَلَعِدْ، عُلَام رَدَبْ، ويتيم . معيم أواَعِدْ ، أوَيعِدْ . بعُلَام يَبِي - كُمَّل مِن سُوَّالَ ، مِتَنَ بَوَاحِدُ، عُلَامُزَانٍ، بِعُلَامِ أَنِ سَعَا -قاعدة عله - الأوآدمنسوي المحسور تجلد محشوع من داقع جو- تومضوم كوبالوخاع ، قاعد وعمد :- اگردد بمزے متحرک ایک مجلم می جن ہوں، دوسرا کمسور، خیر طرف ہو۔ تو او بسور موبعض کے اس بھڑہ سے بدل دینا مائز سے - بعیسے اُعِدّ ، اُسْخُدْ مُ الصَّالَ کَ د دست كرد وازاية سرمل ويتي من بيب أيت كم لفس من أدمت تقام امْس دُعِق، دُجُوْبٌ دِصَالٌ تَعَا -قاعده مل :-- الادد بمرا متوك ايك بكرة عن مع بول " أن م س الدراك ايك بم ادراكر وتؤسيسي الممسيمين تجمديس دافع جويه توأس كويمي تيزه يصبعك ويناجائز مسور ہو، دوسراطون میں داقع ہو۔ تو دوسرے کویا سے بدل دیتے ہیں ۔ میسے بتا پاکہ ے رَبِّ عَلَى مُنْ يَعْدِدا معنمون بِغَمَة عارض ندبو بي مصبحه أو مُرْثُ كُمس من أو وَرُبْ مَا المل مريكاني ثناً. جمع داذى . اورشد رم ين را ومعتوج كويمزو معددان اجا مربع. قاعدد، 2 :- اكردو من متوك ايك بكر م من بول ، أن م من كول مى مسورند. قواع مُعَثَّلِ أَعِينُ تودد ستشكر وأدس بدل ديت بل . سيسادًا وأد تُوتِل كم من م أو وماء قدل معا . قاعده مدين الرايك كمدس وآدمتره زائده بإياب متره ذائدوا بالت تصغير بعد قاعده عله :- جب المل كل فن ولكه ، يَدْمَعُوك بأنبل مغتوح جو ، توقاً و أيا ركوان بمزه دانع بو- ترجوازًا بجزه كومَ أَبْل كَيْمُس ، جدل كَزاد خام كرديت مِن - بسيس مَعْرَقَةً ، ے دل الستے میں - جمیعے قالَ ، بلغ کِفْسِ مِنْ وَلَنْ ، بَيْعَ ، مَار حَطِيَّتُهُ، أُذَيَّتُ . كُمْلٍ مِنْ مَقْرُوْءَةً خَطِيْتُهُ، أُوَّيَبُشَّ مَا . فایدہ : - اُس وَاَوْ، بَا کُوْمِی بُوَکُمْسْ مِ بُخُرُكَ ہو۔ ماتِس مُغَوّْتَ ہونے کی دِجِ سے قداء مُغَثَّاتُ إلْهَا. الف ، ول ديت من بسب يُقَالُ ، يُبَاعُ كَلَسُل من يُعْوَلُ ، يُبَعَ مُنا -فاعدة مل ، ألا في تجرّد مع امنى معروف ومحمول محدسيفة جمع موست ماسب قاعدة مك: - والأساكن، علامة معناية عفتومه، ادركسرة محه درميان، باأس كل يحفقه أخرتك، ابتجويب دين مغتور مهيين ومضموم بعين مي اجتماع ساكنين كي مو سےمعرف ا حدرمیان دافع بورجس کا میں بالام وحرب ملتق محود - توکر جایا سے - مسبعہ تیعد، ایسَت ، مى الف كو، ادر جول من ياركوكراكر، فاركم كومتم ويت بن - تاكد وازمخذوت بر يَهَبُ، يَضَعُ - كُمُسْ مِي يَوْعِلُ، يَوْسَعُ، يَوْهَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا -الم منترى بين باب محمد عد من مكر كوفت ويناجى جا تزب ١٢ مند مله مد تم جول إنجلوا و قاعلیہ بل :- جومعیدٌ کہ فکل سے فذن پر بر، اورغارکل والو ہو، تو وال کوخذ ک کرے ۳ منه تک مَدْتُم يول مُدْتُر امنه مېين **ک**ر کوکسره د *ب کر، د*انو *کمکومن آخ*ړی تار زياده کر د بيته چې - مِصِب عِدَاقَّ، زِنَيَّتْ يك درباب إفسّال بركنَةٍ تمام إطريجا زاست ووتُعَمَّل وتغاصّ بركتَة بعض المريجار الشفي إجراءتهم سله شل تساميل خارية شكراامند عليه بستعطيك أثملش تون العنوال نباشد- درز بالجود التباس لازم خوابر هُسَدًا درايَتُكَ، وَجُرِه مُلابِ قَبَاس مست الاستركَ مِشْلَ مِن وَوَاعِدُهما - جَمِ وَلَعِنَّكَى المس ٱمَدْ يَوِنِ إِنْأَطْلَ (إِخْرَجْ) ""منه ملك المس بن جَابِقٌ تما- بَرْقَاعدة كَانُتُعُ بَسَابَةً بُوا يعربه فال ى أسْن برۇدىيدىكا، تىدىر تايانى سىند ك جون تىتى أسىر ك جون سادۇن، ك بذابتنا فی موکید مُتَر آریز شیش تما ،محزوبا ، اجتماع ست کنیں ہوا، درمیاق یا اور توین سے . یا کو دربنس تراوينون بود 11 مندشف ابدل ور آحدك وآفاظ وأمتما وفيروسف واست 11 مندلك فؤعق قحادياء بتتآد بتكما تلامنير سَيَقُوْلُ دَخِرِه مَارِي مِنْدَمَ سَدِ سَلْتَه بَسْدَوْتِكَد (١، مَا تَجْرَنَتِر - مِنِي تَوَتَّى ، تَبَشَرًا ٣ بَصَ لِعِن م يسموليك برأود دام من جز درند بالعدد نيس بيكم بسب ألم كم برا منه على مي أدكر است نه دو بسبب کلوای، شحیق ۲۰) بابعدایرا حرب ماکن ندیو، برکا بجوست وسسکون لادی بر بیب شوان تسنيراً فأتش الحسارات معاريا دومجا رف والااكم مجود المارد، ١٢ مدرشة برشير فيكوفي تعصور، يَدَاضُ (٣) مَلامَة نُسْبَد م يتف ربو. جب دَعَلْ مَ مَيّا، حَصَوْلَن، عَصَوْلِن، حَصَرَ بْن. دَيْجَان الكتيبة بعام والوير تسطامي بالمد تعلي مودادر بذكركوالني محد مذم منعال محداشتراك في ميتويد ع رَحْيَنِي - ٥٥) العن بَقْم م يط رَبو. من وُتَحَوَا في مُ مَعَيّا وُ عَصَواتُ، رَجَيا رجمهال ک^ویاگما ۳۰ سند – عنه میس وکیست بین بخط دنیرد خارط شد ۳۰ مند

العب بخنع سے بیلے مرمنب بلَّة بولَّ ادرأُس کے بعد یا سے ساکن نرکیو۔ جیسے آ وَافِلُ مَعْدَدْتُكَ دلالة كرم - جيم أَيْلَى ، كَلِيلَى مت قُلْنَا، كُلْنَا كَم مس الموف إلى یں مطلقاً، اور ابیون وادی متحسو العین مں کسرہ دیتے ہیں ۔ تاکہ باتے محذوف کُن كرمس مي أدّادك بتجباير مماً -یا باب کی اصی کے محسور لعین ہونے پر دلالہ کوسے ۔ بیصیبے ہدئت ، بیطن سے بندا، فاعدد بمشه : - جسب وآوً، بآر ایکش مجرّ بی جنع بروں ۱۰ وّل ماکن بور تووآ وکو یا۔ خفياكت سے دل کر پارکا پار میں ادخام کر دیتے جی ۔ جیسے سَتِیَنٌ ۔ کَفَصْل میں سَتَدِیْوَ پُحْمَا ۔ **قاعدہ ملک** ، ۔ ماضی جمول سے میں کلا سے وا و، بآر کا کسر ڈیسیں سونے کی دہد سے مانٹیں کر بيواكرا تبل سنرم بود توختر كميآركى تمناستشبية سيكسرو سعديدل دسيتغ بس وجيبوهما بي دسے محبعیت بیے اُس کی ترکزے ، وَاوْککروک نہ ۔ حدیا ہے مل دینے ہیں ۔ جسے قِنیلَ م من مديلة، كأمل من مراموي، مفهوي مفهوي ، مداودي ليو من من المودي ليو . مسجدي ، مسيلةي - كرمس من موي ، مضوي ، مصوي ، مسيلموي محاسر ينبع النقيدة الخيبر-قًا عدن عشر : و المرمون بلَّة لأباد العب بَقْع م بعددات بو- نويمزه س بدل ديت قاً عد عله : - سبب مَثْنَ كله مِن وآوُ، بَار متحرك ، ماثن سيم ملكن جو- توواً وْ بَارِي خَرَكَ ا یں۔ بسے بچانیز، شرایف، ترمیساند نىل كۆك ماقېل كوشتە دىيتىيىن. بىيب يغۇڭ، ئېبنىغ - كەنسل مى ئىغۇل، ئېبنىغ تىپا . قواعب بُغتنُ اللَّهُ جحرافكرنعل شده خركته نعترجونه تودآدا بأرساكن كوربهوكه غس مي متحرك تتصح بترفاعدة قاعدو الم - جب لام كمندى وأو ، كسرو ت بعدوان مو- توار ا بدانية من جيم قَالَ العف من جدل وسيت مي بتيسيم يُعَالُ ، يُبْرَعُ لَأُسْسَ مِ يُقْوَلُ ، يُبْدَيْعُ مُعَامً دُبِيَ، دَايِبَيَنَ كَرَبَكُسُ مِنْ دُبِيَ، دَايِعَهُ فُمُعَا . قاعده مد ودوريد مخاعل شك العت م بعد دافع جو - توبمزه م بعل دينة جر -قاعد بک، جب لام کلر میں آینٹم سے بعدداقع ہو، تو داؤ ہوماتی ہے۔ جیسے تہیں کہ بعيدةايُّلَ، بَا يُعَ كَرَاسُ مِن قَادِلَ، بَا يَعَ نَعَا ر انس بَنْهَى مَنْكُ قاعدہ المد : - الجرموب بلَّة تَهل، العب بَن سے بعد واقع ہو - توہمزہ ہوما تا ہے بُرش طریکہ قاعارہ سے :- اگرلام گذیں داؤر بآ دغیرَشَتَد دمنسور یا مکسور ، مانبل متوک ہو- تونَعَتَه الا المَدْهِ الله من ينه زيو. بين خلويل المَدِينَ عَمَاتَ مَ البِينَ تَعَلَّوُا الْدَيْفَاكُوا المُغْكَرُينَ تَعْتَكُو ادر کسرو کرتیس ہونے کی دم اسے کرا دیتے ہیں ہمیے بتڈ عن ایزوجن ۔ الکّا بنی اللَّ ابن ۷ وَاَدَادِ مَغْضَلِينِ كَي إِنَّ أَكْرِمِهُ مُدَّهِ مِنْ لَبَكِن زَائِرُونَسِ . بكذمستقلُّ كَمار ، ا دِنس سے مامل ہی . لہٰذابی سے الرَّاجِي ، لِلسَّاجِي كَمْضَ مِن بَدْ عُقُ ، بَرْجِي ، أَلَكَ عِقْ ، لِلتَّاجِي ، الرَّاجِي، لِلرَّاج ينط واَزُ بِآرِينَ مِنْعِيلٍ بُوكَ - يعريسبب اجتماع ساكنين مُغَرْفَ سُرَّك. جيسه دُعَقْ لَمُو يَحْشَوْ ايتخَفْظُ قاعدہ سکتا : - جودآؤکر کلیدیں ہوتھی مگر ، بازا مربر داقع ہو، مقبل کی مُرَکة اُس کے مُرَافَقٌ تَحْسُنُونَ ، تَغْشَنْدُونَ () ، جبب ولَون كمسى من دجو بصب عور اكستجش برا) عدير الحكول ارترد توأس وأوكديا مع دل وسيت يم - بسيع انخلى ، يُدْتعى -سابری دانا ہوں اما حدث مُشقَد سے بعد نردد بعیب حکوی مراحیق (۱) نون اک سے بسلے زمید قاعدہ مط ، - اتحدام کرمیں واؤمنتموم ، فمتر سے بعد واقع ہو، اور اس سے بعد واز سائن صِيهالتُكْمَوُنُ المُعَشِّينَ لَتَكْتَكُونُ والمُشْتِينَ (١٠) مَعَكَرُنُ وتَعَلَّى أورامُعَكَمْ مَ وَزُكْرَبِهِ. ین یا یا بے سکسور، کسرہ سے بعد داقع ہو، ادراس سے بعد آپر ساکن ہو۔ تو دائن خِتَبہ ادر بعيد دَوَرَانِي، سَيَلَانٌ، مَوَلِي (٢) جِسْر، حَيَداي (مِسْبَعَةُ المُخْتَال)، درحَوَكَةً فَمُ حَامَتُ كُ ال این وجودی مشرط ک دیر مست متفاول ، میکاییم ونیره می تا مده حسب اجاری نربوکا ۲۰ مند (ملاہا)(ا') ایسے کم کی کے سلح میں تر ہوہ م منظل ترونی ہو۔ جیسے ابت کی باغت کر باغت کہ کہ کا دکت اوک تعا وکر یے سنی ب ين مرى مدى مشرحك وبد ب مَعَاوِيْلٌ ، مَسَادِينَعُ ، في ما مدد حد ذاجارى زبوك " منه الى، تىكادر كاستى ب الجميروى بنا- اور ين المتقود ما ب . ألكاد كاسى ب المد براديد لها. ادرى سنى كله مغردايت ، أوَّلُ وحَيْرُ است "مَدْمَكَ حَلَّ أَبُوْ يَتَعَيُّبُ عَاريَ مِتْدِ "مَدْ اللَّهُ عَلَى كمدكر اغَتَوَيَّزَكَ مصده أَمَّا قَوَدٌ فَشَادٌ مند شله يد الماجوفُ العملُ دنون تربيز شرّك برمسند لله الجودادي سح مقابر من عضوالعين كدمة يحوزهم وي، بسيصوطن «مندعه» (س وَزُن تراعيل بُنَّ استرج بسيسة عالمَة » من كلدكى مناست مت كمدوف كوميني برمنامى جائز ب ١٠ مند ف بك من مويد (١٠ وأوراً يدفير بندل جول (٣) بنبر تفخن جول (٣) التباس لازم مه أسف دس، اليها وآذ مين كمدَّ ميں مذجو ، جوكة كمبتر مرمتر كرتسا-يس إني ادر تُوْلِعَ دَعِروهِ بَمِسَبِب مُبْدَلِيَّة ، بَضَعَتُوتْ وَفِيره مِنْ بَسَبِب إلمان، أَنْوَمُ ·· مذكله نير محم ، جون إخودول ، إنيونة قول ، بَيَّع - قاول ، بَايَع ·· منه ف بَسْر بلد ». د نیم ہیں برسکہ ب سینڈ باخلاک التباس سے ر میڈ تنگیل سے ساتھ رادر مُغَیَّدُولُ و اُطَیْر مين الميا المبر محيد يَعْوِي ، يَعْيَى () مَدَّة لاك م يع زبر بي مِعْوَال مبتبارة ، تَسْيَرُد ونيرد بم أيستبرب داني بوسف مين كجدَين البيعة واتوسك ، جوكه تعكيُّومين مِقْتُولُ و أَخْلُون عادِيره نېكن مزوفيد كاده منسد چې كەنىل مەتبىل كوكى بوادۇ تۈرد كاسم مفعول اس شرط يحسننى يې . جنابحه إقافةً یں سحک تھا، قامدُہ بُرْماری نہیں بُوا۔ اُبشَداً خری شرط کے مذیاحے جانے کی صوّۃ میں قامدہ بُراکا جار مائز سے بہ إسْتِعَامَتُ الطّائرة ، إنستِيطائرة ، مَعَوْل ، مَبِيعَ وَجْرِدِس ما و مدد الماري كما ي سابرین مُعَيِّكٌ وأَهلَى دغيره برُمنا بهي ما ترَّب "استه حَكْمَ كَعْشَ مِنْ عَجَادِ رُجَّن جُعْلَ كُول الاسته er) جب دلون سے منی میں نہ ہو، جیسے یکھوکٹ یکھیٹن er) اُدھل کے قون پر زہر، جسے اُدور یکه اکس س شراً یعک متب ، بخش شوننگ که «مند سک می براستال ۲۰ مد علوابين، مصاريف مثاذات ومد عن إلى من يار الحافي من مدير جمع دَامَتْ كِي اه، مُعْلَ الْغُضيلِ، اورنُسْ بَعْبُ نِرَبِهِ بِعِسِيهِ ٱقْتِوْلُ ، أَسْبَعُ مِعَا ٱقْتِلَهُ ، حا أَبْيَعُرُ ـ أَجْلُ الى اور سب تَعْقَدُ أَدْب ماتلدا كر أس من تَعْبَدَ من الدر من مُوَالاً المراد الدر من من وميان يه، المبيع به (٢) ألمكن زبو- بسيه جده كذا متشركت - كرامل من جنور متكرات خالامة بروز، فَلَكُونَ مَنَا "احد على بالحكر بن زيو- بي مَدلا عِنْهِ "احد مد غزا قل، وإذ ماكن نور بيم عذ علو حو " مز مع امود والمر مولات، معمم مع دادد - بلون يتواحث - (مان الدوات مع ماسف ، ...

4.

قاعده ال :- وآو بآرغير بندل ايم محرب تخطي فمتسك بعد واقع جون ومالع بآر کسرد تعبل بونے کی دج**ے محراک**ور دائق بآرکور اجتما**م** ساکنین کی دحہ سے مُذِب کرنے م. يعيم يك محوَّن ، تتربي في كَمَّلْ مِن يَدْ عُوَدْن ، تترميدين تما -رنى دېرى نى ممتر كوكسرو ، د داندكويا ، جا كار، آم بركسوتيس بو نى كى جر قاعدہ بلے : ۔ انجلام کچٹریں وآؤسکسور ، ضمَّتہ کے بعد دانع ہو، اور اُس کے بعد یا ساکن ہو گراک سبب اجتماع ماکنین ، درمیان بار اور مولا کے ایک کو ادیت جب اور موقع یا بل کے مضموم، تسبو کے بعد دائع ہو، اوراس کے بعد دا ڈساکن ہو۔ تو داؤ تد کسو، اور باز الف لام بي ركوبال ركف من مسي تعَلَّ ، أَلتَّعَلَّى ، تَلَقَ، التَّلَقَى - أَوْلِي الْدُوْنِ پونستمرنتیں ہونے کی دج سے نعش کرکے باقبل کوشے کر ہو یہیں بینے اُس کی مُرَکّہ کے ' دائو ٱطْبِ ٱلْإَظْبِي بِرَبْسٍ تَسَلُّحُ ٱلتَّمَلُو - تَلَقَّي التَّبَقَقْ - أَذَلُقَ الْآذَلُو - أَخْبُقُ کوانجل اسکسور بونے کی وج سے بالد سے ، اور بار کم انجس سنسم بورنے کی وج سے وآ کہ سے آلأ فأبرم تعالبه بول كو اجتماع ساكنين كى وجرست محوا وسيت جر . بسيسة تَدْ بِنيَّ ، حُفا - كَنْسَلْ بِن فأعلق ملا يقفلى وإلغروامى مادم كمه وآوديا ودوماناست بعيد وغيلى ، وُنَبَا تَلْعَدِيْنَ، دُبِعَيْنَ، نُعاب فُعَلْم (النسم) أي كالاسكمه بالمحاوق، بتاب يت تفي من سا قاعده مك : - اجتماع ماكنين على نيرمَدِه كماصورة عن بيلا ساكن مَتَّره بو تؤكر يسبة فْعُلْيَهِ (النسم) سفتى كالام كم يشه بالى ربتاب يصلفون المروى ين . ی*ں - بیسیے* اُدْعُن الله ، اَیْدِی الله ، تَغَنَّشَ مالله ، لِیْنَ سوء تو دَنَو کَوْمَتَه راور بَار کو قاعدة المطعف حسره دينة بي. بعب لَتَرْدُنْ التَّرْمُونَ التَّرْعَينَ ، دَعَقُ اللهُ ، إِنْ خَف اللهُ -فأبكوه جيسجب ايك ككترين دوساكن جمع جولء دوسراساكن نمذقم توزيس كأتبل مجتمح، متموز، تسناحمن، (بتولت - جارول کے مضاید کا مضموم البیسی دِمناقی ک ر کنین ملی مدو کت میں - اور بی جا تر سے - بیس خبرا آپنی، مُتون اللہ اور اگرود کوں العين ستاء الدائلس ولغبيف ستد متطلقا إميم فترف وبروذرن تشفعك لأتهتا سيتنع الد أنعس ومعيف مح ملاوه مضارع محسورالمين معد ادر مثل سعت تتلق بوزن یں ہوں۔ تواس کو اجتماع ساکنین ملی غیر مَوْنو کہتے ہیں۔ اور یہ نام اُرْسب جیسے لَنَّذَ تُوْنَةً مَغْيِلُ أَنابَتْ فَلامتَ مَلامتَ مُعَدِيكَ مَد لَتَنْ عِبْنَ، تَخْتُ لِللهُ وَلِعَدْ وَلِعَرَوْنَ مُتَدْعَيْنَ . المرض يَنْسِلْ مَنْسِلْ يَدِبْرِزِنَاتُمْ لَكُال ب خيريَفِيلْ مَنْتَل يد مِه تجنين، إلاَّ مثال ! قاعدد مد : وأورية مالت زائده مع بعد بعمس مراقع بود - تريم وسع بدل اله ادرمان تعبى من يم مطلقاً مفتور برحى جارتكى : بيب مما تينتُ الجتوابياي ، متما ينتُ دىينىس - بىبيە دغارى برة آۋ كرملىم دغاق برداي تغار جماديرى ، سَراة ينتُ جوايراتيكو "مد من من مندل المون تفراً احدن مدر استد" مد قاعد 12 ... ناخص وادى كى تمن فتول بن دولول وآوكو بار - برل مراد دام محك، ت اورمال نسبى بن باربالى راي جد بعيد تعليك المعليك المعد مېن گذی مُعَدّ کويا. کې مُناتبته سے کسروے بدل دیتے ہي - میں داني، پينون - کم نیک وَ اَمَّا حُوْدُی دِسُلُوی دِغیرِجانشا وْ۲ ۳ مند شک ایمِ مَفْسَل کامَنی دِ بِسَم) جَدُک إِل ایمِ جامدکا امکن دازی خذا قدمتا حم رکعتا ہے کیوکہ اسم معضیل کا استعال حرف بین الرج بوڈا میں ۔ بالإضافة ، پیرٹی اور بالقام - اور پر چنوں قاعده بله ، - الحرسينة منتى الجموع بحاصرين يا. مد جيس بتواري . مُعرَّف باللَّه چزی[،] نواض سم چی، آیزا س میں استجتر خالب ہے ، کہ معرفہ ذکر و بہردومیرہ ای سی میں تعل ہے ، صد میں بالمصاف بور تومالترنبي دمجري مي دياً كوماكن كوديت بي . جيسيه هُذِه الجُتَوَاليري، هُذِه أكدينيك البنتهي مترتب باللام بوندى مؤة ش موصوت كم صفَّة بن كويشَى معنى بي مستعل بوتايت بمعيد بتحاجه يكبونه مترزيت بالجترة ارعى، متركفت يبجق اوت كمور تجزّ دعن اللَّام والإصافيز سور تونَّه كو اَلَةَ الْذَلْعَلْيَا لِيمِنْ تَعْبِيلا سُدِي بِتَمْغَنِيلَ بِهِرِهالِ بَكُم الْمِرْجَامِدِي كَارِكْمَة سِ "استر مذف كري - أى يحتوض من كركرتمون في ديت مي . يب هي اين المرابع أي المرابي ل ف خل بالقي) كالام كمدواذ، بيشه بالى ربتا ب خواد أي بورخواد ملى - يسي دخلوى . سله و عدد المس معد فرع فراتها . مرتام و فرع ، د جدين جوا «مد (مىدد) شىنلە ئە(زن خرابىشىند) كىغىلىي (بايق) اى كالام كمىية، دادَ بوجا تاب - بىي 🔨 كمه ولايتشكر مستقل كلرسيم بهمند شك فأبكى ونساده تترابي وجدنامهما وخروتك يونكد الغب ولأرنيس فَقُل ى (مصدر، كما مَسْ مَعْلَ عَمَا جوك أَسْل عن وَقُيا تَعَا - وادْ كوخلاف قياسة من بدل بكرخلاب قياس مُسْتَل از وبَوَيا مُبْتَل اذبَ مسجه - • سسطه إن مِن ماحده لما جارى مَدْ بْوُكَا استَبْكُ إِذَا وَتُ ديا) - فعلى (بالتم)مِنْتَى كالاسكر بآمد بيشه باتى ربتا ب بيسي منذ با (زن تشد) لملكن يعذأ يتة وغيروس تات تاخيرت بونك كمرك أخوي فازم ب وكرركمات بغيرا سيستعل نيس وإس اليه (بالسر) حرب مى صرف أى ى ستعمل ، مدادران كالام كمد بيشد باتى ربتا ، جد ب نبالإستيني إلَّى أنا يَجْمَى بَخَافَ سَقَدًا أَدَّ ومالغة ما يَسْتَكَ مَرَدِس مِن طوبُكَى إلَى جاري ب كيوں كم ومُوْى المحمَّن المد - ى المدتقفا في خلاف قاس تُعْمَا مح مصل بالمد م جي در استعال بذيراً رسم من يدما ب - بعيت مستقادً دمان مدرات المدرث اطرأت تشوي الأاكان مَسْعَسرُ ، مَسْبَعْ ، مَعْضَعْ ، مَكْرَمْ ، مَأْكُلُ ، مَسْعَلُ ، حَقْرَة ، حَذَبُ ، مُعَسَّ ، بمنافعة القلب كان ولب تعال شرف سيترتج حول عمتم يبي كلا المح أفل عدم من لياحد المات حَسَلَالُ، حَسَلَاتٌ، عَلَاعَى، عَرْمَى، عَرْضَى، حَمَضَى، عَرْقَى، عَوْجَى، عَرْقَى، مصلاكان لوغير بمصلح فتعت المجركاني توليتانى وكتوا غتوا كبيرا دين التلب كالى تولنتاني أتشر أشلأ مَسطُوع، مَقُوع، البشر جد الفاظم مم الحمن - خلاف قياس بروَّز ن مُفْعِل مجى آت عَدَّالتَّحْنِ مِينًا وْانتَكَارْصِغَةُ مُعْجِرِمُعَاكَانَ وَلِتَّجَلَى إِنَّالَيْنِ كَانَ عَقُرًا خَفُوًا ٢ سرك يزير كما كُمَّتَ ي - يس مَعْلِعٌ، مُشَرَق، مَعْرِبٌ، مُسْجِد، مَنْبِكَ، مَغْرِق، مُنْعِرٌ، حَرَفِق، • جَقْ مَسْقِطُ، مَسْجَنْ، بِيَسَيْتُ، مَجْزِرْ ١٢ ح. في يح مُضْرِبٌ، مُحْبَبْتُ، الم المركز كم المراجع المارية المعار المن مقد الألو جراب است " منه الله ماد فير مفاقيل من " منه

فراعد مضائحف فواندضرتيخ ماننا چاہیے اکد مضاعف میں ایک سنس کے وحرف میں وجانے سے جانن ر فالكرد مك : - مضاعمت مضرم البين سے ودام مك موقد من كمالة بتزم و وقعت جند ہوما ہے ، اُس کی مین مسور میں ایں م الإبدال مماعى - بمسيعة أمليَّت كم أضل من أسْلَنْت معا - درسر الم موساعاتي صورتين جائز مين به ··· بعض دوست ومن ركونتر ويت م يد لاّن الفَتَحة أَخْفَ المُوْكَات -ہے برل دیا ۔ (٢) حَذْفِ سَمَاعى - بِسِيرِ خَلَلْنَدْ، كَأَنْسَل بِن خَلِلْنَتْحُرَهَا - بِسِل لام كَوَسَا مَامَدْ ٢) بعض مندروديت بر ويذن المتاكون إذ الحراق مرت بالكثر . (٣) بعض مُعَمَّد رئيسة من - ليسي إذ ما قبلكان . کردما ۔ ۱۳، دەدم مىلى . بىلى دَبْ، كَانسلى ، دَبْت ملا الترسى تىكىم دما، بعض فكت إذ فام محسفين. إينت أحسل -يعند قامى مترجى . يسسس سرجرت مغساقعف مضموم العين سحياد فام ك صورة جراكمالة بخرم ذوا قاعد<u>دا ملی از ا</u>کردد حربت بم جنس *ا*یک گِلدیں داخ ہوں ، اوّل ساکن بو تواول کا كرايارموري مائز بوي مي المديدة ب الكويك ب، لكويك ب الكويدة م ، لكويت ب تانى بى ددى مرحردينا وابعب سب مسيعة مَنْ مَتْ عُقَّ ، دُمَّنْ عَلَى بمرَّ الحقَّ ، يُسْتَكْمِينَ ادرتمط اعف ستسورالمبين ومغننون العين سحدإدما مك صورة ش تحالة بخزم ووقعت مرت بينَ موزين بي منتقر بمشره ، فكتب ادخام - بيسي لَغُريَغِيٍّ ، لَغَرَيْغِ ، لَغَرَيْغُ بُ قاً عده 11 . - اگر دوم دن متوک به جنس ایک کرمی دانع بوں ، اقبل مُتوک لَوْ يَمْتَنَّ، لَوْ يَمَيَّنَ، لَوْ يَمْتَسَلْ -یا مَدَّة ن^{را}مہ و یا یا ی*ت تصنیر ہو*۔ تو پیلے حرف کو ساکن کرے ادغام کر دینا داجہ ہے جیسے رویہ بر اور میں تاریخ قائدہ ہلے : ۔ اگرمُدْش مُذْتُم ، مُذْتُم فيد دونوں قريب الخورج ہوں - تو تحصف میں د دنوں قائم مَنَّ ، مَاذً ، مُوَدً ، مُوَيْنُ أ رای سکے، اوراد اکرنے میں ایک معلوم ہون سکے ۔ جسپے کھیں سکے وَجَدُنْ مَتْ اور پڑھیں قاعد یس : - انزدد مرمن متوک ترجس ایک کمستل دان ، دل ، مآنبل ساکن خبر دَجت ، اوراكردونول حرف بم من بول - تواداكر في دونول آي س م - اورتك من م مَدَّه ذائده ، فيريات تصغير بمد توييل حرف ك حُرَكة انبل كوف كر، فيسل كود وس مرف ايك أستال بيد ذبق . م إدغام كرديناوا جسب سم مسمع بمن يتود ، يوي من من ب فاكره يمتل: - الكرفائ إنْيَعَال دالَ، ذاَّل، ذَال، لَاربو- توتا حَد إنسَّال دال سے برل **قاعددِ ملاً: -** الكردد حدث بم منس ، يا بهم مُخْرَج با قريبُ المُخْرَج دوكلول مِن جمع بو^ل ہماتی ہے ----- پر بخزات اِفتحال کودال سے بدل دینے سے بعد اُگر فات إفتلال، دال مور تواد غام داجسب سيم بيب إذيني اوّل ماكن في مُنَّه جود تواوّل لا تألى ين ادقام كودينا واجب سب ربيسيد إخصَبْ بَسَّا ، عَصَوْا وْكَانْزّا، بِبَرْي يَعْنِي ، وَجَنْ تْ ، ٱلْوَغْنْلْفَ حَدْد اوراكرفات إفتعال، ذال مور، توأس محمقين مال م . فا مدہ : - دوراح ب ماکن بشکون یکڑی یا دقمی بحکما موکر برتا ہے سک (٢) رضااة ل كامَدْهم في موتا ي يسب خشب (٢) ام كالمتحرك العمن موتا (أشرطيكه سله إتصال مشديدكى دم س بر محكماً ليك كله جل المنه مانبَل ساكن نه يو بي حَذَبٌ، حَذَآبُ) مِنْ ذُبْبٌ، خَوَرٌ (٣) ابتدا مالسكون في ل فی 2 م مادن شدااید ع شرائط جرب ادمام به بن (۱) حرف دوم محرک بد خسو تخد الام كالازم أنا (مش إطَّهُوَ دو نسطَهُو وإنَّ المَلَ دوقًا هُلَ خارج شد) ربي -عارض ديوري أمد و المقوم (٢) قال إطال ديو ي فوى ، إذ عوى ، إستخص دَدَنُ (لهو ولعب ، يرمُشَابِه مُضَاعَف)(٥) مُلْحَل بواريج جَلْبُبُ كَامَسُ مِن قُوذٍ ، إذْ عَوَدَ (ارْإِلْحَلال) السَّعَجْبَ مَاذِلَانَ أَلا غَلالَ سُوَجَعٌ عَلَى (البت الرملي كايبلارف ساكن موتوادمام مائز موكا - بعي جسف ، كدامل عن الإدْضَام إذَا كَنانَ لِمِي آمِمِ الْمُكْلِمَةِ مَحْوُ إِرْحَوَى، كَمَّا أَنَّ الْإِلْمَعَامَ مُقَدَّمً عَلَى جَلَبُتَ مُسْلَحَق بُد فَسَعَظُونَ (٦) حرف اول كامتد لادمز والعديد إبدال الإخلال إنَّ لُسُمَ يَسْكُنُ لِسي آجر الْحَلَسةِ كَسِوَرُ وَكِلا عُسْمًا مُقَدًّ مَانِ عَلَى وجولى وداري أودى مد أووى، لمساول مد فسؤول) (2) يطعون السُعْفِيْفِ) (٣) ما والمعال وتقعُل وتفاعل - بعدتا منهو ي مفتيل، مُعْتَبَع، بإت سكته بواليبين خالية هلك وإن صورتون بين إدخام جوازي بحى نبين البلا مُتَعَا بع (٣) من ٢٦ فرش ددياً منهون - ي خي (ادعام بجرب)(٥) مرف ادل اله مينة بمول ميغة معروف كمان بيكا ومنه تردل ادامر، بد بدال جوارى درور ي بولوى ، فووى، ولكات وقا (مد قول تعال "وَرِيمًا "على رواية) البدوان فركوره بالمج مورتون عن إدفام جوازك البت ب-مواقع إدمام يدين (٢) حرف ددم كاساكن تد شكون لا زى موتا - يج مَدْ لا تَ

فائده عث : - اكونون ساكن · يانون نوين سح معد تعرد بين تيزيسكون بر مع كما يحت (۱) وال کودال سے جل کر وال میں اوخام کردیں ۔ جیسے اِ تُذکتُر کر اُسْل میں دد مر المرات المرات - توراً ، الدر ألم من ادخام طلحتمة ، الدرا تيول عر من المنت بوك . ا دُوَکَرَ **تِمَا** بىيە مَن يَغُولُ، أَيْذِي تَسَمَعُ - يَنْ تَهْتُ تِعْمُونُ عَفُولُ مَ حِيدُ مِنَّا مَ حُمَدً عَنَّا ـ ٢٦) وآل كوذال م بدل كر، فاركر كأنس مي ادغام كردي - بيب إذ كما ي حِنْ تَدْيَا، حُلْ لَدَ مِنْ وَالِ الْمُوَلِيدُ . مِنْ الْمُ وَلَي الْمُ وَلَي مَدْ مَدْ مَدْ المَ الم أنسل الدلاقيتها رود ماد ماد بركار مع من المال المنواق ، مُعْدَات ، والما . اس کتی اِدْمَام - بسیے اِذْدَ کَرَ-قائده ب ، - مُرَدِّثْنِ شمسيتَدي ستكس حدث بدادم تعريب داخل بيزتولا يتعريب اوراکرفائے إفسال زار برم توأس محدد مال من () وآل كو زار كو محك فاركله ا بن د مول سے بل مسل رک بس سے جل کر، اوغام کردیتے میں جیسے آل مس . أس بي ادغام كروير - بمسب إذَ يَعْسَ - كُلْمُلْ مِن إِذْ يَحْسَمُهُمَا (٢) فكتِ إدغام - بمبيه اور الحرص فرد ترتبرين سيكس مكون براي متعزميف والمل زور توأس كواب منطول ت مواكر محد مناواتهب ب ، محص الفسم . فأبكره يمكرار الكرفانت إفتدال، فرومن إطباق متآد بقياد، فكآرس سے بوتو فاکره منه : - انگر دوکموں میں دوساکن اس طرح ای جن ، کداؤل تُون تنوین جو - تو تاست انتعال، فآرست برل ماتى ب مب إصلك المسلك المسلكة ب الظّلمة الظلم الم بممائة ذمس؛ نُولية تغين كوكسنسره دينة جرا - ادريعان تحسيل ايكس چيوهم الول كمينية كأصل مي إختَنَهَ وإضْتَرَبَ بِالطَتْلَمَ بِالطُتَلَمَ مُعَالَمَ مُعَالًهُ مُعَالًهُ مُعَالًهُ مُعَالًه إر يعص تُوانْعَلِي كت إر . جسيد مَّادى تُوَتَّح جالِبَ تَعَدِّ ضاد م دومال میں دا، فقار کوفا کم سے بدل کر ازد خام کیا جا تے سیسے افت تر، الم مصادر يختصر بغاب صغير وكبير ضررتير الصَّرَبَ (٢) فكت ادغام. جسيم إصْطَبَرَ إصْطَرَبَ -----() اَلْاَحْلُ () اَلْسُؤَالُ () اَلْقِرَاءَةُ () اَلْوَعْدُ قار بمشه من غَم بركي - بسبيه إ هليتة _____ اورنظار سيخين حال جي " فَلَدُكُوهَا، مس بدل محد، ادفام محرد إجا ست - بعيب إخْلَقَرًا)، فَاركونَاً، مس بدل كَزَدَنْكُ الْكُنْسُ @ ٱلْقَوْلُ @ ٱلْخَوْفُ @ ٱلْتَنْعَمُ كرد ما منه بيسي إغْلَقُ (1) فكت إدمًا م. جيب إطْطَلَقَه -فاكره ب ، الحرفات المتعال تآرمو - توموازات المتعال كوتاً - مع بدل محود ادخا آلدُّعَامُ الإرضوانُ () الرَّغْمَ المَدْمَعُ () المَدْمَعُ () المُدَخَدَةُ ى بتي من يعب الثاري من المتاس متار اَلُوْقَايَةُ @ اَلْوَبْحُ @ اَلَتَى @ اَلَتَى ؟ فارتبه من :- الإناب تَعَقْدُه تَعَامُلْ مِنْ مُعَدَّلًا وتَوَدِف تَد وَ وَرَدَ ر، ش است، مش من ، ظ ، ظ ، فظ میں سے ہو۔ تو ہوازا تا ہے تفقل و تغاعل کو ۞ٱلْفِرَارُ۞ٱلْبَيْشَ®ٱلْمَضْمَضَةُ۞اللَّفَرَارُ۞ٱلْبَيْشَ الْمُضْمَضَةُ فا كميم مله محد ادغام محدد بيت يك - بعار شدا و الشكون كى دجر مع تشرح من بحرة دس لااما بَكام بص إخلار ، إِنَّامَلَ ، كَالم مِنْ خَمَّة ، تَثَامَلَ نما -@ألانْيَانُ @ألرُّ وُيَتْ @ ألاِنْيَانُ فامدہ مکے :- اکومین المذیقال من جملہ مکروبا لا حروف می سے مود توجواز أيار @ ٱلْمَجْ يَتْ أَسْ ٱلْمَشْرِيْتَةُ مَا لَمَشْرِيْتَ ا فتعال کو میں کمد کا بنس ست بدل دینے سے بعد، اُس کَ مَوَرَّت مالس کو اے کو اِدْعَاً ک تقتتت کردیتے ہی۔ بسبے خصّت، حدق کا کمش میں الحَتَصَبَرَ باختَدا ی تعاالہ يقتصير بتقدينى كأمش مي يغتصير بمغتب في تفار ادراً بحمر كوكسرود يناتي ماً بيد وجيد حضمور بخيف كمد حدث ، تصديق - تيز اسماع كما وكل كوفكر ٣ مدة مدوال دوال درا مدارز مدسين وشين : ٢٠٠ مها دوضا دوطا مدولا مدولام ولون را بهم به جن ! مِي الْتُوَابِ، الْقُوَابِ، اللهوابُ، اللِّكُوْ، الرَّوَانِ، الزَّوَانِ، التَّوَانِ، السَّعِيمُ، الشَّغش، ديناجى جائز يب مباربريل أسم فاعل كوتين طرح بثر عناجما تزب - فتقييهم ، تحينيتم ، محينيتم لمُسْمَدُ، الصَّالِين، الطَّلاق، الطَّاجر، اللَّوْمَة، النَّوَرُ، إن 2 طاده كَرْم وفَرَكْم بدكت بين ع الامْرُ، ألبابْ، الْحُمْعَة. أَلْحَجْ، الْخَبْرْ، الْعَمْلْ، الْقَلامُ، الْقَلامُ، الْقَعْرُ، الْكُرْبُمُ، الشآة، ل الازوال دوزار وتروير من الميلا سادو شادو طاور للاواليم في المان - ح الكرماء بود، غيرا وعام جائز الهدى الزنى البؤم العر امت اکر چکیل ست ، چوں ایکز ب دانا زب ۱۳ مند لم وبرنسيد ايد ، دون الغو والعَدي والمع والمقتم ودرت جداست كر خرو الم مَنْسِيبَهُ بانتاج وَالنَّبْسِ مُناستجدوارند، ومُروم المَرْجَ بالناج وَالْقَسَمَ * منه

حسم المافظ محداً يُوب الدِبوي ثم المكتاني في مع محرام سلالة

<u> </u>	······	29		
	اليغن ، يوريه	د جونے کی ا	Ø	0
الكيلين ، فعين	ranks i jet		متعاديش المغار	مَعْمَان مُعَمَّد مُعَدً
بمقلوشفية	544 - 19 5 7	<u>s</u>	معاد القار	المعال محد المرحل
الآل المد	الانتقاق بدخلا	ا⊄زيک ن		آلاييکن ، کما،
64	الإيلاد دريه	المجتبل بسناره		الآليكي : بمرشيد
الأين الديا		cryine : Turny		الالي ، بانت ب
الايين ، الجمسة	التوليك ، والهذا	68 - 54 AM	× . E.T.	Li
*Acri 251	263-64 Bith		التيكتك، مسعومة	كالآب ، من عب
er . 6631	1/20 331	1/14	- w . Xiz	active stall
5	القواني ، العربية	Ker: : Sitt	trate stay	الاشتينان وبالتساجه
الترقي . تسمعة الإنجابي . 100			ألايوقاد : روش موما	لانتظائر ويرامة
الجنينة العقال	متعمله لمغين تغردن	كمتناع ، يك مشكرته	الجنينية ، تين	and the
الإناشة , ١١م	مرجع مردن	A	83 SGA	المتأينين فاريزمان
		•	التومين ، بيت تارين	المتوانقان المرازير
الانيخان ، 1906 : بانتوريم		مَعَكْمِ لللَّهُ	التواخين المستحكرة	فالتر جه
Statute . Stat	540 K 1	المستحر بالما	المتوسقان ، بمراسدة	الثالث ، عد
اليب ، وبن به	W. Kiry	ا بالمركبوي	التوافق ، المربغتين	R I
	الانتظاء : يمكشه	17 : 54	(يشل يال)	ت ام بالعدة
التيان المسيدية	Strine , STON	المنبوات ، المين	(شليان) الشير ، أسعون المثير ، فكسية	مقباد مواجدت
الميتية ، ليمان	الطيتية الترب	40-2047 . Staff	المنتقن الكسرية	1144 . 114
magace test	لكتلزاة ، ٢٨٠	2.6 . 14.26	44.7. 2131	1111 : 1211 1211 : 1211 1211 : 1211 1211 : 1211 1211 : 1211 1211 : 1211
اليوناي ومكنية	المُنْتَوَى ، تردين	14 State . 1 30	الشدق الكومة	びか : ひが
الإليكان كمنا	التشاوي والمربيا	min Staff	whe stans	المالك : معدد
a. 1:121	•	a, 1523	word . They	
then i Gigt	1 1 3 S. A. A. C.	الشينية ومك	المقلف بتيراء	الارتزاك ، عدم ر
الرياد بتجهيميك	معماديتهما معسنلان	A 1903	الشينو مسمر	الإطرام ، كمشيم مرسمة
اليب ، معادد	ٱلْكِيْبُ ، سَمَع	الشتل برزمين		الشلقة المهوري
الويدة الإيدار معيه	ألبي أشر ويلع	الشكلين بكري	التبانية ، ابترالي	Signatures . Still
اليتغة ، ترتا	ألتين برا	الشيق المون	المتحكر المراوية	and the
البيذارة المعها	Carlos and The	4. 63	التياش ، والموصورية	
اليبيغ ، اه				U U
المنبغة برم	9.0 . 23.4	الغایت ، ن الغنی ، منه <i>ا</i> عترک		معتليموالله
اليذ المشكم	الأركة بمناه		مَصَانُولُكَيْنُ	
الية ممنه	الإخلاط ومدكما	المنبعي ، التفاضية		South : Silve
	الثنين، نم،	الجوبة ، جرارت الجنوبة : جدوم		山湖
_	للتعاشد ، المجتر، الأسلن , أحمد	المنونية : معادة المنابع : جرياريا		erale ilie
	المتباد ، المنتخب	الكلوبية ، زان	الحقل باجرا	erie erie Right
	[• •	التركناة المريزة والكر	د	nin Brit
	مقاديت اتخناق	الشيق : آرزار	الإنتيقانية , مردماه	14
-		المثانين ، بالمصطلية	الإنوياد المسابعة	الانترام ، المستحدجية: الانتثار ، برديا
	المتندية وكما		الإفلان ، عارد المراجع	الخلولك، تحمد نك
	الملكلة . سيجون	l (C)	التغويل برز	النفايكة ، باكسانيو،
	التنوشية ، دوسهدان	تعتلونني بغوت	للتادية . بيغلى	195-19 1 204201
	missioned , Willi	1	المتحول ويسرو	10.00 · 55.51
	المتيسكة بن	ry . 5.751	الشكاول ، ي	that Basi
#	1			· ·
	1	<u>L</u>	<u>t </u>	1

كتشبة المانط مراقب الوادئ ثم المكتان فالمحام ستنت

دې ا

مُنْ لَلَدْ مُجَرّد فِهمور الفاء إزباب إول فعل يَفْعُلُ حول الأكل كما باعلا امس باب تى بدب كداس كى ماضى من علن كلم مفتوح اور مضارع بدم تعريم برابر أَكُلُ يَأْكُلُ اللهُ مُعُدَّاكُ مَدْ يَكُ بِعَدَى أَكُلُا مُذَاكَرَ مَا كُوُلُ مَا أَكُلُ مَدْ يَأْكُلُ لَدُيْة ٱنْ أَكْلُ لَنْ يُوُكُلُ ، لَيَأْكُنْ لَيوُكُنَ ، لَيأَكُلُنْ لَيوُكُلَنْ أَلْامُرُمِنْهُ ، كُلُ لِتُؤْكَلْ ، إِ لِيُوْكُنَّ كُلُنْ لِيُؤْكُنُ بِيَأْكُنُ لِيُؤُكُّنُ وَالنَّفْى عَنْهُ، لَاتَأْكُلُ لَاتُؤْكُمْ، لَا يَأْكُلُ لا يُؤكنَ الايَا كُلْنَ لا يُعَالَكُنَّ اللَّهُ كُلَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ كُلَّ لا يُعَالَكُمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّ لَايُؤْكَنَ لَا مَا كُلُ لَا يُؤْكُلُ الذَائِمُ لَا يَأْكُنُ لَا يُؤْكُنُ الظَّرْفَ مِنْهُ: مَا كُلُ مَا كُلُان مَا كُلُ وَمُؤَيْكُ وَالْإِلَهُ مِنْهُ : مِتْكُلُ يُظُلُان مَأْكِ دَمُوَ يُكِلُ مِنْكَلَة مِسْكَلَتَانِ مَأْكُ وَمُوَ يُكِلَة مِنْكَالُ مِسْكَالًا نِ مَأْكِدُ وَمُو يَكِدُلُ وَانْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُذَكَّرِمِينَهُ : ٢ كَلُ الكون الكون أواك دا ويجل والمونت منه: الله القيان الملياتي الكردة إكيني -مرف صغيرازياب مذكور بالتخفيف جؤا زا ٱكَلَى يَاكُلُ ٱكْلًا مَفَهُوا كُنْ ۖ وَٱكْلَا يَوْكُ ٱكْلَا ﴾ خَذَاتَ مَاكُولُ • مَّا آكُلُ مَا أَكِل ، لَعْزَيا كُلْ لَعْرَيْوَكُلْ، لَنْ يَأْكُلُنْ يُؤْكُلُ الْيَاكُنُ لَيُوْكُنُ أَلَيَاكُنُ لَيُوْكُنُ الْأَمْرِينَهُ وَكُلْ الْتَوْكُلُ المَاكُ لِيُؤكُلُ المَاكُ لِيُؤكُلُ المَاكُ لِيُوْكُلُ المَاكُ لِيُؤكُلُ المَاكُ لِيُوْكُلُ المَاكُ لِيُؤكُلُ المُوَكُلُ المُوَكُلُ المُوَكُلُ المُوَكُلُ المُو لِتُوْكَكُنْ ، لِيَاكُنُ لِيُوْكُلُ دَالنَّغِي عَنْهُ ؛ لَا تَاكُلُ لاتُوكلُ الأَيَاكُ لايُوْكُلُ، لا تَاكُنَ لاتُوْكُنَ ، لا يَاكُنُ لا يُوْكُنُ ، لَايَاكُمُنْ لَا يُوْكَلُنُ أَنَغَّلُهُ مِنْهُ، مَاكَلُ مَاكَلُانٍ مَأْكِلُ وَمُوَيْكِلُ وَالْلَهُ مِنْهُ، مِنْكَلُ مِنْكَلُو مَاكِلُ وَمُوَيْكُمُ مِنْكَلَةُ مُنْكَان مَأْكِلُ وَمُوَلِيَكِدُ مِنْكَالٌ مِنِكَالًا بِمَأْكِنُ وَمُوَتِكِينًا * وَأَفْعَلُ التَقْضِيلِ المَد كَمُ مِنْهُ الكَ أكلاب اكلون أواكل وأوليك * وَالْهُوْتَ مِنْهُ الْلِّي الْلَّيَاتِ الْكَيْبَاتِ الْكُورَ إِنَّكُنْ -بحث إثبات فعل ماضي معروف، أكَلْ أكلاً أكلاً أكلاً أكَلُنْ أكَلْتَ أكْلَتَ أكْلُتَ أكْلُنَهُ أكْلَتُهُم أكلت أ ٱكْلُنَا بحسب (ثبات فعل ماصَّ مجهول: أكِلَ أكِلاً أكُوًّا أبِكَتَ أكِنْ أكِلْتَ أكِلْتَ أكِلْتَمَ إكْلَت أكِلْت أكُلْتُ أكِلْتَ أ أكملنا بحث لفي فعل ماضى معروف، تما كل مَّا أكلُهُ مَا أكلُوا مَّا أكلت مَّا أكلت مَّا أكلت مَّا أكلت مّا تلت مّ مماكلتها مما اظن مما كلها بحث فعى فعل ماصى مجول، مما محا ما وكما الحلامًا الحلوا مما أحلت مما أحله مما أعلت المحفظ مَا أَكِلْتُعَرِّمَا أَكِلْتِ مَا أَكِلْتُ مَا أَكِلْتُ مَا أَكِلْتُ مَا أَكِلْتُ مَنْ الْجُلْدَة مَا كُلُون مَا كُلُون مَا كُلُون مَا كُلُون مَا كُلُون مَا كُلُون ۣ ذَاكُلْنَ تَأَكُرُ تَأَكُرُ مَاكُون مَاكُلُون مَاكُلُون مَاكُلُون مَاكُلُ اكُلُ مَاكُلُ بحث إثبات فعل مُضالع جمول : يُوكُلُ مو كلان يُوكُلُون تُوكُلُ تُوكَكُنُ نُوكُنُ تَوْكُنُ تَوَكُنُ تَوَكُلُنُ تُوْكُلُنُ تُوْكُلُنُ أَوْكُلُ مُوكُلُ بُحث لَعْي فَعِل مُضالً معروف: لَا يَاكُونُ لَا يَا كُونُ كَوْتَأَكُّلُ لَانَاكُلُانِ لَايَاكُمُنَ لَاتَاكُمُ لَدَّتَاكُلُونَ لَاتَأَكُلُونَ لَاتَاكُلُونِ لَاتَاكُمُ بَحَت تعى فعل ضارع مجول، وَالْجُمُوعُ المُكسَّرةُ: أَكَلَةً، أَكَالٌ، أَكَلٌ، أكَلٌ، أكَلاءً، أكَلانٌ، إكْلانٌ، إكَالٌ، أكُوُلٌ، آكالٌ، ٢

لَايُوْكُلُ لَا يُوْكُلُانِ لَا يُوْكُلُونَ لَا يُوْكُلُ لَا يُوْكُلُ لَا يُوْكُلُ لَا يُوْكُرُ لَا يُؤْكُرُ لَا يُوْكُرُ لَا يُو بحت نفى ما يجديكن درفع مُستقبل معروف : لَنْ يَاكُلُ لَنْ يَاكُلُ لَنْ يَاكُو لَنْ يَاكُو لَنْ مَا كُلُو لَنْ يَاكُو لَنْ مَا كُلُو لَنُ تَاكُوُا لَنُ تَأَكُلِ مَنْ تَاكُلا لَنُ تَأَكُنُ مَنْ إِكْلَ لَنْ تَأَكُلُ كَجت لَعْي تاكيد بَكَ ورُس ستعبل مجهول دِلَنْ يُوْكُل لَنْ يُوْكُلُ لَنْ يَوْ ارْ قَوْ كُلُ لَنْ تُوكُلُكُ يُوكُلُ لَنْ تُوكُلُ لَنْ تُوكُلُ لَنْ قُوكُكُ لَنْ قُوكُمُ لَنْ قُوكُلُ لَنْ فَوكُلُ لَنْ درفعا مُستقبل معروف، لَدْيَاكُمْ لِعَدَياكُمُوْ الْعُرَاكُمُوْ الْمُوْ الْحُرَاكُمُ لَدْ تَأْكُلُ لَدُ مُ أَ كمر مَاكُنْ كَداكُ كَمْر مَاكُلْ محت فَى جُدكم در فل مستقبل مجهول: كدي كل كدية كلاكد في كلود المرتوكل كرية وكلاكم ويكل كِدْتُوكُلْ لَمَرْتُوكُلُا لَمُرْتُوكُوكُ الْمُرْتُوكُكُ لَمُرْتُوكُكُنْ كَدْ أَوْكُلْ لَمُرْنُوكُلْ بحث لام ما يجد بالون ما كيد تقيله وتُع نْقَبْلِ محروف : نَيَاكُنُ نَيَاكُلُا بِي كُلُا بِي المُكُنَّ مَا كُلُنَ بَتَاكُلُونَ نَيَاكُنُ نَتَاكُدُ نَتَاكُنُ نَتَاكُنُ نَتَاكُنُ مَتَاكُنُ مَتَاكُنُ مَا كُلُونَ المَاكُونَ المُكُونَ المُعْلَى ال لَا عُنَّ لَنَا عَلَنَ تَجَتْ لام تاكيد بالون ماكيد فقيل وقول مُنتقبل مجهول : لَيُوْ عَلَنَ لَيُوْ عَلَنَ لَيُؤ لتَدْكُنُ تَتَوَكُلُوْ نَتُوَكُنُ تَتَوَكُوْ تَتُوَكُلُوْ تَتُوَكُنُونُ لادُوكُنْ مُنْوَكُونَ بجت لام ما كيد بانون ما كم ترفيف وتجان ستقبل اَيَا كُلُنُ لِيَا كُلُنُ لَتَاكُمُنْ لَتَاكُمُنُ لَتَاكُمُنْ لِتَاكُمُنْ لِتَاكُمُونُ لِيَاكُمُونُ لِتَاكُمُنْ لِتَاكُمُنْ لِتَاكُمُنْ لِتَاكُمُونُ لِتَاكُمُونُ لِتَاكُمُونُ لِتَاكُمُنْ لِتَاكُمُونُ لِتَاكُمُونُ لِتَاكُمُونُ لِتَاكُمُونُ لِتَاكُمُونُ لِتَ كَيْوَكُنُ كَتْوَكُنْ كَتُوكُنْ كَتُوْكُنْ كَتُوْكُنْ كَدُوْكُنْ كَنُوكَنْ مَجْتْ امرِحاضِ مَعْرِوْف ؛ ثَنْ كُلْا كُوُاكُنْ كَتُوكُنْ تَجْتَ امرِحان مح لِنُوكَ لِتُوكَلُا لِتَوْكُلُوا لِنُوْكَلُ لِتُوكُلُا لِتُؤكُنُ تَجِتْ امرْعَامُبِ مَعَرُوفَ، آِلِيَاكُلُ لِيَاكُلُا لِيَاكُلُا لِيَاكُلُا لِيَاكُلُ لِيَاكُلُ لِيَاكُلُا لِيَاكُلُ لِيَاكُلُ لِلَكُلُ كَجِمَتْ امرْحَامَتْ جَبُولَ اليُوكُلُ لِيُوكَلُا لِيُوْكُلُوا لِتُوكَلُ لِيُوكُلُ لِيُوكُلُ كِ ذِكْلُ لِيُوكُلُ بِحدت امرحاضر معروف ناكيد للقيله، كُلَنَ تُكُذَبَ كُلُنَ تُكُلِنَ كُلُاً بِمُكْلَاً بحَث امر حاضر مجهول بأنون ماكيد لقيله، لتَدْكُنَ لِتُوْكُلُوَ لِنَهُ كُلُنَ يَتَوْكُلُوَ لِنَهُ كُلُنَ يَتَوْكُلُوَ لِنَهُ كُلُنَ يَتَوْكُلُو لِتُوَكَلَّنَ لِتُوكَلُنَانَ بِجبَ امرِ امرِ مَعَروف بالون ما كِيرَ فَعَيَلَه ، لِيَاكُلَنَ لِيَاكُلُنَ لِيَاكُنُ لِتَاكُنَ لِتَاكُنُ لِتَاكُنَ لِتَاكُنَ لِتَاكُنَ لِتَاكُنَ لِتَاكُنَ لِتَاكُنَ لِتَاكُنَ لِتَاكُنَ لِتَاكُنُ **ىت امرغامب مجهول بالونَ ماكم رَلْقَيْبَ لَهِ، لِيُوْ كَلَنَّ بِبُرْ كَلَ**َنَّ لِبُوْ كُلُنَّ لِيُوْ كُلُنَّ لِيُو كُلُنَّا بِي كُلُنَّا بَ لَكُو كُلُنَا تَحْتُ **جُمْلُهُ** مروف بانون ما يمذ خفيفه، كمَّنْ تُمُنْ تُمُنْ مُحِتْ امر حاضر مجهول بانون ما كيد خفيفه، لِتُوْكَكُنْ لِتُوْكُمُنْ لِتَوْكُونُ تُحِيثُ ا مرغا مَبَ مَعروف بانون ما ي فرعنيفر وليا كلن ليتاكلن لاكلنَ لاكلنَ بَناكلنَ بَناكلنَ مَجت امرغامَب مجهول بانون ما ي فرغيف ليُكُنْ لِيُوْكَلُنْ لِتَوْكُنْ لِأُوْكَلَنْ لِنُوْكُلُنَ بحث بَهى حاضرموف، لَاتَاكُلْ لَاتَاكُلُوَ لَاتَاكُوُ لَاتَاكُو لَاتَاكُونَ محت بَهى حاصُر مجرول، لَدْتُوْكُلْ لَدَقْنُ كُلُا لَانُوْكُلُوا لَدَنْوَكُلُوا لَدَنْوَكُلُوا لَدَنْوَكُلُ لَا يَكُو الدَّانُ كُلا لَكَا لَا يَكُو الدَّانُ كُلا لَكَا لَا يَكُو الدَّانُ كُلا لَكَا لَا يَكُو الدَّانُ كُلا لَكُلُوا لَدَانُكُ لَا يَكُو الدَّانُ كُلا لَكُلُوا لَدَانُونُ عَلَى مُعْرُوف ، لَا يَكُو لَدَيْ كُو الدَّانُ كُلا لَكُلُو لَا يَكُو الدَّانُ كُلا لَكُلُو لَايَكُلْنَ لَذَاكُلْ لَا نَاكُلُ تَجَتْ بَهِي عَامَب مجبول؛ لَا يُوْكُلُ لا يُوْكُلُا لا يُوْكُلُوا لا تُوْكُلُ لَا تُوْكُلُ لا يُوْكُلُ كَمِتْ منى حاصر معروف بالون ما يُدَثِّقيله ؛ لَهْ تَاكُنُ لَدَ تَاكُلُوَ لِدَاعُكُنَ لَا تَاكُلُ لَا تَاكُلُون كَلُو ا لْفَيْلَم، لَدَتُوْكَنَ لَدَتُوَكَلَاّ بَدَنْ كَلْنَ لَدَنْوَ كَلِنَّ لَدَتْوَكَلَاّ بِذَتَوَكُلُاً فَ لَاياً كُلُنَ لَا تَاكُنُ لَا تَاكُلُو لَا يَاكُلُنَانَ لَا أَكُنَ لَا مَاكُنَ كَانَ مَنْ مَعَامُ بِح ول الون تاكير لقيله ؛ لَا يُوكُلُنَ لَا يُوكُكُنَ بَ تُوْكَنَ لَا تُوْكَلَانٍ لَايُوْ كَلُنَانِ لَاأُوْكُنَ لَانُوْ كَلَنَ تَجَتْ مَنِي حاضر معروف بأنون ما يدخص فد لا مَاكُنُ لاَ مَاكُنُ لاَ مَاكُونُ تَجَتْ مَهِي **الم تحريول بالون ما يدريخيف،** لاتُوْكُنُ لاتُوْكُنُ لَاتُوْكُنُ بَجَتَ بَنِي غامَبِ محروف بالون ما يجذ عبض، لاَياكُنُ لاَ يَاكُنُ لَا

تَاتَكُنُ لَدَاتَكُنُ لَا أَكُنُ المَدَةُ أَكِنَتَ مَعْلَى هَاسَ جَبِول بِالَوْنَ مَا كَرَتْعَيْظَهُ الاَيُوْكَانُ لَا يُوْكُنُ لَا تُوْكُنُ لَا تُوْكُنُ لَا تُوْكُنُ لَا تُوَكُنُ لَا تُوَكُنُ لَا تُوَكُنُ مَا تُوكُنُ مَا تُوكُنُ مَا تُوكُنُ مَا تُوكُنُ مَا تُوكُنُ مَا تُوكُدُ مَا فَا مَا تُحَدَّ مَعْدُولُ مَا تُوكُنُ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُنَ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُ مَا تُحَدَّ مَعْدُ مَعْنَ اللَّهُ مَعْدُ مَعْدُ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُ مَا تُوكُدُ مَا موف صغير فعل لما يحد معن معالى عام من على عبن علم مفتوح اور معارضا مع على محسور تكرف المن من على محسور تكرف الت المَنْ يَنْذَكُنُ مَا يُعَدَينُهُ فَعُدُ المَعْنَ مَا مَعْنَ مِن عَبْنَ عَلَى مُعَنَ مَا تُوكُدُ مَا أَخَلَ مَا المَنْ يَنْ يَنْذَكُنُ مَا فَعُدُولُ مَعْدُ مَا مَعْنَ مَعْنَ مَا مَعْنَ مَنْ عَدُنَ مَا تُعَنَى مَا تُوكُدُ مُ الْمَنْ مَعْنُ مُن ما معان من عالَم من من عالَيْ مَن المَنْ يَنْ مَنْ اللَهُ عَلَى مَنْ يَعْذَكُ مَا مَعْنَ مَنْ عَدْمَةً مَنْ مَا تُعَنَى مَا تُعَنَى مَا تُعَ التَعْتَى مَا يُعْتَلُدُ مَا يَعْذَكُ مَا يَعْذَكُ مُواتُ مُعَدًى مَا تُعَلَى مُنْ مَا يَعْتُ مَا يَعْتُ ما يَعْ التَنْ عَلَى مَا يَعْذَكَ مَا يَعْذَكُ مُنْ يَعْذَكُ مُواتُ مُعْذًا مَا يَعْتُ مَا يَعْتُ مَا يَعْتُ مَا يَعْتُ مُ مَنْ مَا يُولُكُ مَا يَعْنُ مُولُكُ مُنْ مَا يَعْنُ مَا يَعْنُ مُ تُعْذَكُ مُنَا مُولُكُ مُن المَا مُنَا مُن مَا يُعَنَ مُنَا مُنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَ مُنْ يَعْذُكُ مُنَ مُنْ يَعْذُنُ مُنْ يَعْتُ مُنْ مُنَا مُنَعْنُ مُنَا مُن مُنْ مُنْ مُنَا مُنَا يَعْنُ مُنَا مُعْذُنُ مُنْ يُعْذُنُ مُنَا مُنَعْنُ مُنَ مُنْ مُنُولُكُ مُنَا مُنَعْنُ مُ تُ مُنْعُولُكُ مُنَا مُوكُ المُولُكُنُ مَنْ يَنْ مُنْعُنُوكُ مُنَا يُعْذُكُ مُنْ يُعْذُكُ مُنْ مُعْتُ مُولُكُ مُن النَعْنُوكُ مُنَا مُعْذُك مُولُولُكُنُ مُنَا مُولُكُ مُنْ يَعْذُو مُنَا مُولُكُ مُعْمَ مُولُكُ مُولُكُ مُ مُولُكُ مُ مُولُكُولُ مُ مُولُكُ مُ مُعْع

وموسی با در در در بالا می در این ایک ایک در التفنینین المذکر بنه ، الله انکان المکون او افک داویولک والدون مدر مطاکان ما فیلک دمتورینیک اقلک فالیک . اقلی المکیان المکیای اقلک فالیک .

صرف صغيراز باب مذكر بالتخذ جنب بوازا

ٱخَتَ يَافِلُ ٱفْكَا، فَهُو آفِيكَ، وَأَفِلْكَ يُوْفَكُ أَفْكَا خَلَاكَ مَافُولَ مَمَاأَفَلَ مَاأُولَكَ، أَمْ يَافِكُ لَمُعَوْفَكَ، لَا يَوْفَكَنُ الْآدُمُ مِنْهُ الْفِيلَ الْمُرْعِنَ لَا يَعْوَفَكَنَ الْمُدُمِنُ لَا يُعْرَفَكَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مُوسَلُهُ الْفَرْعَاتَ، الْمُ يَافَكُ لَا يَعْوَفَكَنَ اللَّهُ مُوسَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المُعْلَنَ لِتَوْفَلَكَ، لَنْ يَافِكَنَ لِيعُوفَكَنَ الْيُعْكَنُ لَيوُفَكَنَ اللَّهُ فَعَلَنَ لَيوُفَكَنُ الْآ إِنْفِكَنَ لِتَوْفَلَكَ، لَنْ يَافَكَنَ لِيعُوفَكَنَ اللَّوَكَنَ لَيوُفَكَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفْهُ اللَّ مُعْفَلَنَ لَا تَعْذِعَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّعْظِيلَ لَا يَعْدَقُكَنَ اللَّا عَلَى لَا يَعْذَكَ اللَّهُ عَفْهُ اللَّهُ عَفْهُ اللَّهُ عَفْدُ اللَّهُ عَفْدُهُ الْمَافِكَ لَا مُعْفَلَكَ اللَّهُ عَمَانَ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَا يَعْدَلُكُمَ لَا يَعْذَعُكَنَ اللَّهُ عَفْهُ الْ مُعْفَلَكَ اللَّا عَلَى اللَّهُ اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَكُنَ اللَّهُ عَفْدُ اللَّهُ عَفْدً مُعْفَلَكَ مَا فَلَكَ مَا لَعْذَكَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالُقُلْلَ الْمُعْذَى مَدْ عَلَكُ مُعَلَكَ مَا لَكُولُكَ مَا الْعَنْ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّعْظِيلُكُ مَا اللَّهُ الْمُع مَدْ عَلَكُ مُوافِكَ مَا لَعْذَكَ اللَّهُ مَعْنَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْ مَدْعَلَكُولُ اللَّذَاتِ اللَّالِي اللَّالْحَقْقَلُكُ مَا اللَّاللَكُ عَلَيْكَ مَا اللَّعْظِيلُ اللَّعْظِيلُكُ مَا اللَّالِكُ مَا الْحَالَكُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى الْنَا اللَّا عَلَي اللَهُ اللَّا الْنَا الْعَلَى الللَهُ مَا عَلَى اللَقُلُكُ مَا اللَّا عَلَى مَا عَلَى اللَكُولُكُولُكُولُكُ مَا اللَّهُ مَاللَكُ مَا اللَّالْحُولُكُ مَا الْحُلُكُ مَا عَلَى اللَكُولُ الللَهُ عَلَى اللَعُولُ الللللَّذَا عَلَى اللَعُولُ الْعَانَ مَا اللَي الْحُولُكُ مَا الللللَهُ مَا الللللُولُ ال مُعْلَكُ مَا عَلَكُ مَا عَلَي مَا عَلَي مَالِكُ مَا الللَّعْذِي اللَكُولُ الْعَلَي مُولَكُ مَالَكُ مَا اللَعْذُلُكُ مَا عَلَى الْعُلُ الْعَالَ الْعُنُولُ الْعُلُولُ الْعَالَكُ مَاللَكُ مَا الْنُعْتَ الْعُولَكُ مَا الْعُلُولُ الْعُولَ

لە والمنتر المتركة، المكن الحكن الحكن الحكن الحكن المكن المكن المكن المكن المحلف الم

صرف صغيرازياب مدكور بالتخفيف توازا ٱَذِنْ يَاذَنُ إِذْنًا ، فَهُوَ إِذِنَّ وَأَذِنَ يُؤَدَّنُ إِذْنًا، حَذَ الْمُعَاذُونُ مُعَاذِنَ مَّا إِذِن ، لَعريادَن لَعُريودَن ، لَكِيلاً لَا يُحَدِّنُ مَلَنْ يَبَادَنَ لَنْ يَبُودَنَ مَايَادَنَنَ لَيُوْدَنَنَ ، لَيَاءَنَ لَيُوْدَنَنُ الْمُومِبْ أُ رَايَحَ مَنَّ لِتُوْدُ حُتَى الْبِيادَ مَنَّ لِيحَةٍ مَنَّ ، إِيْدَ مَنْ لِتُوْدَ مَنْ رِلِيَادَ مَنْ لِيوُدَ مَ لأُعِوْدَنُ الْآتَاذَيْنَ لَاتَتُوْدَ مَنَّ الْآيَاذَيَنَ لَا يُؤْذَنَنَّ الْآتَاذَينَ لَا تُوْذَنَنُ الْآياذَينُ لَا يُوْذَنَنُ الْقُوْفُ مِنْهُ ، مَا ذَبُّ مَّاذَنَانٍ مَأْذِنُ وَمُعَيْذِنٌ وَالْأَلَدَّ مِسْدَهُ، مِيْزَنٌ جِيدَنَانٍ مَأْذِنُ وَمُوَيْذِنٌ – مِيثذَ نَتَابٍ مَأَذِنُ وَمُوَيْذِنَ مِينُدُانَ مِيسُدُانَانِ مَآذِينُ وَمُوَيَدِينٌ كَانْعَلْ التَّنْجَنِيلِ الْمُدَحَومِنْهُ الذَّن أَذَنَانِ أَذَنُونَ آوَاذِن وَأُوَيَذِن وَالمُونَتَ ، أَذُكْ أَذْنِيَانِ أَذْنَيَاتٍ أَذِنَ قَا أَذَيْ عَبِير فَعَلْ مُلَا بَيْ مُجْرَدُ مِهْمُورًالْفَارَ إِذِهابٍ بِهَارَمٍ فَعَلَ يَفْصَلُ بِحُولِ الْإِنْ وَهِتِيةً وتوجاء علامتين المس باب كى ذوبي ايك يدكر المس كى ماضى اور مفائع بس عين كلم مفتوح بود المسبع، دوتمري يدكه أسس كاعين كلمه بالام كلم مسروف ملغى بو كاب ٱلْدَيْأَ لَهُ ٱلْوَجِبَيَّةِ، فَهُوَ اللهُ وَأَلِهُ كُوْلُهُ ٱلْوَجِبَةَ، فَذَاكَ مَأْ لُوْبُرْمَا ٱلذَّمَا أَلَّة ، لَهُ يَأْ لَهُ لَهُ لَذِي أَلَهُ اللَّهُ أَلُو لَا يُوْ لَمُ، لَنْ يَتَأْلَدُ لَنْ يُتَوْلَدُ، لَيَا لَعَنَ لَيُؤْلَعَنَّ، لَيَا لَعَنْ لَيُو لَعَنْ الأمرُمِنْهُ: إِنَّذَهُ لِتُوْ لَدُ، لِيَأْلَدُ لِيُؤْلَدُ إِيْلَكُنَّ لِتُوْلَكُنَّ دِينَا لَكُنَّ لِيدُوْ لَكُنَّ ، إِيْكَمَنْ لِتُؤْلَكُنْ لِيكُلُكُنْ لِيكُولُكُنْ وَالنَّجْ عَنْهُ، لِاتَّالَهُ لَاذَةً لَا يَكُولُهُمُ لَاتَأْ لَهُنَّ لَا تُؤْلِهُنَّ ، لاَ يَأْ لَهُنَّ لَا يُؤُلَّهُنَّ ، لَا تَأْلَهُنُ لا تُؤْلِهُنْ ، لَا يَأْ لهن لا يُؤْلِهُنْ أَلَظُرُفُ مِنْهُ ، مَإْ لَدَّحَالَهُمَا ن كَأَرْكِ وَمُوَيْنِهُ وَالْأَبْرُونَهُ ، وَشَلَهُ مِنْلَهُ إِنَّ مَا لِهُ وَمُوَيْلِهُ .. وَعَلَمَهُ أَ مِنْلَهُ وَالْأَبْرُومُوَيْلِيهَةً .. وَعَلَا ﴾ مِسْلاَحَانِ مَا لِيهُ وَمُؤَيَّلِيهُ ۖ وَانْعُلُ البَّنْفِيشِ الْمُدَحَوْدِنَهُ الْدُ الْعَانِ الْهُوْنَ أوَالِدَهُ وَأُوَيْلِهُ دَانْسُوْنَتْ مِنْهُ، ٱلْعُبْ ٱنْهَيَانِ ٱلْهَيَاتُ ٱلْهَ وَأَلِيَهُمْ مرف صغيراز بأب مدكور بالتخفيف بحازًا ٱلْدَيَالُهُ ٱلُوْحِيَّةِ ، فَهُوَ إِلِهُ - وَأَلِهُ يُوَلَهُ الْوُحِيَّةُ ، فَذَالَ حَالُوْ، حَالَهُ مَا أَلِهُ ، لَعُزَالَهُ لَعُرُولُهُ ، لَإِلَا لَا يُوَلَمُ الْمُنْ كَالَهُ لَنْ يُوْلَدُ ، لَيَا لَهُنَ لَيُوْلَهُنَّ أَيَالَهُنَ لَيُوْلَهُنْ إِلْآصُومِنِهُ ، إِيْلَهُ لِيوُلَهُ ، إِيَالَهُ لِيوُلَهُ ، إِيَّذَهُ لِيوُلُهُ ، إِيَّذَهُ لِيوُلُهُ ، إِيلَهُنَّ لِتُوْلَقِنَّ، لِيَالَهُنَّ لِيوْلَهُنَّ دَايَلُهُنْ لِتَوْلَهُنْ، لِيَالَهُنْ لِيوْلَهُنْ وَالنَّجْ حَنْبُ الأثالَة لأَتَّوْلَهُ، لاَ مَّالَعَنَّ لَاتُولَعَنَّ ، لا يَالَهُنَّ لا يُولَهُنَّ ، لا مَالَهُنْ لا يُولِهُنْ ، لا بالهَنْ لا يُؤلِهُنْ الطّرف مِنْهُ ، مَا لا يُحالِه مَا لا مُؤْتُهُمْ وَالْأَلْتُوْتُوْ، مِيْلَة ومِيْلَهَانِ مَأْ لِهُ وَمُوَبْلِرً - مِنْلَعَة مُيْلَعَتَانِ مَأْلِهُ وَمُوَيْلِعَة وَٱنْعَلُ الْعَقْنِيلِ الْمُدَكُومِنْهُ الدُالَعَانِ الْهُوْنَ آوَالِهُ وَاكْتُلُهُ وَالْمُؤْمَدُ مَا تُعْلَيْهُ الْعُبَانِ ٱلْعُبْ الْعُدَاتُ وَالْعُوْنَ اللَّهُ عَالَتُهُ وَالْحُدُ الْعُلْقُونَ الْعُدَاتُ عُ

وكعؤاكها رف صغير فن تلافى مُجرَّد بهموز الفيَّار ازباب يتحب عسم فَعُلَ يَفْعُلُ حِل ٱلْأَدَبِ اشْالَسْتَه بونا ، ادبيب موزاً - علامة إكس باب كى يبسب كراس كامنى اور تصاليع من من كلم معنمو ابولا ب بُلَامَةٍ، فَهُوَ إِذِيبَتِهُ بِوَادِبَ يَوْدَبُهُ أَدَبًا، فَذَالتَ مَا دُمُوبُ مِقَا أَدُبُ مَقْدَ فَرُكُ فُر مُ الَن يَأْذُوبُ إِن يَجْدِرُبُ ، لَيَا دَبْنَ لَيودَ بِنَ ، لَيَادَ بِنَ لِيؤُدَ بَنَ الْأَمْرِمِينَه ، أَوْدِب التَّوْدَبِ ، لِيَا دَبُ يَعِنِ، أَحْدَبَنَ لِيَوْدَبَنَّ ، لِيَا دُبَنَ لِيُؤْدَبَنَ ، أَدْدُبَنْ لِتَوْدَبَنْ التَّوْدَبَنْ لِيوْدَدَبَ لَا يَا دَبُ لَا يُؤْذِبْ، لَا يَا دُبَنَ لَا يَدْدُدُ بَنَ ، لَا يَا دُبَنَ لَا يُؤْذَبَنَ ، لَا يَا دُبَنْ لا يؤذبن . الطَّرف مِنْهُ ، مأْدَبُ مَأْ وَبَانٍ مَأْدِبُ وَمُؤْيِدِبٌ ۖ وَالْأَلَةُ مِنْهُ بِعَدَةٍ مِنْعَةً بِإِن مَلْمَهُ وَمُؤْيَدِبٌ مِشْدَبَةً وشَعَبَتَانٍ مَأْدُبُ وَمُؤْيَدِيَهُ مُعْتَبَان مِثْدَابَانِ مَا دِيْبٌ وَمُوَيْدِيَبٌ وَٱنْعَلُ التَّفْصِيْلِ الْمُدَكَرُمِنْهُ · ا مَبُ المَ بَانِ ا دَبُوْنَ أوَا دِبُ وَالْوَيْدِبُ ۖ وَالْمُوَنَتَ مِنْهُ ادْنْ مُرْبَيَانِ أَدْبَيَاتُ أَدْبَى م مغيراز باب مذكور بالتخفيف بجائلا ٦ دَبِيَا دَبُ ارْبَا ، فَهُو إَدِيبَ - وَأَدِبَ مَوْدَبُ أَدَبًا، فَذَاكَ مَا دُوْبٌ - مَا أَدْبَ مَا أُوبَ ، لَمْ ادُبُ لَوْ يُوْدَبْ لَايَادُبُ لَامُودَبُ، لَن يَادُبُ لَن يَوْدَبَ، لَيَادُبَنَ لَيودَبَنَ ، لَيَادُبْنُ لَيؤدَبَنُ الْأَمُومِنَهُ الْحُدُبُ الْمُومِنَهُ ، أَوْدُبُ المَوْدَبَ بِلِيادُبُ لِيحْدَبْ الْدُدْبَنَ لِيحُدُبَنَ المَبَادُبَنَ لِيوْدَيَنَ الدَّدُبَنُ لِتُودَبَنْ المَيَا وَبَنْ لِيحُدَبُ كالنَّخْ مَعْنَهُ ولَآمَدُ لَتَوْدَبُ لْإِدْبِ لَايُوْدَبِ، لَا تَادُبَنَّ لَاتُوْدَبَنَّ، لَايَادُبَنَّ لَايُوْدَبُنَّ، لَا تَادُبَنُ لَا تُوْدَبَنْ ، لَا يَا دُبَنُ لَا يُوْدَبُنَّ ، المَادُ مَاتَهَانِ مَاوَدٍ وَمُعَيْدِهِ عَلَالَةُ مُدُمَ مَعْدَ إِن مَادٍ وَمُعَيد مَعْدَيد مَعْدَة مَعْدَة مُعَد بَد معد بَد معد بَد معد بالا ماد ب ومعد بالا ماد بي ومعد بين ماد يك وموديد والمر التقويل الد فرميدرا دم ادباب ادبون اداوب قافيلو ب والكونت ومد اد بن د بن ادبيان ادبيات أحب قراد ديل -مرف صغير خل ثلاثي مزيد فيه مهوز الفاءاز باب افتقت ال جون إلا يتست الم فرما بردارى محرما - علامة إمس بأب كى يدب كرامسكى مامنى بي بآئ حرف عسة دیں بین اصلی ، دو زائم ، یعسنی منزوع میں ہمزہ دخشی ادر سری جگہ تاآ۔ إيتبتوياً تبسو الجَبْبَاحُ أ، فكومو تبيق وافتيسويو تندوا يُبتنادًا، فذالتُ مؤتَبَرُ-مَا انْتَبَرُ مَا أُنْتَبْر لَرْ يَوْحَدَرْ لَا يَأْسَوُ لَا يُؤْتَسُ لَنْ يَأْحَبُو لَنْ يَوْحَسُ لَيَأْتَبُونَ لَيوُ تَبَوَنْ وَلَيا تُحَونُ لَيُوْتَبُونُ أَلْأُحُرُمِنْهُ ؛ إيْتَبِسُ لِتُوقِ مَسَنِ، لِيَأْتَبِو لِيُؤْتَبُوُ ، إِيْتِعَدَنَ لِتُؤْتَنُونَ ، لِيَأْتَوْنَ لِيُؤْتَبُونَ أَلِيَقُ مَسَ ڡؘالنَّحْ مِعَنِّهُ ، لا تَا بِحِرْلاتُو مَبَرٌ ؛ لا يَأْ يَبِو لا يُؤْتَسُ، لا تَأْ نَبِوَذَ لَا تُؤْتَنُونَ ، لا يَأْ تَبِوذَ لَا يُوَ تَبَوَنَ ، لا تَأْ يُبِوذَ لاتۇنىرى، لايانىرى لايۇنىرى الكلوك منه، مۇنىر مۇ سىمراب مۇ تىترا

ب صغيرا زياب مذكور بالتخيف چَوازًا - وَامْسَ مُوَ تَبَرُهُ ﴾ انتبادًا • فَذَالتَ مُوْ تَبَدُّ مَا تَبَرَ مَا تَبَرَ لَعْرَابَهِ لَعَرَكُوْ تَبَرْ لإمانيه لابوتيدم لَنْ يَاتِبُولُنْ يَوْتَبُو ، لَيَاتِبُونَ لَيُؤْتَبُونَ ، لَيَا يَبُونُ لَيُوتَبُون الموجنة ؛ لِيَا تَهِوْ لِيُوْتَهُوْ، إِيْبَعُونَ لِيُوْتَسُونَ ، لِيَا تَعَوْنَ لِعُرْتَكُونَ الْيَتَعَوَنُ لِتُوْتَسُرَهُ ، لِيَا تَعَوْنُ ذَالتَّهُ مُعَنَّهُ لَاتَا تِبُرُ لَاتُوْتَبَدُ ، لَا يَا تَبُولَا يُحْتَبُرُ ، لَا تَابَوَنَ كَانُوْتَسَوَنَ أَلَيَا تَبُونَ لَا يُ لَايَاتِبِرَنْ لَامُوْتَعَرَّبْ ٱلْظُرْفِ مِنْهُ : مُوْتَسَرُمُوْتَمَرَان مُوْتَسَرًاتُ -صرت صغير فعل ثكاني مزيد فيرم موزالفار بالتقنيف بجوائلا ازماب بمستبغ كال يول لانتيذان اجازة مانكناً - علامة إكس بأب كى يب كداكس كى ماصى من جومف بوت بي تَيْتَنْ أَصْلَى ، تَتَمَنَّ زائدُ-تَعِسْبَى تَتْزُوع مِينَ بِمَرْهُ وَصَلَى دوسرى بِحُسَيْنِ فَرَئِيسرى بَكْر إِسْتَاذَكَ يَسْتَلَذِنُ اسْتِيذَانًا نَعُقُومُسْتَلَذِنٌ وَاسْتُوْذِهَ يُسْتَاذَى اسْتِيدُ أَنَّا فَذَالَتُ مُسْتَاذَةُ – مَااسْتَاذُن كَرْ يَسْتَاذِنُ كَرْبِسُتَاذَنْ ، لاَ يَسْتَاذِنُ لَايُسْتَلَذَنُ ، لَنْ يَّسْتَاذِنَ لَنُ يُسْتَاذَنَ ، لَيست لَيَمْتَنَاذَ مَنْ ٱلْأَمُومِيْهُ وإِسْتَاذِهُ لِتُسْتَاذَهُ ولِيسْتَاذِهُ لِيُسْتَاذَهُ وإسْتَا ذِنَ الشُسْتَاذَيَنَ وليسُتَاذِينَ لِيسُتَاذَ بَحَبْ يُسْتَناذِ مَنْ لِتُسْتَاءَنَنْ ، لِيسْتَاذِنَ لِيسْتَاذَنَ وَالنَّحْمَعَنْهُ، لَاتَسْتَاذِنْ لَاتُسْتَاذَة ، لكَيسَتَاذِن لَكَيسَتَاذَ مَبْ لاَتَسْتَنَاذِ نُوَبَ لا تُسْتَادَىنَنَ ، لَا يَسَتَنَا ذِينَ لَا بُسُسَنَا ذَسْنَ لاَ تُسْسَبَ تَاذِسَن لا مستكادَنَ، لا يستكاذِن لايستكادَن الطَّرف من مستكادَن مستكادَنان مستكادَنات ما مكلا الكراس من قامة جوارىجارى زكون تو كروان جش محسي كم بوكى -صرف صغير فل ثلاثي مزيد فيه مهمو الفار بالتخفيف بجوازًا ازباب الغ عال جو الإنت عار : میر حا ہونا۔ علامة إمس باب کی يہ ہے ، کہ ایس کی ماضی میں بآ یک حرف ہوتے ہیں۔ میر حا ہونا۔ علامة ایس باب کی یہ ہے ، کہ ایس کی ماضی میں بآ یک حرف ہوتے ہیں۔ تين أصلى ، دوزامد ليب في متروع مي بهمزة دمت لي أورد دسمري مكذفون إِنَّاطَوَيْنَعِلِ انْتِعَادًا فَهُوَمُنَعِلَةٍ - وَانْتُعِلَ مِنْعَلَ أَنْتِعَادًا، فَذَاتَ مُسْطَرُ م مَاآناً طَوْمَا أُنْتَعَلَى ، لَمْ يُنْعِلْ كُوُيُنُعُلُ لَدَينَعَلْ لَا يُنْعَلَى ؟ لَنْ يَسْعِلْ لَنْ يَسْعَلَ ، لَيَنْعَلَى تَ لَيُنَعَلَى ؟ لَيسُعَلَى الْكُمُومِينَهُ فَطِرْ لِيسْطُ ، لِيسَعِل لِيُنْعَلَى ، نَعِلَى ذَكِتُنْعَلَى ٢٠ دَلِيَعَطِرَ تَ لِيُنَعَلَى ٢٠ أَعَلِي 6 لِتُنْعَلَى ٢٠ ، لِيَنطِرَ ل لِينطر التَّحْمَظَةُ لاَ تَنْعِل لَكُوسُتُطَرِّ، لَايَنُولِ لَايُنُطَرِّ، لَا تَنْعِلُ نَ لَاتَنْعَلَى بَالايَنْعِلَى لَا يُنْعَلَى الاتنعلى لاتنعلى الماينظري الكينظري المنتظري المنتظرين الكينظري المنتظرين الكينظري المنتظرين الكينظري المنتظرين الكينظرين ا لقلوف منه متعكرة منطران منطرات - فامته مرس الج مصدرادرمامن كصيور مي يستل والاجازة

بس يطركا - ورز بجرد مرسا متوالته اس الازم أست كا-صرف صغير فعل مُلاقى مزيد فيب مهم دالفاراز باب إفعال يحوب الأعان ، يقين جما ، ایمان لانا ۔ علامتر اس باب کی بیسب کہ اس کی ماصن نیں تجار جس رف جوتے ہیں، تیتن اصب کی ، ایک زائر کینی مشروع میں ہمت زہ قطبی۔ احَنَ يُؤْمِنُ إِيْبَانًا، فَهُوَمُؤْمِنٌ - دَأُ وْمِنَ يُؤْمَنُ إِيْبَانًا، فَذَاكَ مُؤْمَنُ - مَأَأْمَنَ مَآأ وْمِنَ كَذُبُوُمُ مُن لَا يُوَ مِنْ لَا يُؤْمَنُ ، لَنْ يُؤْمِنَ لَنْ يُوْمَنَ ، لَيَنْ مِنْ لَيُوْمَنَنَ لَيُوْمَنَ لَيُوْمَنُ لَيُؤ لِيُوْمَنْ ، امِنَنَ لِتُوْمَنَنَ بِلِيوْمِنَنَ لِيُوْمَنَنَ ، امِنَنَ لِينُوْمَنَنْ ، لِيوُمِنَنْ لِيوُمَنَن كالنَّحْمُ مَنَهُ ، لاتُوْمَن لَا تُؤْمَنْ ، لَا يُؤْمِنْ الْايُوْمَنْ ، لَا تُؤْمِنْنَ لَا تَنْ مَلَنَ ، لاَ يُؤْمِنَ لَا نُوْمَنَن لظَرْف مِنْهُ مَوْمَن مُوْمَنَان مُوْمَنات -سرف صغيرازباب مذكور بالتخضيف خوازا ا مَنْ يُؤْمِنُ إِنْهَانًا، فَهُوَ مُؤْمِنُ رَدَا وْمِنْ يُؤْمَنُ إِيْدَانًا، فَذَالَتَ مُؤْمَنُ مَا أُوْمِنَ المُديوني كُونُونَ ا لَا يُوْمِنُ لَا يُؤْمَنُ، لَنْ يُقُوْمِنَ لَنْ يَوْمَنَ ، لَيُوْمِنَنَ كَيُوْمَنَنَ ، لَيُوْمِنَنْ كَيوُ لِيُوْمِنْ ، احِنَنَ لِتُوْمَنَنَ ، لِيُوَمِنَنَ لِيُوْمَنَنَ ، امِنَى لِتَوْمَنَى ، لِيوُمِنَى لِيوُ مَنَنْ والتَ<mark>جْمِعَنِهُ ،</mark> لَاتُوْمِنْ لِأَوْمَنْ لَا يُوْمِنْ لَا يُوْمِنُ ، لَا تُوْمِنَنْ لَا تُوْمَنَنْ ، لَا يُوْمِنَنْ لَا يُوْمَنَنْ ، لَا تُوُمِنَنْ لا يُؤمَنَ الْقَرَى مِنْهُ موْمَرْبٌ مُوْمَنَانٍ مُوْمَنَاتٍ -وصرف صبغير بالتخفيف بجوازًا فعل نكلاتي مزيد فيب ويهوزالغآ رازباب تغنَّعيت لْتُ بَجُولُ ٱلتَّنَا بِتُجْدُ، نَشَانِ جَهُورُنَا بِ عَلامَتْهُ إَسَسَ باب كي يه بي كَداسَكَ مامني مَكِ تَجَار حرف ہوتے ہیں تین اصلی کا ایکٹ زائد۔ لیسٹی عین کلمہ مکر ڈمٹیٹ تر د۔ ومُوَتَوْمَا بَذِيْرًا، فَهُوَ مُوَتَّبُي وَابْتُو يُوَشِّو تَابَيُرًا ، فَذَالَتَ مُوَضَّوْهِ مَا أَ شَرْءَ لَهُ يُوَتَوْ لَمُعَتَّزُهُ وَلَائُونِ لَ لايُوتَم، مَنْ يُوَتِّدِ لَنْ يُوَتَّى، لِيُوتِّونَ لَيُوتَوَنَ ، لَيُوثَيْنَ لَيُوتَوَنُ أَلْمُوْمِنُهُ : اَقْرَلْتُوَثَّرُ، لِيُوتُو لَيُوَثَّرُ الْجُرَكَ لِتُوسَى ذَ، لِيُوَيِّونَ لِيُوشَرِّذَ ، { يَوَنُ لِيُوَشِّرُهُ ، لِيؤَيِّنِ لَيُوشِّرُ نُ وَالنَّحْصُفُ الأتو يُدلَانُوشُ لَا يُعَقَّدُ لَمِ يُوثَرُ الاتُوَثِينَ لاتُوثَوْنَ ، لا يُوَثِّينَ لايُؤثَّدُنَ ، لاتُوَثِّينَ لاتُوثَّونَ لا يُوَثَّرَن الأيوثرن الطُرُف مِسْهُ ، كُوثُو **مُ**وَثَّرًانٍ مُوَثَّرًاتٌ ۔ سرف صغير بالتخفيف بجوازًا فعل ثَلاثي مزيدف مهموزالفا رازياب مُفَاعلة عَوْس الْمُوَاخَذَةَ ، يحر كرباز يرمس كرنا - علامة المس باب كي يرب كر أسسى ماصى مي تجار حسدت

ہوتے ہیں نیٹن اصلی ، ایک زائد لیعن فار کلہ کے بعب دالفت اخَذَ يُوَاخِذُ مُوَاخَذَةٌ ، فَهُوَ مُوَاخِذٌ - دَأُ دُخِذُ يُوَاخَذُ مُوَاخَذَةٌ ، فَذَاكَ مُوَاخَذَهُمَا أخذ مَا أُوْجِذَ، لَعُ يُوَاحِذُ لَمُ يُوَاحَذُ، لاَ يُوَاحِدُ لاَ يُوَاحُدُ ، لَنْ تُيُواحِذَ لَنْ تُيُوَاحَذَ ، لَيُوَاحِذَ نَ لَيُواحِذَ نَ لَيُوَاخَذَ بُ ٱلْأُمُومِنِهُ إخِذُ لِتُوَاحَدٌ بِلِيُوَاخِذُ لِيُوَاخَذُ ، اخِذَ نَ لِنُوَاخَذَتَ ، لِيُوَاخِذَتَ لِيواخذنَ ، إخذ ن لِتُوَاخَذَنُ لِيُوَاخِذُنْ لِيُوَاخَذَنُ وَالنَّحْصِيمَةُ ؛ لاَنُوًاخِذُ لاَتُوَاخَذُ ، لَا يُوَاخِذْ لاَ يُوَاخَذَ ، لا يُو لَا يُوَاخِذَنَّ لَا يُحَاخَذَنَّ ، لَا تُوَاخِذَ ثُ لَا تُوَاخَذَنْ ، لَا بُوَاخِذَنْ لَا يُحَاخَذُنُ الْقُلُوثُ مِسُهُ : مُوَاعَذُهُواخَذَانِ مُوَاخَذَاتٍ -· « مرتفاعُلَ يَجُلِ النُّحَالُ لَعُفُ: جمع موما تَبَا لَعَتَ يَتَا لَعُبُ تَأْلُفُنَا الجزم م » تحفده يَاحَكُلُ عَين واحد فكر غامَّب بحسن وأثبات فعل مُعناد مع حدوف - أصْل من يَا تُحُلُ بروَنْ نِ يَعْسُو تَغا - ايك ہمرہ ساکن اتبل متحرك متعا- توبقا عدہ تها من ہمزہ کو اتبل كى تركة - ك مُوافق موف قلته اين العت بدل ديا يك فرز في يا تحل جوایی آر کے آسم ایجند واحد منظم بحث انبات تغل تمضارع معروف - اختل میں آء کک برقد زن آ فصر متحا- دو جز ایک کلمدس جمع ہوتے، دوسرا ساکن تھا۔ تو بکقا عدہ اُحنَ دوسرے ہمزے کو ماقبل کی تحرکۃ کے تُوانَق مُؤنِ جُلَّۃ بعیس ىقى بەل يا اكُلُ بۇزىنا عُلُ بَكِياً 🗿 🛖 🚽 🖓 مىسند دا مدىدكرغانىب يىحت إثمات نىل مُفادح جهول - كَمَسْ بىم يَوْكُلُ بُزَرْنِ يَنْصَرُ تِحَا-ايك بِمَرَّه ساكن البل متحرك تعاند تبقاعدة تبؤسسُ بمراه لا البل كَ تَرْكَة حَدُوالِق تَرْفُ عِلّة إيني وأواً حصر جل ما يكوّنك تُنْبِي وُفَكُم ہوگیا آوستے آپ ۔ میبغہ دا مدمتکہ بحث انبات نعل تمضارح جہل ۔ اُسّل میں اُ ٹاکل برڈڈن اُ مُعَسَّرُ تقا - دَوْبِهزے ایک کارس جمع ہوئے ، د دسراساکن عثا- توئبقاعدہ او جین د دسرے ہمزے کو ماقبل کی تحکیر کے موافق حمین عِلَّة ، ينى فاد سه بدل ديا - اذكل بو زن ادعا بوكيا مستقل ، - ميند واحد وكرّ ما صر بحث امر ماصر معروف - اعش مي أفر كل بوزن ا مصر نفا مطافقاس دونوں بمز الرُكُلُ بم قُنْرِن عَلْ ماديل إسى طرح أَخَذَ يَا حُدُ كَما مَرْخَذُ وادر أَحَرْ با حَرْ، بس بمى ملاف قيامس تخفيف كم تكى - بست متوكو أو حُرْ يُعنا بمي جائز به بكن ابتلائ كلام بس بلا بم ادر درج كام يس با بمز فيصح ب معيد موداً ولا تكويا الصّادة والديث الدكامَو الملك بالعُسلوة ب موكيك حيىنددا مدر كم فصفر بحث اسم فكرجن - أضل مي مُتَوَتِيكِلُ بمَدَزَن بمدَّتِيعِيدًا مَعَا - ايك بمرَّدة مفيزت التبل مضمع غضالو بمزوكو بقاعدة ستحال ما قبل كي خركة محد موانن حرف يلتَّ مدسى دادَف بل ديا مولك مولك موتول من المرجع الدجيك الم والمذيخ يحث اليم المصغرى - أمش مي حِشْكُل كَبر وَزْنِ عِنصَكُ محمد على مرز ماكن ماتبل مخرك تعا - توبقاعة ونيب

بمَزَه كوما قبل كى حُلَة كم محموا فق حف علَّة ، بني يآر سے بدل ديا - مِينكُلُّ بُرْزِين بِنَكُنَّ أَكْرًا حِيلً ، مع مدَّم محمع مذكر تسكتر ، بحت اسم تغضيل - أصل مي أ لم كول مروَّزن أ مَاصِومتها - وَدُبِمز المستحرك ايك كمدين جمع بول الدان مي الم كونى عمى مكسور زمار الوبقاعدة كوادهم دوسر بمزير كو والدّس بدل ديا والجك قرزن أواجل مركماكذا أوجين إينفاف جميلة ندكر مامز، بحث امرما صرمع دف - أصل ميں إنتشغ لت برؤذن إحشوب تعار دوم جزے ايک کلر س جمع ہوئے دوسراساكن تحا-توبتقاعدة إيسما نَّاد وسرف تمز معكوما قبل كاحَرَكت محكوفت حرف عَنَّة بني إلى مت بداجيد إيغاب بروزي يقور ہوگیا کو دفت بعید دوا مدید کر حاصر بحث امر حاصر معروف - اصل میں اور کو مب بروزن الکوم محقاً ۔ دوم بریے ایک کلم میں جمع ہوت ، دوسراساکن تقارتر بر قاعدہ او دہن دوسرے ہمزے کو ماتبل کی حکمت کے موافق حرف بیل بعنى وأفس بدل ديا أفد م بدر إن أو عل ، وكيا -7) رف صغير فعل للتي محترد مهموزالعين بالتخفيف بحوارًا ، ازباب دؤم فتُسَبِلُ يفتح لم يون ألد أم ، شيركا دحار ، ملامة إسس باب كي يد ب كم إلس كي ماصی بین عبن کمسیہ مفتوح اور مضارع میں محسور ہوتا ---مَا كَمَا يَبْذِي مَادًا مُفْهُونُ الْبُوُرِدَة مُنْ يَدَى خَذَالتَ مَوْدَى رِمَا مَا كَمَا مُا مُدَيْ لَامِيزَم، لَنْ يَبَذِي لَنْ يَبْزَى ، لَيَزِي نَّ لَيُزَيَّ نَا لَيَزِي نَّ الْيَزِي نَ كَيُزَى فَ الْكُمُومِنْهُ ابْ تُرْلِنُوَى ، لِيَزِي لِيُزَى ، زِن كَ لِتَزَكَنَ لِيَزِمَنَ لِيُزَمَنَ ، يَهُدَهُ لِتَزَمَنُ ، لِيَزِرَنَ لِيُزَمَنُ وَالنَّهِ حَضُهُ ؛ لَا تَوْمُ لَا شُرْمُ الْأَيْنُ لَا تَبَذِيَ نَ لَا تَتَوَى فَ الْابَذِي فَ لَا يُعَرَّى نَ الْاتَذِى نَ لَا تَزَى نَ الْابَزِي نُ لَا يُؤْكُنْ الْظُوْفُ مِنْعِ ، مَزِي مَنِي اب مَنَإِ مِنْهِ وَمُذَيِّقُ وَالْالَةُ مِنْهُ مِزْرًا نِ مَنَالَتُهُ وَمَنَاتٍ مِنَهُ * مِزَهُ * مِزَهُ تَابِ مَؤَاتُو وَمُؤَيِّوهُ • مِزَارُ مِؤَادًا بَ مَزَّا شِيْرُ وَمَزَيْتِينُ وَالْعَلُ النَّنْبِينِ الْمُذَكِّمُ مِنْهُ كَامَ رَاّ مَذَانِ آمَرُوْنَ آ مَآ شِرُ وَأَنْ يَتَرُ وَالْمُوَنَتَ مِنْهُ بتجال السعم ذيل ينعل محول السامر الجرائد علامتر اسس باب کی بیر ہے کہ اس کی ماضی میں تبین کلمہ تحسورا ورشضائے بیر صفتوح ہوتا ہے سَبْحَدْسَدُسَامًا، فَهُوَسَابُحُرُ- وَسُبْحَرُسُسُمُسَامًا، خَذَالتَ مَسُوْحُ- مَاسَبْحَرَمَاسُعِيرَ، لَعُ يُسَعُر لَعُ يُسَعُرُ لَأَ يُسَبُ لَايُسَهُ، لَنْ يَسْعَرِلُنْ يُسْبَى لِيسَبَنَ كَيسُبَنَ، لِيسَبَنُ لَيُسَبَنُ ٱلْاَمُوْمِنُهُ : سَعْ لِتُسْعَ لِيَسَبَقَ لِيُسَعْ سك والجموع المكشوة شأمة.

ï

۲

.

مَنِقْتُ سَبِّقُ مَبْلُنَا بِحَسْلَعْ فَحْصُ النَّمْ حَروف، كَاسَالَ مَاسَاتُ مَاسَاتُ مَاسَاتُ مَاسَاتُ مَاسَات مَاسَةُ كُنْسَامًا مَانَكُنْتُ مَاسَكُنْ كِمَتْ تَعَيْ فَحَا لَصَى جَهُول، تماسَيْلُ مَاسْتِلْا مَاسْتِلْدُ مَاسْتِلْتُ مَاسْتِكَ مَاسْتُكُ مَاسْتُكُ مَانِيْنُتِ مَاسْطِنْهُمَامَيْتِنْ مَاسْتِنْتُ مَاسْتِلْنَا بِحِسْطَ **بْمَاتَ فَحُلُ مُصْلَحَ معروف**: يَسَلُّ يَسَلُّونَ مَسَلُّ مَسَلُونَ مَسَلُّ يَسَلُّونَ مَسَلُّ مَسْلُونَ مَسْلُون ؾۜڮ*ٳؽڬڐ*ڵۮڹٵؙۺ*ڷۮۮڮؾڐٳؚؠٚٛٵؾڣ۬ڟۘڞڟڵ؏ۼۅ*ڶ؈ؖؖڋۣٮۯڮٛؽۮٷؚؠؾؖؖٷۮؘۺۘڷڐ۫ڮۏڮؽڵڹؘڐٮۘڷڐڮڎٮڷۯۮؿۑؖؿڒڎۺڗۑڗۺۯ؇ڬڵ بمحتث نفى خل تمضارع معروف: لاَيَسَلُ لاَيَسَلَانِ لاَيَسَلُونَ لَاسَلُونَ لاَسَلُونَ لاَسَلَوْ لاَسْلَانِ لاَسْلاَنِ لاَسْلاَنِ لاَسْلاَنِ لَاتَسَلِيْ لَاتَسَلَابَ لَاتَسَلْنَ لَاآسَلُ لَاسَتَلْ بِحِتْ نَعْى فَعَلْ مُصْارِحٍ جَهِول: لَايُسَلُون لَايُسَلُون لِاتَسَلَّ لَاتْسَلَانِ لَايُسَلُنَ لَاتُسَلُ لَاتُسَلَانِ لاتُسَلَوُنَ لَاتُسَلِيْنَ لَاتُسَلَانِ لَاتُسْلُنَ لَائُسَلُ لَائُسَدُ بِحَفْ تَعْتَى كَلِير كَمَنْ ورفعل مُستقبل معروف ، كَنْ يَسَلَ لَنْ يَسَلَا لَنْ يَسَلُو إِنَّ تَسَلَّ لَنِ تَسَلَّ لَنْ يَسَلُّ كَنْ تَسَلَّ الْنَ تَسَلَّوْا آَنْ تَسَبِّيُ لَنُ تَسَلَّدُ لَنُ تَسَلَّنُ لَنُ أَسَلَ لَنُ تَسَلَّ بِحِتْ لَعْيَ مَا كَيدِ كَبَّنْ وَثُعِلْمُ تَقْبِلُ مَجهولٍ، لَنْ يُسَلَ لَنْ يُسَلَّوُنَ يُسَبُوُا لَنْ تَسَلَّ لَنْ تُسَلّا مَنْ يَسُلُنَ لَنْ تَسَلّ لَنْ تَسْلَلُ لَنْ تَسَلَّوْ الَنْ تُسَلِّي لَنُ تُسَلّا لَنُ تُسَلَّ لَنْ أَسُلَ لَنْ نُسَلّ كِعتْ لَعْ بحجر كم وقعل مستقبل معروف، أخريسَلْ لَعُرْيَسَلْا لَعُدَيْسَلُوُ الْعُرْسَلُ لَعُرْسَلُ لَعُرْسَلُ لَعُرْسَلُ ل لَعْنَسَكُ لَدْنَسَلَا لَعْنَسَكُنَ لَدُاسَلْ لَعْنَسَلْ محت لَقَى حَكْرَكُمْ درفُلْمُسْتَقْبِلْ مجيول، لَغُيْسَلْ لَغُنْسَلَا لَعْنَسَكُوا لَعْ تُسَلْ كُمُتُسَلًا كَمُسْلَنَ كَمُ تُسَلَ كَمُ تُسَلَا لَمُ تُسَلُو العُرْتُسَلُو العُرْسَلُ لَعُ نُسَلُ كَمُ سُلُ كُمُ سُلًا تُحصت لام الج مانون ماكيرتقيله درخل مستقبل معروف : ليستكنَّ ليستكنَّ ليسَدُنَّ ليَسَكنَّ لَتَسَكَنَّ لَتَسَكَّنَ لَيستكنَّا فَالمسَكَّة فَالمَدَانَ لَتَسَكَّنَ لَتَسَكُّنُ لَتَسَكُنُ لَتَسْكُنُ لَتُسْكُنُ لَتَسْكُنُ لَتَسْكُنُ لَتَسْكُنُ لَتَسْكُنُ لَتَسْكُنُ لَتَسْكُنُ لَتَسْكُنُ لَتَسْكُنُ لَتَسْكُون لتسكين تشكرة المتلقانة لأسكن السكن المسكنة الحسف لام تاكير بانون تاكير فقيل وط مستقبل جهول المسكرة فا لِيُسَكُنَ لَتُسَكَنَّ لَتُسُكَنَ لَيُسَلُكَانَ لَتُسَلَنَ كَتُسَكَنَ لَتُسَلِّنَ لَتُسَلِّذَنِ لَتُسَكُنَ لَا ل كمكيد بانون تاكيب فتضيف وفطم شنقبل معرومت ؛ كيسَسَنَ لَيَسَسَنُ لَتَسَلَنُ لَتَسَلَنُ لَتَسَلَنُ لَتَسَلِنُ لَاسَنُ لَلْسَلُ بحت لام ماكير بانون الجير خيف در فعل مستقبل مجهول وكيسك كيسك كتسك كتسك كتسك لتسكن لتسكن لأسكن لأسكن لأسكن مت امرحا صرمعروف : سل سلا سلا سلف سلاسان تجعت امرحاصر جهول : لِتُسَلّ لِتُسَلَّ لِتُسَلُّ لِتُسَلُّ التُسَلِّي لتستذليستنن بحت آمرغات حروف ؛ لِبَسَلَ لِيَسَلَدُ لِيَسَلُوْ التَسَلُ لِنسَدَلَا لِيَسَنُنَ لِدَسَنُ لِنسَلَ بجعب مرغاتي ججبول: لِيُسَلْ لِيُسَلَّدُ لِيُسَلَّوُ النَّسُلُ لِتَسْلَدُ لِيُسَلْنَ لِنُسَلْ لِنُسَلْ كَج**نتِ امرحا صرمعروف بالون تاكير لقيل،** سَلَنَّ سَكْنَةُ سَلَنَ سَلَاتٍ سَلَنَاتٍ بحث امرحا صر جمول بانون ما كيد تقيله : لِنسَانَ لِتسَادُون المُسَلَن لِنسَان التُسَكُنَةِ لِتُسَلُنَانِ بحث امرغانب معروف بالون تاكيد تقيله : لِيسَدَّنَ لِيسَدَّة لِيسَدُنَ لِيسَد لَيَسَلْنَا فَ لِلْسَلَنَ لِمُسَلَنَ بِحس*ْ امرغانب كَمِهول بالون تاكيده تعليه: السُسَلَنَ لِيسَدَّ*نَ لِيسَلَنَ لِسُسَنَ لِسُسَنَ لِسُسَنَ لِ لِيسَنْنَا بِذِهِ لِأُسَكُنَ كَمِسْكُنَ تَجِمتُ امرِحاصَرِ معروف بالأن تاكيد معنيف، سَلَنُ سَلَنُ سَلَنَ تَجِعت امرحاض جهوا

بانون تاكيد خفيف، لِتُسَلَّنُ لِتُسَلَّنُ لِتُسَلِّنُ تَحِتْ المرغانَبِ مَعروت بالون اكيد خفيف، لِيسَكَنُ لِيسَكُنُ لِتسَلَّن لِاَسَلَنْ لِنسَكَنْ بحث امرغا مُب جهول بانون ما يج فرضيف، لِيسُكَنْ لِيسُكُنْ لِتُسَكَنْ لِأُسَكَنْ تَعَسَكُنْ احرمعروف: لاَتَسَلَّلاَتَسَلَالاَتَسَلَّالاَتَسَلَّى لاَتَسَلَّا لاَتَسَلُّنَ بحسَ بَنِي حَاصَر جَهول، لاَتُسَلَ لاَتُسَلَا لاَتُسَلُوالاَتُسُلُ لَاشَدَلَ لَهُ مُسَلَّنَ مجعت **بَهى عَامُب معروف ؛ لَا يَسَ**لَا لَا يَسَلُوُا لِلاَشَدَلُ لَاَيْسَلُهُ لَاَيْسَلُ لَاَحْسَلُ كِخُتْ مَنِى عَامَبِ مَجْبُولٍ، لَاَيْسَتَلْ لاَيُسْتَلَا لاَ يُسَلَّوْا لاَ شَسَلْ لَاتَسْتَلْ لاَيُسَلْنَ لاَ نُسَلْ **بالون ما يب (لقبله،** لاتسكنَّ لاتسكانَ لاتسكنَّ لاتسكنَّ لاتسكانَ لاتسكنانَ بحث بني حاصر مجرول بالون تكي سلى لأشكنَّ لأنسكَنَّ لأسْكَنَ لأشْكِنَّ لا تُسكِنَّ لا تُسكِنَنَ لا تُسكَنَّ فِي تَعَامُ مُعَرُوفَ بألون الجد تقيل، لا يسَلَحَ لَا يَسَدَادُمَنَى لَابَسَنُنَ لَانَسَنُنَ لَانَسَلَانٍ لَا يَسَنَّنَا فَالَا تَسَلَنَ كَانَسَكَنَ بِحفض في عاسم جهول با نون الجير تقبله، نَتْ أَدْمُسَلَّةٍ، لَا يُسَلَّنُ لَاتُسَلَّنُ لَاتُسَلَّانَ لَا يُسَلَّنَانَ لَا أُسَلَنَ لَا نُسَلَنَ بِح**تْ سَى حاضر مردت بالرن نا ك** بىم ؛ كَانْسَكَنْ لَاتْسَكْنْ لَاتْسَكِنْ **بَحْتْ مِنْي حَاصْر مجبول بِالْوِنْ مَا كِيرْحْفِيفْرِ**؛ لَاتْسَكَنْ ب بنى عائم محروف بالون تا كم وحفيظ، لايسكن لايسكن لاتسكن لاكسكن لاكسكن لاكسكن محت بنى عامة لمحبول م بالون الجد تصغر، لَا يُسَتَنْ لَا تُسَكَنُ لَا تُسَكَنُ لَا أَسَكَ لَا تُسَكَنُ **بَحَثُ الم فاعل :** سَأَنِكُ تُتَابُلُا فِ تَنْكُوُ سَاَ ثِلَهُ مُسَوَلَدٌ سَتَعِدَى مُنْحِتُ المِم مُعُعول : مَسُولُ مِسُولُونَ مَسُولُدُ مَسُولُدُ مَسُولُدًا تَ صرف صغير فعل نلاثى تجرَّد مهمو العين بالتخفيف جوازًا ازمات يخبُّ فَعُلَ بَفُنُلُ يَجُولِ ٱلتَّرَا **حِنَّهُ : م**هر بان توار علامة اِسس باب كى بيب كراً س كامنى ا در مخصنیا رع میں عین کلم <u>دِنَّ وَمُ بِعَثَ مِرَ</u>كُمُ إِفَةً <u>،</u> فَذَا ، لَنْ يَوْتَ لَنْ يَوْفَ، لَبُرُعَنَّ لَبُرُفَنَّ لَبُرُفَنَّ ، لَبُرُفَنْ لَبُرُفَنْ الْأُمُومِنَهُ لِبُرِفْ ، ثم فَنْ لِبُرِفْنَ البُرُفَنَ ، ثمَافَ لَتُوَفَدُ ، لَيَرْفَنُ ، لَيَرْفَنُ لَبُرَفَ لَا تُوفَ لا يُوف لا يُرف كَلَوُفْ لاتُوْذَنَّ لا يَوْفَقُ لاَيُوْفَقُ لاَتُوْفَقُ لاَ يُوْفَقُ لاَ يُوَفَقُ الْظُوفَ مِنْهُ ، مَوَفَّ مَوْفَكِن موابَقُ وَمُوْتَفَ وَالْأَلْمُ مِنْهُ امِرَتْ مِرْفَانِ مَرًا بِعْبُ وَمُرَبِّعْتُ - مِرَفَةُ مُرَفَّتَانِ مَرَّا بِعْبُ وَمُرَبِّعَةً - مَرَانُ مَرَانَهِ مُوَانَدُه وَرَبْعَتْ وَانْعُلُ الْمُفْصِيلُ لُمُدُكُومُنُهُ كَمَ ثُنَّا مَ فَانَ أَمَ فَيْنَ أَمَ إِنَّقَ وَأَمْ يَعْ وَالْمُؤْتَتُ مِنْهُ فَقَيْ فَا فَعَنْ مَرْدَعْتُ مُوفَقًا مَ وَفَيَاتُ مُ وَفَيَاتُ مُ وَفَيَاتُ مُ وَفَيَاتُ مُ وَفَيَاتُ مُ وَفَيَاتُ مُ وَفَيَ رف صغیرفت مَلادة مزید فیر مهوزالعین بالتحفیف جواز ًا از ماب افیعّت ال یکچوں یہ تیج تاب : عملکین ہونا۔ علامۃ اس باب کی بیہ ہے، کی ا ی میں یا نج تحرف ہوتے ہیں۔ تین صلیٰ درزامدیعیٰ تکرف میں ہمزہ ک

كَتَبْ مُكْتَمِ الْمُسْالُفِ مُكْتَبْ وَالْمُعْتَ مُكْتَبُ الْمَيْهِ مُعَدَّاتَ مُكْتَبْ مُعَدَّمَ فَ فصغير فعل ثلاتي مزيد فيريهمو الغين بالتخفيف تبوارًا ازماب مشترف تأل لاستراف رجمة طلب كزا علامته إس باب كي يترجه كه اسكى ماصنى ميں جي حرف محت بن المسلى يَنْ زائد-يعنى سُشْرِع مِنْ تَمَرْهُ وَصَلَى دُوسَرَى جَدْسَيْنَ مِسْرِي حَبْ كُمْ تَأْ ستري كمترف اشترابًا، فهو مُسْتَرفُ وَاسْتَرفَ مُسْتَرفُ مُسْتَرفُ اسْتِرابُ اسْتِرَانًا، فَذَالتُ مُسْتَرفُ رِيْ، لَايَسْتَرِفُ لَايُسْتَرُفُ لَمَنْ يَسْتَرِبَ لَنْ يَسْتَرُبُ ، لَيَسْتَرِفُنَ لَيُسْتَرُفُنَ ، لأمريمينه إستوف لتسترف ليستوف ليستوق واستوفن المسترفن مليسترفن ليسترفن المسترفن الستوفن الشتوف لتستر يَوْفَنُ لِمُسْتَرُفٌ وَالنَّحْمِيعَةِ مِلاَ تَسْتَوِنَ لَانَسْتَرَفْ الَايَسْتَوَفْ لَايُسْتَوَفْ الاَتَسْتَرُفَنَ لَاتَسْتَرُفَنَ الْأَسْتَرُفَ لَدِيسَتَرَجْنُ ، لَاتَسَتَرْجُنُ لَاسْتُتَرَجْنُ ، لَا يَسْتَرْجَنَ لَإِيسَتَرَجْنَ ٱلْظَلْ فِي مِنْهُ ، مُسْتَرَخُ مُسْتَرَخَاتِ **مرف خير فعل لكاني مزير فيرم وموز العبين با**لتحقيظ عمارًا إزباب إفعال **حوّل ألّا شام ألكب** میں داخل ہویا۔ علامة اس بآب کی بد سب کہ اس کی مامنی میں چار حرف ہو ہیں تین اصل ، ایکٹ زائد۔ یعسنی ستشہ وع میں ہم۔ زائط می شَعَدِيْشِعُ إِشَامًا، فَهُوَ مُشِعَرُ وَأُسْتَعَرِيُشَعَرِ إِشَامًا، فَذَاكَ مُشَعُرُ عَالَتْ عَمَا أُسْعَ كَعَ لَا يُسْهِرُ لا يُشَدُدُ لَنْ يَسْحَدُ لَيُسْبَرُ لَيُسْمَنَ لَبُسْمَنَ لَيُسْمَنُ لَيُسْمَنُ أَلْأَمُومِنُهُ ا شِمَنْ لِتُسْبَنَ لِيُسْبَرَنَ لِيُسْبَرَنَ أَشِهَنَ لِنُسَمَنُ ولِيُسْهَنَ لِيُعْتَبَنُ لِلْمُسْبَنَ وَالنَّجْ لَا يُسْتَعُرِ، لاَ تُشْهَنَّ لاَ تُشَمَّنَّ، لاَ يُسْبَنَّ لاَ يُشَمَّنَّ ، لاَ تُشْبَنُ، لَا يُسْبَنُ لاَ يُشْهَنُ الْظَرْفُ مِنْهُ مُسْبَعُ مشتهان مشهات . صرف صغير جمواعين ازباب ميفاعكر جوب ألميسك بتلد ، بابم سوال كرا يمثل صبح » ، ، » » ، » تفغل » آلتَّكَا دُ^مُ ؛ وُشوار بونا، مُشقَّة برداشت كرما سُلم صحيح سے -« ، ، ، ، ، ، تفاعل » آلتَسَبَّا عُلْ ، آبسي سُوَال كرما مُسْرِ مُسْتِح سِبِ تخفيف ات يَسْبِيهُ سِعِيدُ واحد ذكر فائب ربحث إبَّات فعل مُضارع معروف - أَصْلَ مِن يَوْتُبِدُ بِرَدْنِ يَصْبِرِهُ تَعَا -ايک بهزه متحرك ما تبل كَن قاب تركة مقارتو برقاعدة يسك بمزير كى تركة نعل محرك أنبل دير بمزينا توكوديا - يَوْنُ مُرَدْنِيَ يَعْلُ مَنْ المسور من معده واحد مذكر عا بحت إتبات خل تمضارع جميل - أمثَّل بن يُوْآً ثم برَوُذْنٍ يُعَنَّوَبُ تقا - ايك بمزه متحرك ، ما قبل ساكن قابل حُركة تعا - توبُقاعدة يَسَلُّ بمز - ك منو بل) الخرامنى جبول مي عقر مود في والا قاعده نهي يطلكا - ورز باب تغييل كي امن جبول كم سائد التركس لازم أت كا - ١١ من

تَحَدَّ نَصْ كَرِكْ ما تَبْلُ و دَكود مراح كورا مين موزن يُعَلَّ مركب ومعند من ترجم مراح من مرحر مرحف أعمل من إذ يشور برودن إضرب تحا- ايم ممزه متحرك اقبل ملكن قابل خركة تحا- توبر قاعدة يستدل ممز مع كالتركة نقل كم محا اقبل كود يوم مرمد كوكراديا الذر بوكيا موزه دصل كومزددة ندرسينة كى دحبت كراديا - زار فرزي في كريد - كذابترز تصويف مدير مديما مدين مديم مغول دامش م مَوْ وَقُوْلَرُ بِقُزْنِ مَعَنُوهُ بِمَا ايك بِمَرْ بِحَرِك ما قبل ساكن قابل مَرَّكَة مقارتو بَقاعدة يَسَلُ بمز مى كَرَكَة نُعْل كم ما قبل كوديجر بمنطقاديا - مَوَدَدَرُونَنِ مَعُولُ مولي صحيفة واحد فدكر - بحث المج المرف - أعس مودشين بروزن حصن يدين تقارايك بمزه متحرك ، اتبل ساكن قابل حركة تقارتوب قاعدة يسك بمز ا كى حركة نفل كرك ، تبل يرج وتركود ، موذة فرزن مَغل كم فكو يتدفئ حينددا مدينك مُصَغَر بحث المج أطرف أضل من مُؤَيْتُونُ برَوَدْنِ مُصَيْدِ بِحُ تما رايك بمزه متحرك بالت تصغير ك بعدد الع برداً وتوبَّه قاعدة أغيَّس بمز حكوماتها كي منت بدل كراد عام كرِّيا - مُؤَمَّر مُزَّرْنِ مُفَيّلٌ بوكيا - كذا مرَّ يركز دمر تذكير داري اكَرْمَنْ ، صيغ دامد مركز بمعت أتم تغفيل - أمثل مي أثرة ثم مماذن أصَّوب تما - ايك بمز متوك ، ماقبل ساكن قابل تترك تقا توبر قاعدة يسب مرسه كانتك تعلى محك تبل ودير بمر يظلودا أدروز زن أفل جري م وراحي ميد ورد ودر ودر بحث الم تعفيل الماس ودُرُدى بردزن صر بل عقار ايك بمزه ساكن ، ا تبل متحرك تقا . توئبة ناعدة بُوْمِنَ بمز ي كو ا تبل كى حركة المحموا فق سرب علَّة لين وآدست بدل ديا- ذُذذى بُرُنْنِ فَلْ مَنْ وَكُمْ ، مسينه جمع موَنت - بحث المح تفضيل - اصْل مِن دُوْسَ كا بدوزن صور في تقا- الم بمزه مفتوح ، ما قبل مصنوم مقا - توبّ قاعدة شتَوَّال مجمز - كوما قبل كى تَرَكَة سلى مُوانَّق مرفِيلًة بين مآوً سے جل وأيو قرن بونزن كال بوكي كذا فُرَدِّيْنِي بِيسَلْ إسمِيدُوامد خرَمَ خاسَب بِمَتْ إثبات فس مُضارع معروف، أمَّل مِن يُسَاً لَ مُروَدْنِ يُغْتَهُ مِتا - إيك بمزه متحرك ، ما قبل ساكن ، قابل حركة عما - توميجوز كمه قاعده من كم سائفة مرد في تحكة نقل كمسك ا قبل كمرد بي فك تجريب يفل تجر وركيا-كذايسك مسك ٦- صيغة دامد فركر ما صرائيت امر ما صرمودت - أصل من إشاك بروزن إ نتتم عما- ايك ممزه متحرك ما تبل ساكن، قابل تحرّكة عقا- توئبة قاعدة يسَتَلُ بَمِزه كى حُرّكة نقل كور كم ما قبل كوديكر، بمزه كوكراديا - فاد كل كم متحرك بوسف ك وتجت ميرو ومش كومزورة نشيفك وجد كراديا بتل بُرُدَن قل برا سكذا إنسَلْ ومسول ومسكل ومسك وأسك تحسب الم مسفددا ود فركم مُعَنور بحث الم فرف ، أعشل من مسيد بل المروزي مفيتر من تقاريك تعاريك معدم مرد واقع مؤا-توبر فاعدة أ فيس م زمکو اتبل کی منس سے بدل کرا دعا کردیا ، مُنیک کرون مُفَقَل برا ، الکُذا مُسَتِيک توم بتايل قُوم سيترك مع**مولی** ، عيد واحد كرنت بحث بمسيقضيل وأضل مي شتوتًا لي مؤذنٍ فُتُحْسِطَ - أيك بمز وساكن ما قبل توك ثلا- توبُر قاعدة بُوْ مَنْ تمز ب كوا قبل كى خُرَّلْت كم مُرافق *وفي لاذ يعنى فالاسع بدل يا م*تولى ب*قزن فزل بجلاً المستحق للمحاج ، حصيف جمع مؤنث مُحَسَّر بمث اج*لافيل يمثل مي متحل بُوَزْن مُتَبَح محقا-ايك بمزه مفتوح ما قبل مفتوم تقا-توب قاحدة مستى الم جمزه كوما قبل كى حركة كم موافق حرف عِلَّة بعنى قآ وس بدل ديا -سَوَلٌ برُدَرْنٍ فَوَلٌ بَوْلًا - وَكُذَا سُوَيْلْ -

í (P) صرف مغير فالأتى بمُحَرَّد مهموز إللام بالتَّخفيف جوازًا (باب موم فَعِلَ بَفْعَلُ جولَ لَكُواحَة ، برى بونا - علامترس باب كى يب كراي مائل ب عين كم مسورا ورمضائع لي مفتوح بودا -----بَرِي يَبُوا بُسَلَةٍ * المُعَوَبَرِي - وَبُرِي مِنْوَا جُسَلَةٍ * فَذَالَتَ عَبْرُوْ حَمَابَوى حَابُوى الحُدِيثِزَا لَعُينُزًا الأَينُورا كُذَينُ أَكُوبَ المَ يَتَبَرُ لَنْ يُهْبُرُاً، لَيَبُرَاًنْ لَيبُرَاكُنْ لَيبُراكُنْ لَكُبُرَانَ ٱلْأَمُوْمِينَهُ، إبتزا لِتُبْرَاطِيبَزاطِيبُزا المُوَاتَ لِعُثْمَاتُنَ الْيَبْرَأَتُ إِبْرَانَهُ لِتُبْرَأَنُ ، لِيبَرَآنُ لِيبْرَأَنْ وَالنَّحْصِينَةُ ، لَاتَبْرَا لَاتَبْزَا لَاتَبْرَا لَايَبْرَا لَاتَبْرَا نَ لاتَبْرَأَنَ لايبْرَأَنَ لايبْرَأَنَ لايبْرَأَنَ لايبْرَانَ المُتَبْرَا نُ لَاتُبْرَأَنَ لَا يَبْرَأَنَ لَا يُبْرَأَنَ ٱلظَّرْفُصِنَهُ، حَبْرَا حُبْرَانٍ حَبَادِيَ وَمُبَدِّدِي كَالْالَدُوسُهُ، مِبْلاً حِبْرَانٍ مَبَادِي تَعْبَدُو عِبْتِهَا * حِبْرَلْ مَادِئ وَمُبْتَرْبِيه - حِبْرًا مَرْ مِبْرًا مِنْ مَبَارِي وَمُبَيْرِي وَافْتُلْ المَفْفِينِيل المُدَكَر مِنْهُ • أَنْوَلُ ٱبْوَابْنَ ٱبْرَا وْنَ آبَابِ يَ وَٱبْبَيْرِيٌّ وَالْمُوْبَتَتْ مِنْهُ ، بَلِى بُرَيَانٍ بُوَيَاتٌ بُرُؤٌ وَبُوَيَّتْ صرف صغير فيل ثلاثي تجرّد مهوز اللهم ازباب جهارم فعل يفعل بحس ألفراء في عظما علامي اس باب کی در بین آیک بی بر کردس کی ماصنی اور متصا رح میں عین ک مفستوح تهوتا بيبيع دوتتمري بدكدامس كاغين كلمه يالام كله يرقف خلقي تهوكا -قَرَلَ بَقُرْمُ قِنَ آمَة ، فَهُو قَارَى ٢ وَقُرِي يُقُرَ أُقِنَ عَدَى مَعْدَ الْ مَعْمَ وَهُ - مَا قُرْ كَا فُرى ، لَوْ يَعْنُ لَهُ يُقْسَا -لاَيَعْمَا كَانُ يَعْمَا مُكُن يَقْمَ أَكُنْ يُعْمَا مُكَفَى أَنْ كَيْعَمَ أَنْ مَلْيَعْمَا أَنْ لَيعْمَا أَن ال لِيعْنَا أَبِإِقْرَآنَ لِتُعْرَآنَ ، لِيَقْرَآنَ لِمُعْرَآنَ لِتُعْرَآنَ لِتُعْرَآنَ بِلِيَعْرَآنَ لِيُعْرَآنَ والنَّعْمِينَهُ، لَاتَعْرَأَ لَاتُقْرَأ لا يَعْمَا ﴾ لا يُعْمَا ، لا تَقْرَآنَ لا تُعْمَا أَنْ ، لا يَعْمَا أَنْ لا يُعْمَا أَنْ ، لا يَقْرَأْ لا يُعْرَأَ فالقُلْفُ مُنْهُ مَقْرَ أَ مَقْرَدَانِ مَقَارِي حُدَمَقَيْرِي حَالَا لَهُ حِنْهُ ، حِقْراً حِقْرَة إِن مَقَلِي كُ وَحُقَيْرِي حَد حِقراً * حِقْراً * تَانِ مَعَانِ كُ ومعَنْدِرْتَهُ - مِعْرًا بِ مِقْرَاء لِ مَعَادَبُ مُ وَمُعَهْدِينِينَ وَأَنْسَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُذَكَرُ مِنْهُ ، آفُرا أَفْرَكُنَ أَفْرَقُكُ ٱنَّابِي كَ وَأَقَبْرِي كَ وَالْمُوَنَّتُ مِنْهُ ، قُنْ إِي قُنْ آَيَانِ قُنْ أَيَاتَ فِي لا قَنْ أَي رفت صغيرا زياب مذكور بالتخفيف بجازا قَرَأَ بَعْنُ أُمِّ قِدَاءَةٌ، فَهُوَقَارٍ يُ أَ وَقَبِينَ يُعْرُ أَ مُعِنَى الْمُ مُعْمَ أَدُ مَعْمُ وَأَ مَا قُبِينَ الْمُرْبَعْنَ الْمُرْمِعْنَ ا لَا يَعْنُ ٱ لَا يُعْمَا ؟ لَنْ يَعْنَ أَكُنْ يُعْمَا كَمُ لَيَقُوا كَ لَيعْنَ أَنْ الْدَعْنِ الْدُمُومِنَهُ ؛ إقْوَا لِيعْوَا إِلِيعْوَا لِيعَنَّمُ الإِخْرَةَ نَ لِتَقُرَبُهُ مَا لِيعَدُدُهُ لَيعَنَّهُ أَنَّ التَّقُمُ أَنْ لِيقُرْآنُ لِيقُرآنُ وَالنَّحْمَظُهُ لَأَحْتُمُ الْأَقْتُمُ لَ هُو عُ الْمُكَتَّبِ قُرْقَ نَقْ، فَيَ أَجْ، فَيَ عَرْقَ عَرْقَ عَرْقَ عَاجُ، فَي نَانَ، فَي لَانَ فَو إِجْ القواعُ، أ المنه

الأيَعْبَرِالدَيْقُرُالا تُقْتُرُأْنَ لَا تُقْتُرا فَي الدَيقُرا أَنَّ لَا يُقْرَأَنَّ الدَّيقُرَأَنَ النَّقَرُ
مَعْمُ أَكْمَعْمُ مَانٍ مَقَامِ مُ وَمُقَيْرِى قَالَالَةُ مِنْهُ : مِعْمُ أَكْمِعْمَ أَنِ مَقَامِ مُ وَمُقَابِقُ
وَمُعَيْرِيَةٍ أَسْرِمَةُ مَا عَرْمَ مِعْمَا عَرْبِ مَقَارٍ ي وَمُعَيْدِي وَالْعَلْ التَّقْتِيْلِ لَهُ لَأَوْمِنْ أَقْرَمُ أَقْرَمُ أَقَرَمُ أَقَرَمُ أَقَرَمُ أَقَرَمُ أَقَرَمُ أَقَرَمُ أَقَدَى أَقَدَى اللَّهُ فَي اللَّهُ مُعَالًا لللَّهُ فَي أَنْ اللَّهُ مُعَالًا عَمَدُ مُعَالًا مُن أَقَدَى أَعَالَ اللَّهُ في أَنْ اللَّهُ فَقُولُ اللَّهُ فَي أَقُومُ أَقُرُ مُوا أَقَرَمُ أَعْرَبُ أَ
٤٤٤
مرف کېږ
بحبت إثبات فعل ماصى معروف افكة قديمًا قَرَمُ وَاقْرَابَ قَوَا مَا يَدَوَان اللَّوَان قَوَات قَرَا تَها فَد المُ قَرَانِ قَرَانَهُما
تَحُوا مُنَ قَرُاتُ قَرَانًا بجمت إنباك فعل ماضى مجهول؛ قُرِي قُروا قُرُبَتْ دُوريَة الحُرييَة تُوريَنَ تُوبيت قُر
إِنَّدِينَهُ مُعَرِيتٍ فَرِيْتُهُمَا قُرِيتُهُ فَرِيتُ فَرِيتُ خُرُيْنَا بَخِتْ نَفْى فَعَلْ مَاضَى معروف، مَاقَرْ أَمَا قَرْءَامًا قَرَءُ أَمَا
فَرَأَكُتْ مَا تَوَا مَا قَرَانَ مَا قُرَاتَ مَا قَرَاتُهُمَا عَرَانَهُمْ مَا فَرَاتِ مَا فَرَاتُهُمَا مَا قَرَاتُ مَا قَرَانَ مَعَادَرًا لَا تَجْعَتْ
الغي نعل ماصى مجهول: مَاقُرِيَ مَاقَرُ كَاحَافُ أَوْامَاقُ بِيَتْ مَاقُر بِيَتْ مَاقُو بِيَامًا قُونِيَ مَا قُونَتْ مُ
كَمَا تُوَيْتِ مَا قُرِد يُسْمَا مَا قُرِي ثُنَّ مَا فَرُدَيْتُ مَا قُودَيْنَا بحتُ إثبات فَعَلْ مُضارً عمروف : يَقُنَّ ويَقُرأُن يَقْرُدُن
التَغْرا مُ تَقُرَ مَانَ يَقُرا مَ تَقُرا مُ تَقَرر أَ تَقَرر أَن تَعْم وَ وَن تَعْم بِين تَقْر مَان تَقْر ان ت
مُصارح مجبولٍ: يُفْرَدُ يُفْرَدُ يُفْرَدُنْ تُقُرًا تُقَرَّدُ تُقَدَّدُ أَنْ يُقْرَانَ تُعْرَدُ تُقْرَدُونَ تُقْرَبُ يُنْ تُقْرَدُونَ
المُقْرَانَ أُقُوا بُنُقُنُ أَنَّ محت لَعْي فَعَلْ مُصارع معروف، لَا يَقْرَا كَا يَقْرَءَ إِن لَا يَقْرَ وُدُن لَا تَقْرَا كُلا تَقْرَا بَال
يَعْمُ انَ لَاتَقْرُ ﴾ لَا تَقْرُبُون لاتَقْرُ وُوْنَ لاَتَقْرُ بِينَ لَاتَقْرَ مَانَ لاَتَقْرَ انَ لاَ آقْدَ ﴾ لا نَقْرَ ٢ معت لفى فعلمُ صابح
محبول: لا يُقْرَرُ لا يُقْرَرُ لا يُغْرَدُونَ لا يُقْرَرُ لا تُقْرَرُ إِلا تَقْرَرُ إِلا يُعْرَدُونَ لا تُقْرَرُ أَلا تُعْرَبُونَ لا تُعْرَبُونَ
لاَ تُعَرَّدُوا لاَتَعَرَّانَ لاَ أُمَّرًا لاَ نُقْرَا أُ مجت نعني تاكيد بكن ورفعل سُنقبل معروف: لَن يَعْرَا لَن يَعْدَءَا
لَنْ يَعْمُ وُوالَنُ يَتَعَمَّ أَكُنُ تَفْرَءَالَنْ يَقْرَانِ لَنُ تَغْلَرُا كُنْ تَعْرَءَا لَنْ تَعْر
كَنْ أَحْدَا كَنْ نَعْمَا أَ مِحِتْ نَعْنَ بَالْجِيرَ لَكُنْ ورفعل مُستقبل مجهول: كَنْ يُعْرَكُ لَنْ يُعْرَكُ لَنْ يُعْرَكُ لَنْ يُعْرَكُ لَنْ يُعْرَكُ
كَ مُعْمَى النَّ يَغْنِي أَنَ لَنْ تَعْمَى أَكُنْ نُعْمَى وَالنَّ تُعْمَى وَوَا لَنْ تَعْمَى مَنْ تُعْمَى أَسِى
بحيث نفى يحكر تمجم درفعل مُستقبّل معروف، لَدْ يَقْهَا لَعْدِيَعْهَا وَالْعَرِيَقُهُ أَوْ الْعُرْتَعْنَ الْبُوتَقُ عَالَهُ لِقُوانَ
لَعِرْ تَعْمَى الْمُدْتَعْنَى مَالْمُدْتَقَى أَوْ الْمُوْتَعْنَى تَعْمَى لَمُرْتَعْنَى وَالْمُدْتَعْنَى الْمُد
مُستقبل مجهول، لَعَرِيعَهُ، الْعَرِيعَهُ، وَالْعَرْيَعْنَ وَالْعَرْتُعَنَّ الْعَرْتُعَمَّ وَالْعُرْتُعَنَّ الْعُرْتُعَنَّ وَالْعُرْتُعَنَّ الْعُرْتُعَنَّ وَوَدَا
لعرتقهم شيئي لعريقهم ءالمدينق أناكد أخرائد نغترا لمحت لام تاكيد بالون باكبرتفتيا درفعا مستقبا موقال
لَيَعْمَا أَنْ لَيَعْمَا أَنْ لَيُعْمَدُونَ لَتُعْدَا أَذَ لَتَعْرَدَ إِنَّ لَيُعْمَا أَنَّ لَتُعْمَ أَنَّ لَتُعْمَ أَنَّ لَتُعْمَا أَنَّ لَ

المجموع المكشرة حربة.

ارَنْ أَجْدَا كَنْ نُجُدا محت ففي تحف ربَهم در خول مستقبل معروف، الدَّيجر وَلَد يَجْرُوَ الدَّيجر وُدا تَجُرُو لَعْرَ تَبْعُرُوا لَمُ يَجُرُونَ لَمْ تَجُرُونُكُمْ لَمُودَاكُمُ تَجُرُدُوا لَعُ تَجْرُضِي لَمُ تَجْرُوا لَمُ تَجْوُدَن لَعْاً جُنُدُ لَوْ نَجْدُوْ بَحِمْتُ نَعْيَ جُحْسُرَةٍ لَمْ درفغل ستقبل مجهولْ: كَدْ يُجْوَا لَعُدْ يُجُدُوُ إَكْفَ يُعْبُدُه تَرْتُجْوَنَا لَدْ يُجْزَانَ لَعَرْتُجْزَا لَوْتُجْرَحُنَا لَوْتُجْرَدُوْ لَعُرْتُجْوَيْنَى لَمُ تُجْوَتَا لَمُ تُجْزَانَ لَوْأُجْزَا لَعُرْتُجُوَا بحت لام ما يجد بالون ما يجد ثقيله در نغل ستعبل معروف، ليَجْدُونَ ليَجْدُونَا في مَجْدُونَ لَتَجْدُونَ لَتَجْدُ وَإِن ليَجُودُنَانِ لتَجُوونَ لَتَجُووانِ لتَجُودُنَ لَتَجُوثِنَ لَتَجُومِنَ لَتَجُووانِ لَتَجُوونَانِ لَاجُوونَ لَنَجُوونَ كَجَعَ لَلْ أَمَاكِم بالون ما كيد فقيله درفع مستعبل مجبول: كمجرَّات كمجرَّات كمجرَدُت كمجرات كمتجرات كمتبرات كمجراكات كمجراك لتجريك لتبغزان لتبغرين لتجزئان لنبغرانات لامجزان لنبغزان المجعت لام تكيد مانون الجدخيفه دوط مستقبام وفن لَيَجُوكِنُ لَيَجْمِوُنُ لَتَعْرُدُنُ لَتَجُرُدُنُ لَتَجُدُدُ نُ لَتَجْدُدُ لَنَجْدُونُ لَنَجْدُونُ لَنَجْدُونُ ل ورفعل ستقبل مجهول ، لَيُجُوانَ لَيُجُودُن لَتَجُوانَ لَتُجُوانَ لَتَجُورَن لَتَجُونُ لَتَجُويُنَ لَا جُزان لَنْجُوان مُحِت ا مرحاص معروف، أجرة أجرة الجرة ذا الجرة في الجرين الجرة في الجرة في تجعت امرحاص مجهول، ليتبعد التجو للتجو تظلُّ بجرفة فا لِيَجُورَيْنَ لِتَجْوَدًا لِتَجْوَانَ مجمعت امرها مَب معروف : لِيَجْوُ لِيَجُودَا لِيَجُودُوا لِيَجُودُوا لِيَجُودُنَ لِيَجُودُ لَيَجُو لِنَجْدُو بحت إمر فانتب مجرول ، إيمبتو إليجو ما أيجود في ذالة موالي مجرعًا ليُجوران لا جورالتُجورًا بحت المعامير مُعروف بانون تاكيد تعيله: أجردون أجردون أجردون اجرون اجرين اجريان اجردان محت امرما منرجمولي بالونَ لَكِيدِ فَعَيْدٍ: لِتُجْرَآنَ لِتُجْرَكَآنَ لِتُجْرَدُنَ لِتُبْعَرَيْنَ لِتُجْدَاً فَا لِتُجْرَآنَ لِتُجعث المرفامُسِ معروف بِالون كَك لقىپ لە؛ رايىجودۇنى كىجودكاتى كىجورۇنى رىتجۇدۇنى كەيجودكانى لىيجودۇناي لاجودى كىبخودەن تى تجعت المرغانىپ مجرول بالون الجد القيلر: إيجرامة إيجرانة ليجريكة لتجرأ والتجران ليجرانان المجرانان المجرانة المجرانة المجرانة بمحت ام حاصر معروف بالأن تاكيد تعذيفه: " أجردت أجدد في أجد ين تجعت امر ما صرم مرجول بالون تاكير تعنيف، ينتجوان لِنَجْوَدُنَ لِنَجْدَيْنَ بحمث امرغائب معروف بالن ماكر خيف، الميجودَن ليبغود في لتجدود للجودن للجودن للجودن بحث امرغا مسب مجهول بانون ما يجد خفيف، الميجوة ف الميجوة ف التجوية ف المجودة في المجدة في مجت بني الم معروف ، كَتَجْدُودُ لاتَجْدُوا لاتَجْدُودُوا لاتَجْدُينِ لاتَجْدُوا لاتَجْدُون مجت بني حاضر مجهول الأتجترا الا تُجْرَبُ لا تُجْرَدُوا لا تُجْرَيْنى لا تُجْرَيْن لا تُجْرَكَا لا تُجْرَلُ المُعْرَان بحث في عامَ معرف الله يجردوا لا يجرد الا يجرد ا لاتتجرو لاتجروا لايجرون لأأجود لأنجر فراد بحث نبي غابت مجهول الأيجر كالأيجد كالأيجدة الأنجوا لأنجوا لاَ يُجْدَانَ لاَ أُجْدَا لا مُجْدًا مجت منى حاصر معروف بالوَنْ تُقْتِب لما: لا تَجْدُونَ لاَ تَجْدُوا لا تَدْهُدُونَ لا تَجْدُونَ لاَ تَجْدُونَ لاَ تَجْدُونَ لاَ تَجْدُونُ لاَ تُحْدُونُ لاَ تَجْدُونُ لاَ تُجْدُونُ لاَ تُحْدُونُ لاَ تُحْدُونُ لاَ تُجْدُونُ لاَ تُجْدُونُ لاَ تُجْدُونُ لاَ تُحْدُونُ لاَ تُجْدُونُ لاَ تُجْدُونُ لاَ تُجْدُونُ لاَ تُحْدُونُ بالوَنْ المُونُ المُونُ المُ لا تُحْدُونُ لاَ تُحْدُونُ الأتجرواني لأتجر وأي مجمع بنى حاصر مجمول بالون تاكي تعسده الأنجوان لأتجو أن لأتبعو كان لاتبعوان لانجو في

لاَ يُجْدِنَانِ لا يَجْدَا لَان**ِ بحِث بْنِي عَامَب معروف جانوَنَ نَقْتِب له،** لاَ يَجْرِيدِنَ لاَ يَجْدُدُوَانِ لاَ يَجُودُونَ لَا تَجْدُوُن لاَتَجْوُعَانِ لاَ يَعْدُ فَنَانِ لَآً جُرُونَ لاَ بَجُرُونَ مَجْمَتْ بَنِي عَامَتِ مجهول بالوَنْ لَقَيْبِ له، لاَ يُجْدَأَنَ لاَ يُجُدَنَا آَتَ لاَ يَجُوا مَ لاَ تُجْدَةً لاَ تُجْدَعًانَ لاَ يُجْدَانَانَ لاَ أُجُدَانَ لاَ نُجْدَانَ مَحمت مِن ما صرمروف بالون غيف، لا تَجْدُون لاَ تَجْدِدُوَنَ لاَ تَجْدُمِنُ للمحت مِنْي حاصر مجهول بالوَنْ خَفِيض، لاَ تُجْدَأُنَ لاَ تُجْدَبُونَ بجت مِني غائب معروف بالون خينفد، لاَيَجُوُوَنَ لاَ يَجُرُوُنَ لاَ تَجُرُوَنَ لاَ أَجْرُونَ لاَ نَجْرُونَ مُحِينَ مِن عالم مجبول أون **تأ**ير عنوز لايجراً فَا لَا يُجْدَا مُنْ لَا تَجُوراً نَ لَا الْجُرَانَ لَا نُعْدَانَ لَمُحَدِثَنَ مُحِدِثَ أَسْعِم فاعل، جَدِيَ جَدِيّان جَدِيَّة تَجَدِيَّة تَجَدِيّان جَرْيَاتٌ مجمت إمسيم مفعول ، مَجْرُوَ مَجْرُدَانٍ مَجْرِدُونَ مَجْرُدُونَ مَجْرُدَة مَجْرُدَة مَانٍ مَجْرُدَاتٌ -صرف صغير فعل ثلاثي مزيد فيرم بموز اللَّام بالتخفيف بتحوارًا ازباب إفْرِيحالَ تَحول لاختيام. چھینا، چھیا ا۔ علامة المسس باب کی یہ ہے کہ امس کی ماصلی میں بال کا حرف ہوتے ہیں، تین اصلی ، دوزائد یعنی متروع میں ہمزہ وصلی اور میں رک جب کہ تآر۔ إِخْتِباً يَعْبَى اخْتِبَادٌ، فَهُوْمُعْبَى ذَاخَتِي يُفْتَبَهُ اخْتِبَا أَنْعَتِبَا أَعْتَبَا مُعْتَب لَرْ يُحْتَبًا، لَا يَعْتَبَى لاَ يُعْتَبًا، لَنْ يَحْيَى لَنْ يَعْتَبَهُ لَيُحْتَبِينَ لَيُحْتَبَأَنَ لَيختبين ليحتبان الدَمرُ مِنْهُ إخْتَبَ لِتُعْتَبَ المَحْتَبَى لِيُحْتَبَاء احْتَبِينَ لِتُحْتَبَأَنَ ، لِيحْنَبِينَ لِيُحْتَبَا أَنَّ الْحُتَبِينَ لِتُحْتَبَانَ مَلِيحُتَبِينَ لِيحْتَبَانَ الظَي عَنْهُ ، لا تَحْبَنَى لا تُحْتَبًا الاَ يَخْبَى لِا بُغْتَبَا الاَتَغْتَبِينَ لاَتَقْتَبِكَنَ الاَيَضْبِينَ لَا يُختَبَأَنَ الاَتَعْتَبِينَ لَا يُحْتِبَانَتْ القَلْ فُ مِنْهِ ، مِنْعَتَّبَا مُعْنَيَا فِي مَخِتَبَا - الله، ف منه، منعب ف معبب ف معبب ف معبب ف معبب ف معبب ف معدم من المار في من معال مع من الماري مع مع مع مع مع رف صغير فعل لما في مزيد قبير مهموز اللام بالتخفيف از باب المسترفعال محرك الاستيق اع ، مذاق کرنا۔ عَلامتہ ایسی باب کی بہ ہے کہ ایسس کی ماضی میں چھی خرف ہوئے ہیں ى · تىن لائد يعينى تروع يى تېمزە دومرى مكرسين ، تيسرى جگه تار . إسْتَهْزَاً يَسْتَبْذِي اسْتِبْهُوَاءً ، فَهُوَ مُسْتَبْذِئُ وَاسْتَقْدُنِ يُسْتَهُزَ أَسْتِهْزًا مُ منتَهُوا أَ مااسْتَهْزَاً السَبِعُوا أَسْتَهُوا أَسْت إسْتَفْخِرِي ، لَعَرَيْسَتَهْذِعْ لَعُرْيَسْتَهْذَا ، لايسْتَهْدِى لايستَهْزَا ، لَنُ يَسْتَهْذِى لَنُ كَيْسَتَهْذَا ، لَيَسْتَعْذِي أَنْ يَسْتَهُذِي لَنُ كَيْسَتَهْذَا ، لَيَسْتَعْذَا ، لايستَقْبَرِينَ لَيُسْتَقَوْتَنُ ٱلْدَمُومِينُهُ، إِسْتَقَوْرَى لِيسْتَقَوْرًا إِلِيسْتَقَوْرَ فِيسْتَقَوْرَيْ السَّنَة وَيَنْ لِلسُنَقُوَا أَنْ الِيسَتَقُوْتِنُ لِيسُتَعَوَا أَنْ وَاللَّحْسَعَتُهُ ، لَاتَسْنَقُوْ يُ لَاتُسْتَقُوْ أَنْ الإَسْتَقُوْ يَنْ لِيسْتَقُوْ يَنْ لِيسْتَقُوْ يَ لَا يُسْتَقُوْ أَنْ بَسْتَهُزِينَ لَايُسْتَعُوْ أَنَّ لَا تَسْتَهُوْ يَنْ لَانْسْتَهُوْ أَنْ الْايَسْتَهُوْ مَنْ لَايُسْتَهُوْ أَنْ صرف مغير فعن كلافي مزيد فيرمهم وزاللام بالتخفيف تجازًا الرباب إنْفِعَالَ عُول الإنكام ،

يليط جاما - علامة أمس باب كى يرب كد أمسكى ماصى مي ياضى ترون بويقي يت اسب بي، ديوزائد-يع بي متروع بين تمزه وصلى اور دومري جليديون -إِنْكُفَا يَتَكَفِعُ الْكِفَاةِ، فَهُوَمُلْكَغِ . وَا نَكْفِنَ يُنْكَنَا الْحِظَامَ ، فَذَاتَ مُنْكَفا مَا الْكُفا مَا الْكُفِي لَوُ يَتْكَوْمِ لَعُرْيَتْكُفًا ، لاَيَنْكَوْمُ لاَ يُنْكَفَأُ ، لَنْ يُتَكَفَقُ لَنْ يُسْكَفَأَ ، لَيَسْكَفَأَتَ ، لَيَسْكَفَأَتَ ، لَيَسْكَفَأَتَ الْعُرْبِيَهُ إِنْكَبَى لِتُنْكَفَا ، لِيَنْكَفِى لِيُنْكَفَا، إِنْكَنِينَ لِتَنْكَفَأَتَ ، لِيَنْكَوْنِينَ لِيُنْكَفَأَنَ ، إِنْكَوْيَنُ لِتُنْكَفَأَنْ ، لِيَنْكُونِينَ لِيُحْكَفَانُ وَالتَّحْمَعَنُهُ، لَا تَسْكَفِي لا تُتْكَفَا، لا يَنْكَفِنُ لا يُتَكَفِينَ لا تَشْكَفِينَ لا تُسْكَفِينَ لا يُسْكَفَانَ وَالتَحْمُ لا تَنْكَنِينَ لا مُنْكَفَانَ ، * يَسْكَفِينَ لَا يُنْكَفَأَنُ ٱلظَّرْبِ مِنْهُ ، مُتْكَذا مُسْكَفَا ف منكفات -مغير فعل تلافي مزيد شرم بمؤاللام بالتخفيف جوازا ازباب وقاعل حول ألاة ارودايك مروم مكانا - علامة أس باب كى يرب كداسى مامنى مي يقررف جوت من يت مكن بالمنتز المربعين شرع مين تمزه وصلى ورفار كلمه محرر مشرّد اوراسيخ بعدالف -إِذَارَ آَ يَذَارَ أَ إِذَارِوْا ، فَهُوَمُذَارِي حَادَة وَبِي يُذَارَ أَ إِذَارَوْا ، فَذَا لِتَ مُتَ ارَجُ ، مَا أَذَارَ مَا أَدُورِي كُرْيَدُهُ لَدْ يَتْدَادَهُ لَدُيَدًادَهُ لَا يَدًادَهُ لَنْ يُدَادَهُ لَنْ يُحَدَّارَهُ لَيَدًادَهُ لَيُدًادَهُ لَيُدادَهُ لَيُعَادَهُ لَا مُوْمِنِهُ إِذَارَا لِتُدَارَا بِيدَارًا وإِذَابَهُ فَا لِتُدَامَةً فَا بَعَدَامَةً فَا لِيكَارَةً فَا إِنَّهُ المَدَامَة فَ لِيكَامَةً فَا لِيكَ لِيسَحَابَ أَنْ وَالْنَعْضِعَنُهُ، لَاتَذَابَ لَافُذَارَا، لَا يَدَابَ الْأَيُدَابَ إِذَنَذَابَ أَنَّ لَا تُذَابَ أَنَّ لَا يُدَابَ أَنَّ لَا يُد لَا تَذَا مَهَانُ لَا تُدًا مَهُ أَنْ الْابَدَا مَهُ أَنْ لَايُدًا مَا أَنْ أَلَظْنِ تُعِنَّهُ ، مُذَا مَ أُ مُذَا مَ مَا مُعَامَ مَدًا مَ وَالتَّج رف صغير معان ملاق مزيد في موزالًا م التخفيف تجارًا از باب إفعال مجول لا نبياً مح ردینا۔ علامتدائیس باب کی ہوئی کہ ایک کی ماضی ہی تکار حسب دف تو تے ہیں -نی *نثر*و ط میں ہمت الكل زائر-يع نَبْبِي حَدَا نَبْبَى يُنْبَأُ إِنْبَادْ ، فَذَالِتَ مُنْبَأً مُنَا نُبُهُ مَا أُنْبُى ، كَدُيُنِّي كَدُينَبْ لى مَنْ يَعْبَدُهُ . لِينْهُدَى كَنْبُدُكُ فَالْبَعْبَانُ لِينْبَانُ الْأَسْرِينُهُ ، أَ نَبْتِي لِتَنْبَاء لِينَبَى لِينْبَاء ٱ نِبْلَجْتَ اَنَّ ، لِينْبَيَنَ لِينْبَاكَ، ٢ نَوْيَنَ لِتُنْبَكُ، لِينَبَينَ لِينْبَكَ، وَالتَّحْصَيْدَهُ ، لاتُبَى لاتُنتَا ، لَدَيْبَى لَاتَيْبَ بَيِنَ لاَ مَذَبَبَ يَجْهِ اللهُ يَعْدِينَ لا يَنْبَ أَنَّ الاسْبَعَةِ فَيْ لاَ تَنْبَعَ فَي لاَ يُنْبِ أَنَّ الظُوفَ مِنْهُ ، مَنْبَ أَمَنْنَا فِ رف مند فع لَكُلْ في مزيد فبرجه نواللَّام التَّحْفَيف جَوَازًا از بالتَّغِيلَ مُولَكَتْخُطِيَّةٍ أَ خطاً في طرقت منسوب كرا علامة إسس باب كى يد ب كراس كى ماصى يستخار حرف

ہوتے ہی تین کی ، ایک زائد۔ بعب بی عیّن کل مکرَّر مُتُ تَدَد خَطّاً يُخَطِّي تَخْطِيبَةً ، فَهُوَ مُخَطِّي وَخُطِّي يُخَطّا تَخْطِيهَةً ، فَذَالتَ مُخَطّاتُ مَاخَطا مَاخُطي ، لَوُ يُخَطِّ لَهُ يُخطَا، لاَ يُخطِّي لاَ يُخطأ ، لَنْ يَخطِّي لَنْ يَخطأ ، لَيُخطِّلُ لَي فَظِّلُ لَي فَظَّا كَا يُخطأ ن الأمرمينية : خطوه فَطَاءلِ حَظِيرٌ لِبُحَظٍ ، خَطَينٌ لِتُخطَّأُنَّ ، لِيُخَطِّينَ لِبُحُظَّانَ ، خَطِّينٌ لِتُحَطَّآنَ ، لِيكولينَ لِيخُطَّآنُ وَالنَّغُ عَنُهُ لاَ تُخَطِّئ لاَ يُحَطّا، لاَ يُحَطّا، لاَ يُحَطِّلينَ لاَ تُحَطَّأَنَ لاَ يُحَطِّينَ لاَ يُحَطِّينَ لا يُحطّان ، لاَ ، مُخَطَّاً مُجَطَّانٍ مُخَطَّاتٌ -بحطيمة لأبخطأت ألفل ممذ رَف صغير فعل مُلاً في مزيد فيريم وزاللَّام بِالنَّخْفِيف جُوارًا إزباب هُفَاعلَه مُحول الْعُرْفَاجَا فَي اجابک قراقع ہونا علامتر س باب کی یہ ہے کہ اس کی ماصی میں خارج سے ب ہوتے ہیں- تین اصلی ، ایک زائد لیس نی فار کمہ کے بعد العب كَامَةُ يُعَاجِ مُنَاجًا بَنَّ، فَهُوَ مُفَاحٍ - وَفُوْتِنْ يُفَاجا مُغَاجاً لاَ، فَذَالْ مُنَاجًا مَا فَاجا ما فُوج، لو يُفَاج لَمَرْ يُفَاجَاً، لاَيْفَاجِي كَنْدِيْفَاجَاً، لَنْ يَفَاجَى لَنْ يَعَاجَةَ، لَيفَاجِينَ لَبُعَاجَةَنَ ظَيفاجاً، لِتُعَاجَا إِبْنَاءٍ إِبْعَاجًا، فَاجِبَنَّ لِتُعَاجَآَنَ ، لِيُعَاجِيَنَّ لِبُغَاجَآَنَ ، فَاجِيَنُ لِتَفَاجَآَنَ إِبْعَاجًاً نَ وَالنَّفَى مُنْكُم لاتُنَاجِ لَانْتَاجا، لَا يُفَاجِي لَا يُفَاجًا، لَا تُفَاجِيَنَ لَا تُفَاجَانَ ، لَا يُفَاجِينَ لَو يُفَاجاً نَ م لاتُفَاجِينَ لَا تُفَاجاً ، لَا يُفَاجين لايطاحان الظرف ونه ، مَنَوَجا مُعَاجَاتٍ مفاجاتٍ -ف صغير معل تلأثي مزيد فيرم بموز اللام التخفيف فأزار بالفِقل جو التَّبر وم ، بزار بدا علامة السس باب كى يد ب كد السس كى ماضى مي يا ي حرف بوت مي - يين ی ، دُوْ زامَر- یعنی مُتْروع میں تارادر عین کلمہ مُکرَّر مُسِي^ف رُد۔ تَبَعَرَّ إِيتَبَقَ أَسَبَرُوًا ، فَهُوَ مُتَعَبِّقٍ - وَ شُبَرَى يُتَبَرَّ أُسَبَرُوًا ، خَذَاكَ مُتَبَرَّهُ مَا تَبَرَّ أَمَا تُعَرِّى ، لَوُتَنَبَّر كَمْ يُتَبَرَّا، لَا يَتَبَرَّلُ كَلَا يُتَبَرَّكُ لَنْ يَتَبَرَّكُ لَنْ يُتَبَرَّكَ ، لَيَتَبَرَّكَ ، لَيَت لِتُسَبَرًا بِيسَبَبَرًا مِسَبَرًا مَبَرًا ثَنَ لِسُعَبَرًا ثَنَ لِيسَبَرًا ثَنَ لِيسَبَرًا ثُنَ لِسُتنبَرًا ثُ وَالنَّفْصِعَنْهُ، لَاتَتَبَرَّا لَاتُنْتَبَرَّا، لَايَتَبَرًّا لَا يُتَبَرًّا مَا تَشَبَرُ آَنَ لَا مُتَبَرًّا ثَنَ اللَّهُ مُعَنَّدُ اللَّهُ مُعَنَّدُهُ اللَّهُ مُعَنَّدُهُ اللَّهُ مُعَالًا أَنَّ اللَّهُ مُعَالًا أَن لا تُحَكِرَ أَنْ الاَبْتَكَرَ أَنْ لَا يُحَكَرُ أَنْ الْقُدُفِ مِنْهُ بِهُتَكَرّ أُمْتَكَرّ مَا فَتَكَر صرف صغير فعل كلَّ في مزيد في مجموز اللَّام بالتخفيف جَوَازًا إذ باب ثَفًا عُلُ حِن التَّهَا لَتُوْ ، نع ہونا ۔ علامة ایس باب کی ہو ہے کدایس کی ماضی میں پاری حرف ہوتے ہیں۔ لمسلى ، دلوزا ند- يعسنى تمثر وغ من تار اور فاركم مح بعد العبت -كوًا، غَهُوَ مُتَمَا لِحْظُ ، وَ تَمُولِيَ بِشَبَالَةُ حَمَّالُوْا. خَذَاكَ مُتَمَالَاً مِنْ مَا تَمُولِيَ ، لَو

لَدُسْتَمَالَا ، لَاسْتَمَالَةُ لَايُبْنَالَاً، لَنْ يَتَمَالَاً لَنْ يُتَمَالاً ، لَيَسْمَالاً فَا كَيُسَمالاً فَ الْمُعْمِنَهُ : ثَمَا لَا لِتُسَمَّكُ لاَ بِلِيَسَمَالُا لِيُحَسَالُا، تَسَالَا ثَنَّ لِيُسْتَمَالاً ثَنَّ لِيُسْتَمَالاً ثَنْ التَّسَمَ لاَسْتَبْلَلا لاَسْتَبْلَلا، لاَيَتْبَالاَ لاُيْتَمَالاَ ، لاَسْتَبَالَاْنَ لَاسْتَبَالاَنَ ، لاَيْتَبَالاَنَ لا لَا يُتَمَالَانَ الْظَرْفَ مِنْهُ : مُتَمَالاً مُتَمَالاً مُتَمَالاً مُ بَوِي : مصيفه دامد خركر نائب يجت إثبانت فعل إحني معروف وأحكل بي بَوِيَّ برُوْدَنِ سَبِيحَ تَفَا المِك بِمرد مفتوح ، ما تبل كورتما توبر قاعدة محتر بمز مدر يتو معدل ديديدي بُنْ نُوَيَهُم وكذا تُوى بمبو وحو والما ين أصل يب - وكذا قُودُدا - بموتى صيغه واحد ندكتر بمت مصف يرمش بتد - اعش بي بويني طري بروزن متبية لمختا - ايك مجزه واقع تجدا، بعديات كمة و زائده مح - توبَر قاطرًا تحسط من مرب كو ماقبل كى جنس ينى يار سے برل كر يارك يكوس ادغا كرديا - بَوِيَّ فَرْزَنِ فِي جَوْ اللَّهِ المَسْجُو قُو أَمَه مِيغَد داعد فرد بحث أنم لعولَ مَكْثِنِ مُعْرَدُةُ بَرُزْنَ مُحْدَثُ عَلَيهِمزه طاقع همزا بعيد واؤمره لا مُراسكه . توبّه قاعدة مُقُومةُ ، جزءكو ما قبل كيجنس بعني داؤ سے بدلكا واذكا داديرا مخاكر بالمتجود فن بفتو بركيا تصبار من صبعه جمع مذكرة تحسر بحث أيم الدكبرى - أصَّل مِن مَبَّا دِنْبِي بَرْزُنْ مُسَارِ مِنْعُ مَعَا وش بوي مح تخفيف بوكى - وكذا مقارى مح تر من المستقل معد واحد وتر مصغر بحث أيم الدكرى - أصل من مبتد ي برندين مُعَدِّيتَه مع معا- بجزه داقع مواجد يآت مددار و مح - توب قاعدة خطيفة محره كوما قبل كى جنس ين يآم سه بركز يادكا ياري ادغام كريد مريخ يكر في محميني بوكي " محميل الحسيني - صيفه واحد مونت - بحث الم تعفيل · أصل من مُؤخَّى مدَّرْنِ مُعْلَى تقاء ايك بمزه مُخرك البل ساكن، قابل تركد تما توب قاعدة يُسَلُّ بمز الحكيمَ كمَ تَركد فاقبل كادير مبر كوكرا ديا - بولى بركزن فنى بوكيا دلزاً كما تكوي وسنددا حد كونت معمَّ بحت اسم تفصيل- أصل من مجتوعينى برولان مستيعى تعا - بمزه واقع بها بعس باست تصغير ك - نوب قاعدة أخبس ممز سكر اقبل ك جن، بين يآري برل كر، يأركما يآرير ا دعت ام كرديا - من حيث بروُزن تفخت بوككيس وكذا مقيري محرف واحد مذكر غائب المباحث اتمات فلامن معردت واض يرجوز بزران كوم عا ايك بمزه مفتوح ، ما قبل مضموم مما توبقاعدة شوَّ ال بمزدكو ما تبل كى حركة كمع موافق حرفة يتسبعني أوست بَعلديا بحوكة فرَّزْن نُعُرَكُم المحتر مىغرى خرَّفاتب-بحشرات تعل مى ودين مكْريبه وَكَذَا فَرِقُارٍ يَجْعُوكَ إِنَّ - مَدِدْ تَنْدِيدُ كَرَفائب - بحث إثبات لحاتمه أَم معرف -- أَصْلَ بِم يَجْرُمَة إن برُوْزِن يَكُوْمَانٍ تقليمة مَا عدة مُتَوَال تخفيف بدئ يَجْرُ فَدُوْن ، حيذ مع بذراع براغاب يحت إثات فل مُعارم معروف اين المل يسب لمن يتجوكو ، - س من جود ك - ادركتر يجود ، اجرد مي بقاعده بوس تخفف ہوگی۔

[مثال وادى] للفارمثال دادى ازباب دوم قعلَ يَغْجِلُ أَلُوعُدُ وَالْعِدَةُ : _ده کرنا- علامة ام س باب کی یہ سب کہ ایسس کی ماصی بیرے بارع میں مکنور ہوتا ر مفتوح ادر مضر دَعَدَ يَعِدُ وَعُدَّاوَهُوَةٍ *، فَهُوَ وَإِيلَ دَوُعِهُ لَوْعَدُ وَعُدًا قُطِدَةٍ ، فَذَالتَ مَؤْمَوْ يَح مَا وَعَدَ مَا وُعِدَ ، فَهُوَ وَإِيلًا بَوَ لَا يَعِدُ لَا يُوْعَدُ ، لَنْ يَتَعِدَ لَنْ يَجْ عَدَ ، لَيَعِدَةً لَيُوْعَدَنَ ، لَيَعِدَهُ كَيُوْعَدَنْ أَلْا مُرمينَهُ ، عِدَ لِتُوْعَدُ ، لِيَعِدْ لِيُوْعَدُ ، مِدَ لِتُوْعَدُ تَ لِيَعِدَنَّ لِيُوْعَدَنَّ ، عِدَنْ لِنُوْعَدَنْ بِيَعِدَنْ لِيُوْعَدَنْ وَالنَّحْصَعَنْهُ ، لَاتَعِدُ لَا تُؤْعَدَ، لَايَعِدْ لَا يُوْعَدَنْ لِيُوْعَدَنَّ لَيُوْعَدَنَّ وَالنَّحْصَعَنْهُ ، لَا يَعِدُ لَا تُوْعَدَ، لَا يَعِدْ لَا يُوْعَدَنَّ لِلْعَانِينَ لاَ يَعِدِنَّ لَا يُوْعَدَنَّ الْاتَعِدَةُ لاَ تُوْعَدَنْ الاَ يُعِدَّنْ لاَ يُوْعَدَنْ ٱلفَّرْحُ مِنْهُ : مَوْعِد كموْعِدَانٍ مَوَاعِدُ وَمُوَ يُعِدُّ كَالْأَيْرَمِنْهُ : مِيْعَدُ مِيْعَدَانِ مَوَاعِدُ وَمُوَلِيدٍ مَيْعَدَة مَيْعَدَة مَان مَوَاعِدُ وَمُوَنِعِدة مُعْمِيْعَاد مِيْعَدان مَوَاعِد ومُوَنْعِيد ومُوَنْعِيد وَمُوَنْعِيد وَمُوَنْعِيد التَّفْنِيلِ الْمُذَكَرْمِنْهُ ،) وْعَدُ) وْعَدَانٍ) وْعَدُوْنَ) وَاعِدُ وَأَوْ يَحِدُ كَوَ الْمُؤَنَّ ثُنُ مِنْهُ ، وُعَدْ كَانٍ وُعَدَيَاتُ وُعَدَيَاتُ وَعَدَدُ مرن ڪير ورغيدي. بحث إثبات فعل ماصى معروف: وَعَدَوَعَدَا وَعَدَوْ وَعَدَتْ وَعَدَ مَا وَعَدْ نَ وَعَدْ نَ وَعَدْ نَ وَعَد وَعَدَ تُعَمَّدُ وَعَدَ تَعَنَّ وَعَدَ تَ وَعَدَنًا مجت المجت المحاص فعل ماصى مجهول: وُعِدَ دُعِدًا وُعِدُ ذَا دُعِدَ تَا دُعِدْ تَا دُعِدْ تَ دُمِدْتَ وُمِدْتَما دُمود تُحدد مود تِد دَمود تَما وُمود تَنَ دُمود مَن دُمود مَا سَجت نَعْ مع ما من مروف: مماد عد ماد مداد مد مَا وَعَدُوا مَا وَعَدَقَ مَا وَعَدَيَّا مَا وَعَدْ نَ مَا وَحَدْ تَسْكَما وَعَدْ تَحْدُ مَا وَعَدْ تُسكَما وَعَد مادَ عَدْنَا سِحت لَفَى فعل ماضى مجهول: مَا دُعِدَ مَا دُعِدَ مَا دُعِدَ المَا دُعِدَ تَا مَا دُعِدَ مَا دُعِد مَا دُعِدْ تَمَرْ مَا دُعِدْ تِي مَا دُعِدْ تَمَا مَا دُعِدْ شَنْ مَا دُعِدْ تُ مَا دُعِدْ نَا مِح**ت إِثَّبات فِعل مُعَار رَّ مُعَرُونَ بِ** يَعِدُ يَعِدَانِ يَعِدُونَ تَعِدُ تَعِدَانِ يَعِدُ نَ تَعِدُ تَعِدَانِ تَعِدُونَ تَعِدِيْنَ تَعِدَانِ تَعِدَنَ اعِدُنَعِدُ بحث *إ*ثبات فعل مجرول ، يَوْعَدُيْوَعَدُان يُوْعَدُوْنَ تُوْعَدُ لَوْعَدَانٍ يُوْعَدَى تَوْعَدُونَ تُوْعَدُوْنَ تُوْعَدُون تُوْعَدُن أَدْحَهُ دُوْحَدُ بِح**َثْنَعْ فَعَلْ مُضارِع معروف :** لَا يَعِدُ لَا يَعِدُ إِن لَا يَعِدُ وَنَ لَا تَعِدُ لَا تَعِدُ لَا تَعِدُ لَا تَعِدُ لَا تَعَدَّوْنَ لَاتَعِدِ بْنَ لَا تَعِدَانِ لَا تَعِدْنَ لَأَاعِدُ لَا نَعِدُ بح**ت نَتَى فَعلَّ مُضارح مجهول:** لَايُو عَدُ لا يُوعَدَانِ لا يُوْعَدُونَ كَرْمُوْعَدُ كَرْتُوْعَدَانِ لَا يُوْعَدْنَ لَاتُوْعَدُ لَا تُوْعَدُوْنَ لَاتُوْعَدُوْنَ لَا تُوْعَدَيْنَ لَا يُ . الخ ا

كَنْدْعَدْ بحت منى حاصرمعروف بالون تاكيرتقيسلم ، لا تعددة لا تعدداً لا تعددة لا تعددة لا تعدة لا تعدة الذي التعدة بحت بنى حاضر مجهول بانون ما يجد تعتيسله: لَا تَوْعَدَنَ لَا تُوْعَدَانِ لَا تُوْعَدُنَ لَا تُوْعَدَ اللَّهُ عَنَكَنَ بحث بنى غائب معَروف بالون تاك رتقيل، تَدَيِّدَنَّ لا يَعِدَانَ لا يَعِدُنَّ لا يَعِدُنَّ لا تَعِدَنَ لا تَعَدّ لاَ أَعِدَنَ لَا نَعِدَنَ مجت بنى عامب مجهول بالون الحي القيلم: لَا يُوْعَدَنَ لَا يُوْعَدَانِ لَا يُوْعَدَنَ لَا تُوْعَدَتَ لَا تُوْتِنُدَانِ لَا يُوْعَدُنَانِ لَا أُدْعَدَنَ لَا نُوْعَدَةَ بَجِتْ مَبْى حَاضِر معروف بانون ما كميت فطيف، لاتغيدت لاَ تَعِدُنُ لاَ تَعِدِنْ مجمع من من جا صر مجهول بانون ما كي رضيف، كَانتُوْعَدَنْ لاَ تُوْعَدُنْ لاَ تُوْعَدِنْ مجعت من عائب معروف بالون ما يجد خفيفر ؟ لَا يَعِدَنْ لَا يَعِدُنْ لَا تَعِدُنْ لَا تَعِدَنْ لَا أَعِدَنْ لَا نَعِدَنْ م بالون تاكيد خَضْبِطْر: لَا يُوْعَدَنْ لَا يُوْعَدُنْ لَا تُوْعَدَنْ لَأَ أَوْعَدَنْ لَا نُوْعَدَنْ مَحت المسم فاعل: واعد واعد واعد دَاعِدُوْنَ مَاعِدَةٌ دَاعِدَتَانِ دَاعِدَاتٌ بِحِ**تْ أُسْتِمِ مُفْعُولٍ:** مَوْعُوْدُ مَدْعُوْدَانِ مَوْعُوْدُوْنَ مَوْعُسُوْ دَنَّ مَوْعُوْ دَيَّان مَوْعُوْ دَاتَ مدَّعَدُدَات . صرف غيرض مُلاتي تجرد معن الفار مثال اوي ازباب وم فعل يُقْدَلُ حُول لَوَجُل، دُرِنا-علامتد إمس باب كى بيهة كدام مح ملى بين علي كم يحسوراً ورشصار على مفتوت ترقوا سب -وَجِلَ يَوْجَلُ وَجُلًا ، فَهُوَ وَإِجِلُ رَوَوْجِلُ يَوْجَلُ وَحْبَلًا، فَذَالَتَ مَوْجُوْلُ مَا وَجِلَ ، لَهُ يَوْجَلُ لَدُ يُوْجَلُ ، لَا يَوْجَلُ اللهُ عَوْجَلُ اللهُ عَذَالَتَ مَوْجُولُ مَدْ عَدَيْ عَالَ لَا يُوْجَلُ ، لَنْ يَوْجَلَ لَنْ يُوْجَلَ، لَيَوْجَلَنَ لَيُوْجَلَنَ ، لَيَوْجَلَ لَيُوْجَلَ لِيُوْجَلُ إِنجَلَ لِتُوسَجَلَنَ ، لِيَوْجَلَنَ لِيُوْجَلَنَ ، إِيْجَلَنْ لِيَوْجَلَنْ ، لِيَوْجَلَنْ لِيُومِجَلَ دَلْتَحْ عَنِهُ ، لاَ تَوْجَلْ لا يُوْجَلْ لا يُوْجَلْ، لا تَوْجَلَنَ لَا تُوْتَجَلَنَ ، لا يَوْجَلَنَ ، لا تَوْجَلَنَ ، لا تَوْجَلَنُ ، لا يَوْجَلَنُ لا يُوْجَلُ النَّلْ َ دَمُوَ يَجِلَ كَالْالَةُ مِنْهُ : مِيْجَلُ مِيْجَلَانِ مَوَاجِلُ وَمُوَيْجِلُ مِيْجَلَةً مِيْجَلَتَانِ مَوَاجلُ وَمُوَيْجِلَةً مِيْجَالَاتِ مَوَاجِيْلُ وَمُوَيَجِيلٌ وَانْعَلُ التَّفْضِيل المُدَ حَدَمِنَه، أوْجَلُ ادْجَلَان ا وَجَلُون ا وَاجِلُ وَأُو يُعِلُ كَالمُحَوَنَتُ مِنْه، وُجُل وحبليان وجبليك وجل وجيل عاملة مراجك منهري مريزي مربع بساسة مرماه اوراسما اركصيو كالاي تقلعة متزان تعليل كى نیز ماصنی مجهول اوراسمِ تغضیل تونّت میں حسب سابق قاعدہ اُبعدُ تبھی جاری پر سکتا ہے ۔ یہی دستورآ مُذَّ کُذانوں میں مجی جاری ہوگا فأشدته ، يَوْجَلُ دِغِيرِه مِرون حصيفوں مِن يَاجَلُ ، يَنْجَلُ الايشَجَلُ يَرْمِنا بِمِي مِأْزِيهِ ـ صرف صغير خل ثلاثي تجرو متعمَّل الفار مثال واوى ازباب جهارم فعُلَ يَفْعَلُ حَوْلَ لُوَضَعُ، ركمنا-علامتين إس بأب في توبي أيك بدكه إسسى ماصى اور مضارع بي على كلم مستوح تبو ماسب ادردد سری به که عین کلمه یالام کلمه حسب رونی خسب لغی جو گل حَصَعَ يَصَعُ وَصُعًا، لَهُوَ وَاحِنعٌ _ وَدُحِنعَ بِوُصَعٌ وَصُعًا، فَذَاكَ مَوْصُوعٌ خُرِ مَادَحَتُعُ مَادُحِنعَ، لَهُ يَطَعُ لَوُيُوْطُعُ ، لَا يَعْبُعُ

یصغ ، میند داعد ندکر غائب بحث انبات فعل مضارع معروف امتسل می یوضع بروزن یغنیج مقا- داؤ علامتر تصا^{مع} مفتوحه ادرسنتی کے درمیان اُس کلہ میں داقتے ہواجس کالام کلیز ف صلقی تقا- توثیقتل فار کے قاعدہ ملہ کے ساتھ داڈ کو گرادیا یکٹ بوزن یکل ہوگیا بہی تعلیل اس بابیح اکثر صینو ن یک کی باتی تصریف کی باب وَ عدّ یُعدُ کی طرح ہوں گی۔ مہد وصد فدار کی فرض مرتب مرتبہ میں دائر میں اور اور اور اور اور اور اور میں کا دار میں کا دار کر کرادیا۔

صرف صغیر نوبل خلاقی مجروم مُنت کے لافا َ رمثال داوی آز باً ب خیب مدفع کی نیفت کے کول کو ساعتُہ ہ حسبین ہونا ۔ علامتہ اِس باب کی ہیہ ہے کہ اِ^{س ک}ی ماضی اور مصل کا ہیں میں کم مصنوم ہونا ہے ۔ یہ دو وزیر ہے تر مرب دیکی ہوتے یہ مہر یہ وزیر بیٹر کہ مان کا در مرب کا در اور کر مسلم کا بیٹر میں کا کہ مسلموں

ۊؖۺۜۜۜڡۜۜؖۜۜڡڮۏؖۺڡؙۜۅڐٮٵمة، فَلَقُودَسِيْتُكُ وَوُسَعَدَيْ سَمَرَةَ سَامَةَ، حَذَاكَ مَوْسُقَ مَا وَسَمَنُ لَيُوْسَمَنُ لَكُوسَمَ لَا يُوْسَمَنُ لَيُوْسَمَنُ لَيُوْسَمَنُ لَيُوْسَمَنُ لَكُوسَمَنُ لَكُوسَمَنُ لَكُوسَمَنُ لَكُوسَمَنُ لَكُوسَمَنُ لَكُوسَمَ لَا يُوسَمَنُ لَيُوْسَمَنُ لَيُوسَمَنُ لَكُوسَمَنُ لَكُوسَمَنُ بَلَوُسَمَنُ لَيُوْسَمَنُ الْمُوْمِينَهُ ، المُوسُعُر لِتُوسَمُ لِيُوْسَمُ لِيُوْسَمَ الْ يَوْسَمَ لَنَ يَتُوسَمَ لَكَ يَوْسَمَ لَلَا يُوسَمَنَ لِيُوْسَمَنَ الْمُوسَمَنُ لَيُوْسَمَنُ لَيُوسَمَنُ لَيُوسَمَ لَكُوسَمَ لَكُوسَمَ لَكُوسَمَ لَكُوسَمَنَ لَيُوسَمَنَ الْمُوسَمَنُ لَا يَوْسَمَنُ لَا يُوْسَمَ لِيُوْسَمَ لَكُوسَمَ لَا يَوْسَمَنَ لِيُوْسَمَنَ الْمُوسَمَنُ لَا يُوْسَمَنُ لَا يَوْسَمَنُ لَ لِمُوسَمَنُ دَاللَّكُوسَمَنُ لَا يَوْسَمُ لِيُوسَمَ لَا يَوْسَمُ اللَّهُ وَسَمَرُ لَا يُوْسَمَنَ لَا يُوْسَمَنُ الْمُوسَمَنُ الْمُوسَمَنُ لَا يَوْسَمَنُ الْمُوسَمَنُ الْمُوسَمَنُ الْمُ يَعْسَمُ وَعُسَمَ لَا يَوْسَمَنُ لا يَوْسَمَ اللَّهُ مَوْلاً يُوسَمَ الْنَقُوسَمَ اللَّهُ مَعْتَى الْتَعْدِيسَمُ مَعْدَمُولُولَتِ اللَّهُ وَسَمَا اللَّعُوسَمَة اللَّهُ مَا يَعْوَسَمُ اللَّهُ مُعَنْ الْعُلَيْ لَكُوسَمَ اللَهُ وَلَمُ اللَهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُوسَمَة اللَهُ اللَّهُ الْمُوسَمَة اللَّهُ وَلَكُو مَعْسَمَةُ وَاللَّهُ مَعْدَالا لَعُوسَمَ الْعُوسَمَ اللَهُ الْمُوسَمَة اللَّهُ مَعْلَى اللَهُ الْمُولَ وَمُولِي الْمُولَا اللَّالِ اللَّهُ وَلَقُولا اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ وَلَمُ اللَهُ مُعْلَى اللَّا اللَّهُ اللَهُ الْمُولَة الْمُولَا اللَهُ اللَقُولُ الْعُولَة اللَهُ مُعْلَى اللَهُ الْمُولَة مَوْصَعْ وَعُمَا اللَّهُ وَلَعُولَ مَا فَى مُولالا اللَّهُ مُعْتَ اللَّهُ مُولالا الْمُولَا اللَّهُ الْمُولَنَهُ الْمُولَكُولُ الْمُ الْحُولَة الْمُولُولَة اللَ

وَبِهِ مَ يَدِمُ وَبُكًا، فَهُوَ وَالِمُرَ- وَقُبْمُ يُؤْدَمُ وَبُهًا، فَذَالتَ مَوْدَوْمٌ مَا وَرِمَ مَا وَيِ مَ الْمُرْيَرِمُ لَمُ يُوْدَمُ ، لاَ يُومُ لَا يُوْدَمُ ،

له بد قاعدة أيعد - أسيستولا أسبلي ولو ، أي مالتا شوى الوجعي يره سكة من المن منه

جاً تنب مي تعليل ماصى مجبول كم باتى مسفول مين بوك من تكب كم وصيغه واحد ذكر فائب بحث إثبات فعل تمضارت معرف ا امُل من يَوْعِدُ بروَنْنِ يَصْبوب تعا - واذَعامة مُضارم مفتوح اوركسروك درسان دانع بُوا -تومُتش فا، ك تاعده مط کے ساتھ داؤ کوکرادیا - يَدِدُ بردُرْنِ يَعِل مَبوك - يہى تعليب مُغارع معروف کے باتی صيفوں يں ہوگ تي و عسر ا صيغه ماحد زكرغائب بجت لإثبات فعل تمضارن مجبول سبسب تعييل دوربو ملسف كيومبست وآذ داليس أكميا وإسى طرح تمغاز وعیرہ کے جہول کے تمام صیفے اپنی اصل نے ہیں 🛛 بینات ، ۔ صیغہ داحد ند کر حاضر بحث امرحاصر معرد ف ۔ فَعَبِدُ سے بنایا گیا إمس طرح كه ما علامة مُطارع كودود كمسك ، أخرك ساكن كرديا - يعا بروزُن عِلْ بوكا بمي عيد من مستقل المرجح بمت المراكد منعرى المن مو عد بروزن مصدوب تعا - والاسكن عير مرغم كسرو مح بعدوات بوار و مقاعدة موتوان قاد كواس بدل دیا ۔ مِنعَدَةُ بروَدُنِ مِنيحَلٌ بروَيا - يرى تعليل الد ك باتى صيور من بوك و عدا ى د ميغ دا مدردنت . بحث اسب تغضیل- داؤمعنوم کو کم کے شرقت میں داقع بدنے کیوج کے مُنت ک فار کے قاعدہ من کے ساتھ ہمزہ سے بدل کا علی بر مناجم جا نز ب سب سبی تعلیل اسم تفضیل مونث کے باتی صیوں میں ہوگی -مُعْسَبَكَ الْفُسَاءُ دمِشْال يَكْ صرف صغير نعل ثلاثي تجسب ترد معسب للمستر ومعاليا في ازباب في مفتل يفتح ل يتجوب ألمستر مراسان فناعلا متراس باب كي يتب كاسى مامنى من من ترمغتون أدرمضائ من صوبواب -وَيَنْسِرُونُهُوا فَهُوَ يَاسِرُ وَيُسِوَكُوْسَرُيْسُرًا ، فَذَالتَ مَيْسُوُدُ مَا يُسَرِّمَا يُسِرُ، لَعَ يَيُسِوْ لَمُ يُؤْسَق، ذَيَيْسِرُلاً يُؤْسَرُ ، لَنْ يَيْسِرَ لَنْ يَوْسَرَ، لَيَسْبِرَنَّ لَيُؤْسَرَنَّ ، لَيَيْرِزِنْ لَيُؤْسَرَنْ ألْأَمُرُمِنُهُ: إيْسِرُلِيُّوْسَرُ، يَسْبِيهُ بِيُوْسَقٍ إِيْسِيرَةَ لِتُوْسَرَنَ بَلِيَنْسِوَنَ لِيُؤْسَرَنَ وإِيْسِرَنُ لِتُوْسَرَنُ ولِيكُسِونُ إيكوسَرَنُ وَالنَّحْ عَنْهُ: لَاتَبْسِي لَاتُوْسَرْ، لَا يَبْسِرُ لَايُوْسَرُ، لَاتَبْسِرَنَّ لَاتُوْسَرَنَّ ، لَا يَبْسِرَنَ لَا يُوْسَرَنَ فَنَيْسِوَنُ لَايُوْسَوَنُ الْظُوفُ مِنْهُ ، جَيْسِوَّانِ حَيَّاسِوُ وَعُيَيْسِنُ وَالْالَةُ مِنْهُ ، جِنْسَوُ مِيْسَوّانِ مَيّاًسِسُ دَمُيَيُسِيُ- مِيْسَوَةٌ مِيْسَرَتَانِ مَيَاسِرُ وَمُيَيُسِرَةٌ مِيْسَارٌ مِيْسَارًانِ مَيَّاسِيْنُ وَمُيَيُسِيْ فَانْعَلْ التَّفْضِيْلِ المُسَدَحِتَى مِنْهُ ، آيُسَوَايُسَوَانِ آيْسَرُوُنَ آيًا سِسَسَسَ وَأَيَيْسِرُ وَالْهُوَنَتُ مِنْهُ ، يُسْلى يُتَوَان مونكير يْسْرَيْتْ يْسَرّْ قْيْسْيْرْى-بحيث إثبات فعل مامنى معروف: يَسَوّ يَسَوّ يَسَوّنا يَسَوّنا يَسَوّت يَسَوّنا يَسَوّن يَسَوّ تَسَايَسَرْ سُرُ يَسَوْتِ بِسَرْتُمَا يَسَوَّمُ يَسَوَّى يَسَوْكَ تَجْمَعُ ابْهَا**تِ نَعَلِ مَاضَى جَهُولِ،** يُسِرَ يُسِطَ يُسِرُوُا يُسِدَ يُبِرَتَا يُرِدْنَ بُبِرْتَ يُبِرْنَكَا يُبِرْتَعُ يُبِرْتَعُ يُبِرْتِ يُبِرْتُنَا يُبِرْتُ يُبِرْتُ يُبِرْنَا مجت نفى فس النخام ف

مَايَسَوْمَايَسَوْاحَايَسَوُدُا مَايَسَوَتْ مَايَسَوْنَا مَايَسَوْنَ مَانَسَوْتَ مَا يُسَوْ تُعَا مَايَسَ تُعُ مَايَسَوْ ثُنَّ مَايَسَرُى مَايَسَرْنَا تَجَعَتْ نَفَى نُعل ماصى مجهول: مَايُسِوَ مَايُسِوَ مَايُسِوُوْا مَايُسِوَتْ مَايُسِوَة حَايُسِوْنَ حَايُسِوْتَ مَا يُسِوْتُهَا مَا يُسِوْ تُعْرَمَا يُسِوْتِ مَا يُسِوْتُمَا مَا يُسِوْتُنَ مَا يُسِوْتُ مَا يُسِوْنَا تَجَعَبْ ا تْبَات فعل مُضارع معروف، يَيُسِوُ يَيْسِوَانِ يَيْسِرُوْنَ تَيْسِوُ تَيْسِوَانِ يَيْسِوْنَ حَيْسِوُ تَبْسِوَابِ تَيْسِوُدْنَ تَبْسِيرِيْنَ تَيْسِوَانِ تَيْسِدْنَ اَيْسِدُ بَيْسِدُ تَجْتُ إِثْبَات فَعَلْ مُضارح مجبول، يُوْسَبُ يُوْسَرَانِ يُوْسَرُدُنَ تُوْسَرُ تُوْسَرَانِ يُوْسَرُنَ تُوْسَرُ تُوْسَرَانِ تُوْسَرُدْنَ تُوْسَرِدْنَ تُوْسَرَانِ تُوْسَرُدَ ا دستونو بسو بح**ث نفی نعل مُضارع معروف،** لَا يَيْسِوُ لَا يَبْسِوَإِنِ لَايَيْسِوُدَنَ لَا يَبْسِوُلَا تَيْسِوُا لَا يَنْسِرُنَ لَا تَيْسِرُ لَا تَبْسِرُانِ لَا تَيْسِرُوْنَ لَا تَبْسَيرِيْنَ لَا تَيْسِرُانِ لَا يَبْسِرُ لَا بَيْسِرُ بَحَثْ نَعْ فعل مُضارع جهول: لَا يُوْسَدُلَا يُوْسَرًانِ لَا يُوْسَرُوْنَ لَا تُوْسَرُ لَا تُوْسَرَانِ لَا يُوْسَرُنَ لَا يُوْسَرُوا لَاتُحْسَرُدْنَ لَاتُوْسَرِيْنَ لَاتُوْسَوَانِ لَانُوْسَوْنَ لَا أَدْسَرُ لَا نُوْسَرُ لَا مُوْسَرُ مُ كَنْ يَكْسَوَكَنُ يَيْسَرًا لَنْ يَيْسِرُوْالَنْ يَسْرَكُنْ تَلْسِرَا لَنْ يَيْسِرُنَ لَنْ تَيْسِرُوكَ تَيْسرو لَنْ تَنْسِرًا لَنْ تَنْسِوْنَ لَنْ اَ يُسِوَلَنْ تَبْسِرَ مِحت نَفَى الْحِدَكْنَ دِنْعِلْمُسْتَعْبِل مجهول، لَنْ يُؤْسَرَكَ تُوْتَد كَنْ يُتُوْسَوُدًا لَنْ تُوْسَوَلَنْ تُوْسَوَا لَنْ يُؤْسَوْنَ لَنْ تُوْسَرَ لَنْ تُوْسَوَا لَنْ تُوْسَوَدَا لَن لَنْ تُوْسَوْنَ لَنْ أَوْسَوَلَنْ نُوْسَرَ بِحَتْ نَعْى حَبْ كَمْ وَنُعْلَمْ سَتَبْلَ محروف: لَمَرْ بَيْسِوْلَمْ يَشِيرًا كَمُرْمَتُسَوْدًا لَمُرْتَيْسِوْلُمُ يَيْسِوًا لَمْ يَيْسِوْنَ كَمُ تَيْسِوُ لَمُ تَيْسِوَا لَمُ تَيْسوُوا لَمُ تَيْسوى لَمُرْتَيْسودَا لَدْ أَيْسِوْ لَمُرْ بَلِيسُوْ تَجْتُ نَفْي حَصَّدَكُمُ ورَنُعَلَّ مُتَعْبَلُ مَجْهُولَ: لَقُرْ يُوْسَوْ لَدْ يُوْسَوْ لَمُوْ تُوْسَوْ لَعْرَقُوْسَوَا لَعُرَبُوْسَرُنَ لَمُ تُوْسَوْلُمُ تُوْسَوًا لَمُ تُوْسَرُوُا لَمُ تُوْسَوَى لَمُ تُوْسَوًا لَمُ تُوْسَرُهُ لَعُهُ لَمُنْوُسَر بحث لام ما يحد بانون ماكيد تقيله در نعل مستقبل معروف : لَيَسُودَةَ لَيَسُودَةَ لَيَسُودَة لَتَيْسِوَنَ كَتَبُسِوَانَ لَيَبْسِرُكَانَ لَتَبْسِرَنَ لَتَيْسِرَنَ لَتَيْسِرَنَ لَتَيْسِرِنَ لَتَيْسِرِنَ لَتَيْسِرَنَ كَبَيْسِرَنَ كَبَيْسَرَنَ كَبَيْسَرَنَ كَبَيْسَرَنَ كَبُعُ لام ماكيد بالون ناكيد تقيله در فعل مستقبل مجهول: أيو سَدَنَ أيد سَدَانٍ أيو سَوْنَ لَتُوسَدَنَ إَتَو سَدَانَ ليو سَرْنَا ب تىتى ئەرىپى ئۇرۇن ئۇرىيۇن ئىتۇسى ئىتۇسۇن ئىتۇسۇنىڭ ئۇدىيەت ئەكۇرىيەت مەكىمۇ تۇن كىتى مۇرىيى ئۇرى كىيى ئۇرۇن ، ئ يرِنْ لَدَيْسِرَنْ لَنَيْسُدُنْ محتْ لام مَا كَبِيرِ ما نون ماكِيرْ غيفر درنع المُسْتَقْبِل مجرد كَيْقُ مروري، تعريري كتوسري لأوسرة كني كري محت المرحاض اليبود اليبين اليسود التسوي التسوي اليسوي التسوي المسوي المسوي ف ام حاجر جمول؛ لِتُوْسَرْ بِتُوْنَهُ إِلِيُوْسُوُوْ الِتَوْسُوِى لِتَوْسَرُا لِتَوْسَوْنَ بِحِفْ المرغائب بسراليكيون لأيس ليكبر بحست امرغائت مجول: لِيُوْسَنُ لِيُوْسَرًا لِيُوْسَرًا لِيُوْسَرُوا لِيُوْسَرُوا

سَوَالِيُوْسَدْنَ لِأُوْسَدُ بِحَتْ امَرَ حَتْ امَرَ حَامَ مِعْرَ فِنْ الْمُونَ مَا جَدِ نُقَيْلَه: إِيدَسِوَنَّ إِيدَسِوَنَ ايسَدُّ بِ	<u>بن</u>
سَبِدِنَّ إِنِيسِوَانِ إِنْسِدْ مَانٍ بحث امر حاصر مجهول بالون تاكيب رُثْقيلُه ؛ لِتُوْسَمَنَ لِتُوْسَوَانَ لِتُوْسَوْنَ	3,
وسوية يتدويسوني التوسية أي تجمت المرغائب معروف بالون ماكيد تفتيس لمرد الميسية في لينسبونة الميسية في لينبونة	رم الم
وسون يوسون يوسون وروي بيست. بروي لينهو آن لينهو ذات لأيسود في لينيرون المرغاب مجهول بانون اكيد في أمر بيوسون اليد في المديني ليوسون الي	رسو (2
يسون سيسوا و يعدون ويسون ويسون مي . وسودة يتوسون ليوسون ويدون يور الدوستون ليوسون مبعث امر حاصر معروف بالون الكير تعنيف	رسين روسين
وسون بموسون بيوسون بيوسون <i>ويرسون رووسون رووسون بيوسون بيوسون بيوسون بيوسون بيوسون بيوسون بيوسون بيوسون بمعتام</i> ر بسيرن إيمسرن إيسيدن تجمعت امرحاصر مجهول بالون ماكيد خفيف، ليتوسون ليتوسون ليتوسون محمد المالي	ليۋ ر
بسيرة الميسودة الميسودة مجلف المرحاصر الول بأول بيكر ييصه بيو صرف من	년 년
ا مې شرک بول کا پېکرسیکېد؛ کیدیسوی ریدیسوی ترمیسوی در میدون در میکودن کیدیکسوی ۲۰۰۰ اسر کې چې چوک کو مده د او سرمه د و د سر د ای په سر د درو برای د ای د ای د اس د کمی مو مرد د او محمد و و ۱۰ د د اک تاریخ براد از	6 (_
يەنقىنىغە: لىيۇستۇن لىيۇستۇن لىتۇستۇن لاۇستۇن لىنۇستۇن م ىجىت ئېچى جاھىرمىم يومت، لاتىيسۇلاتىيىتۈلۈتىتىيۇدا بىر مەم ئەربىيە ئەترەپ بىرسىدۇرىشە بەر مىركەر بىرى ئەۋە ئەردىكە بىرىكەن ئېچى مەلكەن بىرى ئەترى ئارىچە بىرىكە بىر	-رابر بر بر
يَسْبِيهِ لاَ تَنْسِدًا لاَ تَنْسِدُنَ سَجَسْنُ بَنِي حَاصَر مجهول؛ لَا تُوْسَرُ لَا تَوْسَرُوْ اللَّوْنَبَرِي لَا تُوْسَرُنَ مَجْعَتْ يَسْبِيهِ لاَ تَنْسِدًا لاَ تَنْسِدُونَ سَجَسْنُ بَنِي حَاصَر مجهول؛ لَا تُوْسَرُ لاَ تَوْسَرُوْ اللَّوْنَبَرِي	<u>الا</u> :
ى غاتب معروف، لاينيسية لاينيسية لاينيسية وذا لاتنيسية لاتنسية الاينيسية، لا أشيرة لدنيشية بحث بنى غائب	ŝį
بول؛ لَا يُؤسَّدُ لاَ يُؤسَّدُوا لا يُؤسَّدُوا لا تُوْسَدُ لا يُحْسَدُنَ لَا أَخِسَدُ لا يُوْسَدُ بحث منى حاضر مرف المرابع	5
ون ما يمد لقتي الما يك يُسْدِدَة لاتَيْسِدَاتِ لاتَيْسِدُةَ لاتَيْسِدِنَ لاتَيْسِوْنَ لاتَيْسِدُنَاتِ محت في ما طرم كُول	ji,
ون تاكيد نفتيك، لاتوسورة لاتوسورة لاتوسورة لاتوسورة لاتوسوة لاتوسوا لاتوسوا لاتوسوا بالمعن بن عائب	1
مروف بانون الجدر فقيد الدينيوة لاينيوات لاينيون لاتنيون لاتنسون لاتنسون لاتنسون لاتنسوا فالاينيون لا يسرون	مو
نَكْسِدَنَ بَجِعْتُ مَبْي عَامَبٍ مَجْهُول بالنان تأكيد نُقيسًا، الأيوسَرَنَ لَا يُوْسَدُنَ لَا يُوسَدُنَ لَا تُوسَدَنَ لَا تُوسَدَنَ	الَا
يوسَدُنَانِ لَأَهُوسَرَنَ لَا نُوسَرَتُ مَجْمَتُ بَنِي حاصر معروف بالون تأكير صيفه، لا تيسَوْنُ لا تيسِرُنُ لاتيسِرِن	الأ
مت نهى ما ضرم جهول بالون ماكيذ عني ، لَا تُوْسَمَنَ كَلَا تُوْسَمَنُ لَا تُوْسَدِنُ المجمِتُ نهى غامب معروف لون	?
كهر خليفه، لا يَنْيَسِدُنْ لَا يَنْيَسِدُنْ لَا تَبْسِدَنْ لَأَا يْسِدَنْ لَا يَسْدِدُنْ لا يَسْرَضُ مُح مول بالون المي تعيم،	ſ
ي مُنسَوَنُ لَا يُوْسَرُنُ لَا تُوْسَرَنُ لَا أُوْسَرَنْ لَانُوْسَرَنْ كَمُعْتَ <i>السبم فَاحْسِس ا</i> يَا سِرُّيَا سِرُدَن	الأ
استرة كاسترتان كاسترات مجت المسيم فعول: مَيْسُوُدُ مَيْسُورَانٍ مَيْسُورُون مَيْسُورَة مَيْسُورَة مَيْسُورة ال	ر کا
، د مرور جزی ۱ مالیس و بر اسکو ترار صدقون مجل بر می میں شرق میں الا کرز الارس معتل خار کے تلکی کیسا تھ بار کو داؤ کیا ہے م	۔ ا
يستولات في حدثة المصرب علم صرب بين مصر بين منت يوسو مسرمان بين منت مربع مسرمان بالمسرمان بالمسرمان بالمسرمان ب صرمة في محرث من الفاجته العلى زباب وم منع ل ينعك - حكور اليكسس ، خشبك تهونا - صرم مسرم مربع من من مان مان مان مان مان مان من من	·
علامة إس بأب كي بير ب كدار بي ماضي من علين كلمه تحسور، اور مضارع بين مفتوح تهوما سب -	
ىپىت ئىتىتىق كىنىشا، فىگۈكا بىڭ ، دۇپېت بۇدى ئىلى يىڭ ئىز ئىزىر سىز مىلىكى يىك ئىرىپىت كەنتىكى ئىلى بىرىپىكى ئە يېت ئىتىتىق كىنىشا، فىگۈكا بىڭ ، دۇپېت بۇتېت بۇتېشا، فازالت تىتىتۇسى - يايېت تمايېپىت، كىرىتىنىش كەنتۇتىشىپ	
مِسْ يَسْهَى يَسْهَى يَبْسَ مَحْوَدٍ مِنْ مَرْيَسِى يَوْجَى يَبْسَ مَحْمَةً مَ يَبْعُرُ مَنْ يَعْرَفُ مَرْدَد ك يَتَبَسُ لَا يُوْجَسُ ، لَنُ يَتَيْبَسَ لَنُ يُوْجَسَ المَيْبُينَ لَيُوْجَسَنَ ، لَيَبْبَنُ لَيُوْجَسَنُ الْأَمُ	
ييبس ويوبس الل يعيب في يوسى الييب اليوسي الييب الوالي المراجب المراجب الريب والد. المراجب	-"

لِيُوْبَسُ الْيَبْسَنَّ لِتُوْبَسَنَّ لِلْيُبَسَ لِيُوْبَسَنَّ إِيلَامَ لَيُوْبَسَنُ لِيُوْبَسَنُ لِيوَبَسَ لِيوُ
الدينيس لا يُؤسس، لا تيبُسَنْ لا توبُسَنْ ، لا يَجْسَنْ الديوبُسَنْ ، لا تَبْجُسَنْ لا تُوبُسُنْ ، لا ييكس لا يوبسرن الطّروني منها
الْ مَيْبِسُ مَيْبِسَانِ مَيَا بِسُ وَمُيَنْبِسُ وَالأَلَةُ مِنْهُ، مِيْبَسُ مِيْبَسَانِ مَيَا بِسُ وُمُيَنِبِسُ مُومَيَ
القَيَابِسُ وَكُمْيَبُسِمَةً - مِيْبَاسًانِ مَيْبَاسًانِ مَبَابِيْسُ وَمُيَكْبِيْسٌ وَأَفْعَلُ التَّفْضِيل المُذَحَقُ مِنْهُ ، أَنبُسُ أَنتسان
المستوق أمانيه بروانية بين المعانية في هذا ومن وجسرا، مجرس في موجز تجعرون
مرفض في مريد بي مريد من
المستعلامة المس بأب في دُوَّ بين أيت كماسي ودرَّضات كالعدينية معتون روَّ دومري كمه إسكانتين لا كلية وضلع زوَّ -
المُنْتُ يَنْتُ يَنْعُا فَهُو كَانِعُ وَيُنِيعٌ - وَيُنِعُ يُوْتُعُ يَنْعًا، خَذَاتَ مَنْتُوعٌ مَا يَنعَ ما يُنعَ ، لَوَ يَعْدُ فَهُ نُعَ أَن يُوَقَعُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يُنعَ ما يُنعَ ما يُنعَ المُونية مُعْ واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ من اللَّهُ مُعْدُولُهُ من اللَّهُ من اللهُ من اللَّهُ من من اللَّهُ من اللَّهُ من من اللَّهُ من من اللهُ من من اللهُ من من من من من من منه من من من منهم من
الْنُ يَبُنَعَ مَنْ يُوْفَعَ ، لَيُنْعَنَّ لَيُونَعَنَّ ، لَيَنْتَعَنْ لَيُونَعَنُ ٱلْأَمُرُمِنُهُ، إِنَّنَ لِيونَعَ ، إِنَّنَ يَعُونَهُ، إِنَّنَ يَبُعَ لِيونَعَ ، إِنَّنَا الْمُؤْمَنَ ،
السَيْنَعُنَّ المُؤْفَعَنَّ وإيْنَعَنْ لِتُوْفَكُ مِلِينَعَنُ لِيُوْفَعُنْ وَالنَّحْ حَدْهُ، لَا يَنْنَعُ لَا تُوْفَعُ ، لا يَنْتَعُ لا يُوْفَعُ، لا يَنْعَنُ لي
التُوْنِعَنُ الْمِيْنِعَنَ لَا يُوْنَحَنَّ الاتْيُنِعَنْ لا تُوْنَعَنْ الْمَدْنِعَنْ الْقُدْنِ مِنْدُ، مَينِخ مَيْنِحان مَبَا نِعْ وَمُمَدْنِعِ اللَّهُ مَدْنَعُ الْقُدْنُ مِنْدُ مَينِغَان مَبَا نِعْ وَمُمَدْنِع
دَالْالَةُ مِنْهُ : مِيْنَعٌ مِيْنَعَانِ مَيَانِعُ وَمُيَنَيْعٌ مِيْنَعَةٌ مِيْنَعَةً مِيْنَعَ وَمُيَنِيغَةٌ - مِيْنَاعٌ مِيْنَاعًانِ مَيَا نِيعُ
وَمُعْتِنْنِيْحٌ وَٱنْعَلُ التَّفْضِيْلِ الْسُدَحَرُ مِنْدُ ، أَيْنَعُ أَيْنَعُونَ أَيْنَعُونَ أَيَانِعُ وَ أَيَنِينَعُ وَالْمُؤَنَّتُ مِنْهُ ، مِنْعِ
المُنْعَيَّانِ يَنْعَيَاتُ يُنْعَ وَ مِنْيُعِي
صرف صغير نعل تُلاق تُجَرِّد مُغْتَلٍ الفارمثال بإني إز باب يخب م فَعُلُ يَغْعُلُ جَوِل أَلْيَهُمْ :
بابركمت بهزما يعلام أيس بأب كي يسبت كماني اور متضاكر ببن عين كلمه مصنموم جوتا مستسبب س
کرو برورو بخشی کرور وزیر و رور و و در بر در در در بر در بر مربع بر کرد بر در برو بر در کرو بر در دو بر در برد ب پسن سین نسام فهویمن ویمن یومن ممنا فلدال میمون - ما یکن مایین ، کریتین که یومن ، لایتمین لا یومن ، کن سمین کن یومن سرو بر بر بر و برد برد سرو بر برد برد برد برد برای مایین مایین ، کریتین که یومن ، لایتمین که یومن ، کن سمین کن ی
ليسمن ليوصن الأموم وتروم ليوس ليبد وروم ومروم ومريبية ويتبع ويتبع ويربي مروم ويومن المدير ويربد ومرير ومرير وم
وَالْمُحْسِينَةُ * لاتَيْمُنْ لَاتُوْمَنْ ، لاَ يَبْهُنْ لَا يُوْمَنْ، لاَ تَيْمَنُنَ لَا تُوْمَنَنَ ، لا يَبْدُنُ لاَ يُوْمِنُ ، لاَ يَبْدُنُ ال
الاتومني الأيتينيني لايومني الظرو ممنية متبديكم متسان متامين مردمين والاكثير ومرجج ورئال
ميكون وميليون مرميتهنته ميتهنتان متيامن وميتينية ميتهان متهانان متامدهم ومبكدته وأنعل التغطيل
المُحَدُ صَحْدِ مِنْهُ أَيْسَنَّ أَيْسَنَّانِ أَيْسَنُونَ أَيَامِ فَجَرَ أَسَبْتُ مُوْ أَسْبَتْ مَعْ مُوْ مُوْ
عرضه مفرار بسباقيعان يتجوب الإنتساق بجواكهمانا يتتا بالاقفاع كمستم يصرفه مغرازيان المتدفئ أشعب بأدرويه مريد سنتنج
وسيستعلق فيستسبب سيرت سيرت سالي ويرايا الإراد الأن القارد والأسمل الاذكاع أأراب مريده ويردا أأذر المعرية تستديده الأرا
المتشعرين ويوجيعه يسجع فسترقى معجزار بأنيب تعالي الدمي المرتب المحازية المحرك المحالص كالمستح يستعرف العرب كالوع بالمحاد والسا
سان مونا يون مح كے سے مرف صغرار باب لفا عل- جوں التيكامن ، دا من طوف سے متروع كرنا ون صحر كے اللہ التيت واللہ ا
• • · · · بالم یک بی وی سیل ، پ جری مید موجن میں یو مورس کال کاعلزہ جاری مولا۔ ۲۰ متب ہ

.

[+6 (اجوف دادی) مرفص فيرفع لي في مرفع الغين اجوف واوي ازباب اول فعل يفعك محول المقول ، كبنا يعلامتدائس باب كي يتب كرامسكا صنى يستعين ككم هنوح المرتضاع بين صغموم متواسب م قَالَ يَقْوَلُ ، تَوَدَّدُ ، فَهُوَ قَانُ لَمُ حَدَيْنَ يُقَالُ ، تَوَدُّ ، حَدَّاتَ مَقُولٌ مَاقَالَ ما فِيْن ، كَدْ يَقُل كُدْ يَقَلْ الميقُولُ لَا يُقَال م لَنْ يَعْدُولَ لَنْ يُقَالَ، لَيَعُولَنَّ لَيُقَالَنَّ لَيَقُولَنْ لَيُقَالَنْ الْإِمُومِنْهُ، قُلُ لِتُعَلُّ، لِيَعُلُ لِيُعَلُّ، فَوْلَنَّ لِتُعَالَتُ لِيَقُولِنَّ لِيُتَالَنَّ، قُوْلَنُ لِتُعَالَنُ ، لِيَعْتُوْلَنُ لِيُقَالَنُ وَالتَّهْمِعَنْهُ ، لَا تَقُلُ لَا تُقَلْ لَا تُقَلْ لَا يَقُلْ لَا يَقُلْ لَا يَعْدُ لَا تُقَالَنَ ،لا يَعُوْلَنَّ لا يُعَالَنَّ ، لا تَقْوَلَنْ لا يُقَالَنْ ، لا يَقُوْلَنْ لا يُعَالَنُ الظّرف مِنه ، مقال كمقالان مقاول ومُقَيِّلُ دَالْأَةُ مِنْهُ، مِقْوَلُ مِعْوَلَهُ مِتَعَادِلُ وَمُعَيِّلٌ - مِعْوَلَةً مِعْوَلَتَانِ مَقَادِلُ وَمُقَيِّلَةً - مِقْوَالٌ مِعْوَالانِ مَعَادٍ شِلْ وَمُقَيِّتِيلٌ وَانْعَلُ التَّفَيْثِيلُ الْمُذَحَةُ مِنْهُ، آقُوَلُ اعْوَلُونَ آقُولُونَ آقَادِ لُ وَأُقَيت المُؤَنَّتُ مِنْهُ، قُول قۇلىكان قۇلىكات قول قۇغۇنى **مەن كېر** بحث إثبات فعل ماصى معروف ، قَالَ قَالَا قَالَوْ اقَالَتْ قَالَتَنَا قُلْنَ قُلْتَ قُلْتَ مَلْتَمَ قُلْتِ قُلْتُما قُلْتُن قُلُتُ قُلْنَا بحست إثبات فَعَل ماصى مجهول ، قِيلَ قِيلًا قِيلُوْاتِيْلَتْ قِيلَتَاقُلْنَ قُلُتَ قُلُتَمَا قُلْتُ حُر قُلْتِ قُلْتُمَا قُلْتَنْ قُلُتُ مُلْنَا بِحَسْتُفَى فَعْلِ مَاصَى مَعَرُونَ ؛ مَاقَالَ مَاقَالَ مَاقَانُوا مَاقَالَتُ مَاقَالَتَا مَاقُلُنَ مَاقَلُتَ مَا قُلْتُهُامَا قُلْتُهُمُ مَاقُلْتِ مَا قُلْتُما مَا قُلْتُ مَا قُلْتُ مَا قُلْنَا بحت فى فعل ماصى مجهول ، مَا يَنْك مَا قَيْلًا مَا تَيْلُوُ امَا قَيْلَتُ مَا قِيلَتَا مَا قُلُنَ مَا قُلْتَ مَا قُلْتُمَا مَا قُلْتُمُ مَا قُلْتُ مَا تُلُنَا لَمحت إثبات فعل مُصارع معروف، يَعُوُّلُ يَفُوْلَانِ يَقُوْلُوْنَ نَعُوُلُ مَقُولاً نِ يَقُلُنَ تَقُولُ تُعُولُ تُعُولاً مَ تَعُونُونَ تَعُولُونَ تَعُولُنَ تَعُولُنَ اللَّوْلُ مُعَولُ مَعْولُ جمس إثبات فعلمُضارع مجهول: مِقَالُ مُقَالَان يُقَالُون تُقَالُ تُتَالَانِ يُقَلْنُ تُقَالَ مُقَالَانٍ تُقَالُونَ تَقَالِينَ تُقَالَانِ تُقَانَ أُقَالُ نُقَالُ بحنت فى فعل مُضارع مو**جن :** لاَيَعُوْ لُ لاَيَقُوْ لاَنِ لاَيَقُو لُوْنَ لاَ تَقُوْلُ لاَ تَقُولُ لاَ يَقُولُونَ لاَ تَقُولُونَ لا تَقُولُون لا تَقُولُون لا تَقُولُون لاَ تَقُولُون لاَ يَعُولُون لاَ لَا مَعْلُنَ لَآا مَوْلُ لَا مَقُولُ بحست في فعل مُضارع جهول: لَا يُقَالُ لَا مِقَالَانِ لَا يَقَالُونَ لَا تُقَالُ لَا تَقَالُون لَا يُقَلَّنُ لَا يُقَالُ لَا تُعَالَدِنِ لَا تُقَالُوْنَ لَا تُقَالَيْنَ لَا تُقَالَدِنِ لَا تُقَلَنَ لَأَ أَتَالُ لَا نُعَالُ المُعَالُ المُعَالُ لِا يُعَالُ لَا يُعَالُ لا يُعَالُ مُسْتَغْبِلِمِعرُفْتِ : لَنْ يَقُولَ لَنْ يَقُولُا لَنْ يَقُولُوا لَنْ تَقُولُ لَنْ تَقُولُا لَنْ يَقُلُنَ لَن تَقُولُ لَنْ تَقُولُوا لَنْ تَقُولَىٰ لَنْ نَقُولَا لَنْ تَقَلَّنَ لَنِ آَحُولَ لَنْ نَقَول مَنْ نَقَول مَحمد فَعَى الرولي وَ وَعَالَ مُعَالًا لَكُونَ وَمُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُولاً وَ وَعَالَ مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُولاً وَ وَعَالَ مُعَالًا مُعَالًا مُولاً وَ وَعَالَ مُعَالًا مُعَال

لَنْ يُقَالَا لَنُ يُقَالُوُ إِلَنْ بُقَالَ لَنْ تُقَالَا لَنْ يُقَلَّى لَنْ تُقَالَ لَنْ تُقَالَا لَنْ تُقَالُوا لَنْ تُقَالِى لَنْ تُقَالَا لَنْ أَعَالَ كَنْ نَقَالَ بجنت فَقى جُدْكُمُ ورفعل مستقبل معروف، لَمْ يَعُلْ لَمْ يَعُولُا لَمْ يَقُولُوا لَمُ تَعُلُ لَمُ تَقُولا بَعُرَيكُ لَن لِمُنْتَغُلُ لَمُ تَقُولُا لَمُ تَقُولُوا لَمُو تَقُولِ لَهُ تَقُولُا لَمُ تَقُلْنَ لَمُ أَقُلْ لَمُ نَقُلْ م**حت نفى جحت لكُرو رَنوس** ستقبل مجرول بركة يُقَلُّ لَغَرِيعَالاً لَغُرْ يُقَالُوا لَعُرْ تُقَلْ لَمُرْ تُقَالاً لَغَرْ يُقَلْ لَمُ تُقَلّ لَعُر تُقَالاً لَعَرْ تُقَالُوا لَعُرْ تُقَالِد لَمْ تُتَالَا لَمُ مُتَعَلَّنُ لَمُا قَلْ لَمُ نَقَل محت لام ماكيد مانون ماكيد تقب د فعل ستقبل معروف ، لَيعَوْنَ لَيَهُوُلُانِ لَيَقُوْلُنَّ لَتَقُومُنَّ لَتَقُولُانَ لَيَقُلُنَّانِ لَتَقُولُنَّ لَتَقُولُانَ لَتَقُو لَمُ لَتَقُولُونَ لَتَقُدُلُنَّ لَا تُوْلَدُ لَنَقُولُنَّ بَحِفْ لام مَاكِد بانون مَاكِيدَتْقِيل، دوللمُسَتقبل مجهول، لَيُقَالَنَ لَيقَالَانِ لَيقالُنَّ لَتقالُنَ لَتقَالَآتِ لَيُعَلَّنُنَا فِي لَتُقَالَنَّ لَتُقَالَان لَتُقَالَن لَتُقَالِنَ لَتُقَالَانِ لَتُعَلَّنَانِ لا حَالَتَ للعَالَ لَعَالَ لَمُعَالَن ل تاكيد فيفرد فعلم متقبل معروف ، كيفَوْكَ ليَقُوْكُ لَتَعُوْكَ لَتَعُوْكَ لَتَعُوْكَ لَتَقُولُ لَتَعُولُ لَتَعُول بحت لام ماكيد بالون ما يرتفيف درفع لمستقبل مجهول ، كيتَ الن ليعَدّ الن كتعًا كن كتفًا كن كتفًا كن كتفًا لن كتفًا إب لَا قَالَنُ لَنُقَالَنُ بحث امر مرمون : قُلْ قُوْلاً قُوْلاً قُوْلِهِ قُوْلِهِ قُولاً قُوْلِهِ عَدْ المرام مجهول: لِتُعَلَّ لِتُقَالاً لِتُقَالُوا لِتُقَالَحُ لِتُعَالَاً لِتُعَانُ بِحِثَ ام عَاسُ معروف ولِيَعْلُ لِيَعْوَلُ لِتَعَتُّلُ لِتَعَجُّ لاَ لِيَعَتُلُنَ لِاَقَتُلُ كَبِعَتْ إِمرْعَاسَ مِجْهِولَ إِيُقَالُ لِيُعَالَا لِيُقَالُو لِتُعَالُ لِتُعَالُ لِيَعَانُ الأقَلُ لِنُقَلُ مجمعُ امر حاصر معروف بالون ماكيكُر تفتي له: قَوْلَنَ قُولَانِ قُولُنَ قُولِنَ قُولِنَ قُو قُلْنَانَ بحث امر حاصر مجبول بالون تاكيد تقيب، لتقالنَ لتُعَالَان ليتقالُنَ لِتقَالُنَ لِتقَالِنَ لِتقالاً لاَيَ لِتُعَالَان ت امرْعاسب معروف بألوْن ماكيب الْعَيْلِهِ، لِيَقُوْلَنَّ لَيَقُوَّلْ بَالِقُوْمَنَّ لِتَقُوَّكُ لِتَقْتُو لَا يَ لِيكُلُبَ إِنّ لِدَعُولُنَ لِنَقُولُنَ تَجِبُ امرغامُ مجرول بالون ماكيدت المد المتقالة ليتقالد إليتكالات ليتقالن لتقالن لتتقالآت رَلِيُقَلَنَا إِنَّ لِلْقَالَنَّ لِبُعَالَنَّ مُجَعَف امرحا صَرمعروف بأنون ماكيب خِصْيفر: قُوْلَنُ قُولُنُ تُوْلِنُ كجست أمرحاضر جهول بانون باكيد تعنيف، إلتُقَالَن أيتُقَالَن أيتُقَالَن أيتُقَالِن مجت امرغا مُب معروف بالون ما كيرهيف لِيَقُوْلَنُ لِيَقُوْلُنُ لِتَقُوْلَنُ لِتَقُوْلَنُ لِنَقُوْلَنُ تَجَعَتُ مرغا مُبِ مجبول بِانُونَ تأكيرُ فيفَر. لِيُقَالَنُ لِيُقَالُنُ لِتُقَالَنُ لِلْحَالَىٰ لِنُقَالَىٰ سجعتْ بْنِ حاصْرِ معروف ، لَاتَقَلْ لَاتَقَوْلَا لَاتَقَوْلُوْ لَا تَقُوْلِ لَا تَقُلُى بحث بنى حاصر جهول: لَاتُقَلْ لاَتُقَالاً لَاتُقَالُوا لَاتُقَلِقِ لاتُقَالاً لاتُقَلْنَ بحث بنى غائب معروس لاَيقُلُ لَا يَعْذُولا لَا يَقُولُوا لَا تَقُلُ لَا تَقُولا لَا يَقُلْنَ لَا آدًا لَا نَعُلْ سِحِتْ بِي عاس جَبُول ، لَا يُقَلْ لَا يَعْلَ كَ يُعَالُوا لا مُقَلْ لا تُقَالا لا يُقَلّ لا تُقَلْ لا تُعَلّ بحث بنى حاضرموف بالون ماكيد تقيد ما لا تقولت َلاَتَعُولانِي لاَنَقُولُنَّ لاَنَقُولِنَّ لاَتَقُولانَ لاَنَقُولانَ لاَنَعُلْنَانِ بحث بني حاصر مجيول بانون تاكير هني ا، لاتُقالَنَّ

لوديدى - يَقُونُنُ مولكيا راجماع ساكنين مُدادر ميان داوَاه لآم ك ، وَأَوَكورُا ديا - يَقُلْنُ بردُنْنِ يَفُلْنُ مركبا بي تسليل تَقَلَّنُ ميغه جمع مؤنث حاضر مي موكى تي **خطّال؟** ، حينة داحد مذكر عائب ربحت إثبات نعل كمضاً ع مجول _ أصْل بي فيقول بروَزْنِ مُنْصَوّ تما - داد متحرك ا قبل صحيح ، ساكن تما - تومُعّل عين ك قاعده الم محاسمة وآد ك حرّكة نعل كرك ما قبل كودى -يُقَوِّلُ مولكيا - بجروا وُساكن كوَ بوك أصَّل من متحرك تما - ما تبل مفتوح ، يون كى دج س بقاعدة قَالَ العن س بدل ديا - يُقَالُ بر مُنْذِنِ يُفَالُ بوكيا مي تعيل مُضارمًا مجهول ك اكترضيغول من بوك مي تعكن ، صينه مع موّنت غات بعت إثبات ضل مُضارباً مجهول - أَصُل مِن يُعْوَكْنَ بردُرْنِ يُنْصَوْنَ تَعا - داد متحرك ماتبل مح ماكن تما - توبُقاعدة يُقَالُ واوَ كح ----حسكة ما قبل كودى - يُعَدَّقْ لَن بوكيا - وأوَّساك كو، بوكد أصل مي مترك مما ، ما قبل منوت موسف كى وجسس بقاعدة قال الف بدل ديا . يُقَالْنُ بوكيا ما جماع ساكنين بوًا درميان الفّ اور لآم ، الف كوكرا ديا . يُقَلّ بروزن يُفلن بوكيا برتبليل مُضارع بجول کے صيف جمع مُونث حاصرتُقَلَنَ بي بوگ لَتَعَدَّ يَعْتَلْ، حيف واحد فركرغائب بحث نفى جَتْ رَجْع دَفِع مستبل مردف أمن من كمد يقول بروزن لعديني مورما وأدمترك اتبل مع ، ساكن ما ترمقل مين م قاطر من کے ساتھ واؤ کی ترکہ نقل کرکے ما تبل کو دی۔ لَدْ يَقُولْ بوگما - بجتاع ساكنين بُوا - درميان وأو اور لآم كے واؤ كوكرا ديا-كَمْ يَعْلَ بُرُدَن مَدْ يَعْلُ بوركام باير بناياكاس يغول سه . كَدْجاذ مى دجس كَدْ يَعْلُ بوا ماجماع ساكنين بوا در مان وآد اور لآم کے ۔ دا ڈکر کر نیا بکٹر کیتے لی بر وُڈن کیڈ کی کُک ہوگیا یہ بہی تعلیل نفی جگد معروف کے اکثر صيغوں بي ہو گی كم و مح قل : ميغدد محد مذكر غامب ربحت نفى بخدئهم در معل مستقبل مجهول . أصل مي كفر يقول بروز ن كفرين مستقبل -واذمتحرك آتبل صحع، ساكن تعا-توبقاعدة يتعال داؤكى حركة نعل كوك ماقبل كوديدى بيعروا وساكن كوجوكه، أشل مي متحرك تعا، قاب مغتوج مون کی دجہ سے بَرٌ قا صلاقال الف سے بدل دیا ، کعر یُقَالَ ہوگیا - اِجتماع ساکنین بُوا درمیان القّن ورلّام کے - الف كوكراديا - كمر ميقل بروزن تعريفل توكيا - يا يُون كديد بنايا كياب يقال سے - تعر جا دم كيوج كم كمد كيفال توكي اجتباع ساكنين بكوا درميان الق أورلام ك - الف كو كرا ديا كمر يقل بروزن تقريفُ بوكيا فكل معدد مدر ما مربعث امر المرمودف - أصل بي أقول بروزن أنصر تعا - وأؤمتحرك ما قبل محيس ، ساكن تعا- توبعاعدة يَعْدُون وأوكى حركة نقل كرك ما قبل كودى سر بمزة وصلى كومزورة نه ريب كميو حبست كرا ديا- تُحَوْلُ بوركيا - اجتماع ساكنين برّوا درسيان وآدّ اور لأتم ك. وآذكر لاديا - تُحلّ بروزن عل بوكيا - يا يُون كد تُحلُ بنا سب تَعَوُلُ ، - - او علامة مُعار ع كور كركة تركور كار قود ف ہوگیا۔ اجتماع ساکنین سوا درمیان وآدا در لاتم کے ۔ واؤ کو تر دیا حک بر وُزْنِ مُلْ ہوگی محکوم، جدم برخت حاصر بحث ا *عامز معردف أمثل بن أقولُنَّ بروُزْنِ أَنْصُرُنَ تَعَا مَثْنَ عَلَّ كَي تَعلِيل بولاً صَحْوِلُتَ ، دغير بين اجتماع ساكنين نراست كيوم* ا مصروب جلّة والبس أجامله ب - ف المسلح التي المر كم صينون كى تعيلات اور بنى كم صيغون كى تعليلات بحث الغي بخس دا صحبي تحفار شلكة مينددامد فكر يجت اسم فاعل - أَصْل من خَاوِل مُدَوَّن مَاحِر مما - واتح " فَاعِل م مح الف جعد

داقع مُوار تومقل مين ك قاعده مد ك سائد وآو كوجزه مع بدل دبا - تحاول مردزن فاتك موكي مستقول، ميذ والمد فكر بحث أسم مغول ، أصل من مقود المربروزي منصور تما واد متحرك ا قبل محم ، ساكن محما - توبقا عدد أيقول والوكي تركة نعل كم ١ قبل كودى اجتماع ساكنين توا درميان وقد والذك ريبل والأكوكراديا . مُتَقَوَّلُ بروزن متفوَّلُ بوكي متقال محمية والمديم أسم المرف والصل مين حقول جرودن منصر تحفار والامتحرك ما قبال محسب ، ساكن تحا رتوبقاعدة يُعَدَّلُ والذك حركة نقل كرسك ما قبل کودی ۔ بچردا کا <u>ساکن کو ،</u> جوکد اَحمّل میں متحرک تھا ۔ ماقبل معسّتور میں سے کا وجہ سے تیز قاجرہ کا کی اِعف سے بدل دیا ۔ مُقَالِ² بودن مقال بوكي مقاول جيعرت بمت المطرف ابن المس يترمغا يل كالعت يبطيون بلاً سنوى سيُعتَل بين كا داعة جارئ بوكا كَذَا مَقَادِل مُ الصرى كَبَرِي أَنَادِكُ المَنفِيس مُحَقَيْت ل محيفه دامد فركر مُصَغَر - بحث المم فكرف - أمس م محقب ال برقَرْنِ مُنْسِصِطُ تما، واوَ، بآد ایک کلم میں جمع ہوئیں ، اول ساکن تمار تو بقاعدہ سَتِنگ ، وَاوَ کو آر سے بدل کر، بآر کا بآر میں ادغام کردیا ۔ مقبِّتُلِ^ع بردُزَّنِ مُغَيِّلٌ ، دَلِيا <mark>صِحْتُوَ لُ⁵َ ادر صِحْتُوَ لَهُ⁵،</mark> اسِمِ ، دمَّنْوَلِت ددسَنِّی کے مسف یے کُبرے مِعْوَالُ کے تابع ہونے کیوج بے این اصل بر جی اسلیے کہ بسااد قات معنیٰ میں کُٹر بے کے مُوافق ہوتے ہیں ۔ادر تبعن صرمنوں کے المان اسليح كه يد دونون صيغ مِقْدًال من من مشتق من -اور مفوَّال من وأكَّر من بعدالف مدَّه لائد موسف كموجب ئې قاعدة يَقُوْلُ تعليل بي بونى ال**حَسَيَّت لَحَ**، مينغددامد زكر مصغّر ^ماسم المُسْغرُب - أَصْل مِن مُقَيْبُولُ بُروزُ فَيَنْبِعِ تعا- وأو ايما ايك المعي مح بوكي - أول سأن تعا - توبقاعدة ستينة وأو كويار سه بدل كرايا ركايا . مي ادغام كرديد متبيل بروتون مُغَبِّلٌ حركي البتد بالعيل مُغَيَّوُكُ بِجُعنابهي ما تُرْبٍ ، كَذَا في مُعَيِّلُهُ وَمُعَيِّد إلا في أو أخيّ للأ وأخير المسم آردا يتنعنها کے تصغیر کے صیفوں میں تعاعدة سَیتِ لل موانك بے عدم دجوب كى وجہ يہ ہے كہ ان مريم تحقق ميں تعليم ان اس مولى محق ا**د قبل،** صبغ جن بحث اسم آلد كُبر ابن المشل برب الف جمع من بل ترف بقد ز بوف ادروا و ك بعد بارساكن موف كم يعد مُتَسَمِّعِينَ كَامَا عده مله جارى نه جوگا (المشکول ، دعيره ايم مغسل سے مسف اپني مُسل پر بي كيزكه اسم تفضل يُفُو ل له خاص مستثنى ب صريلي الون بيب تعيل ريائ بل في مل في وسع النا المل بيب -صرف يغر مُعَسَّلُ فَقَنْ مَجْرَد مُعَلَّلُ عَين اجوف وادي از باب وم نُحِلَ يَفْعَلُ يَحَوَل الْحُوْث: درنا علامتر بس باب کی بیس کراس کا صن می عین کلم تحسورا ور مُضارع میں معنت تو**س برونا ہے۔** خَانَ يَحَانُ تَحَوْنُا، فَهُو خَاتَمِتْ - وَجِعْتَ بِحَانُ خَوْنًا، ذَذَالَ مَعُونٌ - مَاخَانَ مَاخِيفَ ، لَمُ يَحُفُ لَمُ يُحَفُّ لَايَحَاتُ لَايُحَاتُ لَا يُتَعَافَ لَنَ يُتَحَافَ الْيَخَافَنَ لَيُحَافَنَ لَيُحَافَنُ لَيُحَافَنُ لَيُحَافُ أ لِيُخَفْ، خَافَنَّ لِمُعَامَنًا ، لِيَخَافَنَّ لِيحُافَنَّ ، خَافَنُ لِتُخَافَنُ ، لِيَخَافَنُ لِيُعَافَنُ لِيك

و بادر بے کرامیں قاعدہ حذا کا اجراء دجو پی بے لحد المقبول پر حناجا ترزیبی پخلاف صبغہ پالہ صبغہ تفصل بلامد. او المجموع المکسّر ۃُ: حَافَةٌ، حُوَّات، حُوَّفٌ، تحاق، حَوَّفٌ، مُحَوَّفًاءُ، حَوَقًانَ، حِيَّافَ، حَوَوَفِ، الحواق، ۳

۰.

مجمول، لَيُخَافَنَ لَيُحَافَانِ لَيُحَافَنَ لَتُخَافَنَ لَتُحَافَانِ لَيُخَفُنَانِ لَتُخَافَنَ لَتُخَافَنَ لَتُغَافَان لَتُخْفُنُانِ لاَحَانَنَ لَنُعَانَنَ بحث لام تأكيد بالون تأكيد خفيف ورفعل مُستقبل مغروف: لِيَحَافَنُ لَتَخَافُنُ لَهَ حَادَنَ لَتَخَافُنُ لَتَخَافِنُ لَأَحَامُنَ لَنُحَامَنَ مُحِي**تُ لَامِ مَاكِيدِ مَانُونَ مَاكِيدُهُ فِيد**َدِ رَفُلْمُسْتُعْبَلُ مَجهول الْيُخَافُنَ لَهُخَافُنْ لَتَخَافَنُ لَتُغَافُنُ لَتُخَافُنُ لَتُخَافِنَ لَائْحَافَنْ لَنُعَافَنُ لَمُعَافَنُ لَمُع خَانِف خَافَا خَفْنَ تجمت امر حاصر مجهول؛ لِتُحْقَتُ لِتُحَافَا لِتُخَافُوا لِتُخَافُو التَخَلُقُ لِتُحَكَّنَ تجمت امر معروف: لِيَخْفُ لِبَخَافًا لِيَخَافُوا لِتَفَتُ لِتَخَافًا لَيَخَفُنَ لِلْحَفَّ لِنَحَفُ كَبِحَ**تْ ا**مرْ كَاشَ مجمول، لِيُحَفُّ بِبُحَافًا لِيُحَافُوا لِتَحْمَتُ لِتُخَافَا لِيُحَفُنَ لِأَحْفُ لِنُحَفُ لِنُحَفُ بَ بالذن تاكيد تفيله، فَحَافَنَ خَافًا مَتِ خَافُنَ خَافِنَ عَافَاتِ حَفْنَاتِ المُحَدِّ الرحاصر مجمول بالأن الم بَدِيدِ: لَيْتُخَافَنَ لِتُخَافَانِ لِتُغَامُنَ لِتُغَافِنَ لِتُغَافَانِ لِتُغَفُنَانِ الْمُعْتُمَانِ المُعامَ لِمِهُ لِيَحَافَنَ لِيَحَافَانِ لِبَحَافَنَ لِتَحَافَنَ لِتَخَافَانَ لِيَحَفُنَانِ لِيَحَافَنَ لِنَحَافَنَ كَج ل بالون ماكبد تعتب مرد ليُحْبَا هُنَّ لِيمُعَامَانَ لِيمُعَامُنَّ لِتُحَامَنَ لِتُحَامَانَ لِيمُحَمَّناتِ لِدُحًا هُنَّ لِنُحَافَتُ ، امر حاصر معروف بالون تأكيد تعنيف، اختاط المن تحاطن تحاون بحسب امر حاصر مجهول بالون ليدخفيف، لِتُخَادَنُ لِتُحَادُنُ لِتُعَانِنُ كِمُعَانِنُ تَجعتُ الرُحَاسُبِ معروف بالون تأكيدَ خفيفر: لِيُخَافَ لِيَخَا فَنُ لِتَخَافَنُ لِدَخَافَ لِنْغَافَنُ تَجَعَتُ امرغانُ مُجْبُول بِالوَنْ مَا كِيدَ خَفِيفُو، لِيُخَافُ لِيُخَافُ لِتُخَافَنْ لِلْحَافَنْ لِنُخَافَنْ مجمعت بْنِي ما صرمعرُوف: لَا تَخَفُ لَا تَخَافُوا لَا تَخَافُوا لَا تَغَاف لاَ تَخَفْنَ بحث بنى ما صرمجول: لَا تُخَفَ لاَ تُخَافَا لاَ تُخَافُوا لاَ تُعَافِ لا تُخَافَا لاَ تُخَفْنَ بحث بنى نا سب معروف : لَا يَخَفُ لَا يَخَاذَا لَا يَتَعَا فَوْالا تَخَفَ لَا تَخَاذَا لَا يَخَفَنَ لَا أَ خَفَ لَا نَص مجميولْ: لَا يَحْفُ لَا يُعَانَا لَا يُبْعَافُوْ الْانْتَخْفُ لَا تُتْخَانَا لَا يُبْخَفُنَ لَا أَحْفُ لَا نُحْفُ ب بالون تاكيب (تفييسله، لَا تَغَافَنَ لَا تَخَافَانِ لَا تَخَافَانِ لَا تَخَافِنَ لَا تَخَافَانِ لَا تَخافَانِ لَ ب**انون ناكيد ثقيب له: لا تُ**خَاخَنَّ لا تُحَاجَانَ لَا تُحَاضَ لَا تُحَافِنَ لَا تُحَاجَانِ لَا تُحَفُنَانِ **بُحِثْ بَهِي عَائَب** مروف بالون ماكير كفيب له، لا يَحَادَنَ لَا يَحَانُانِ لاَ يَخَافُنَ لَا تَحَادَنَ لَا تَعَافًا مِنَ لا يَعَانُ لاَ مَتَحَافَنَ بَعِم**تُ مَنِي عَامَب مجبول بالون عَاكِيدُ لِعَتَب ل**ه: لَا يَجَافَ لَا يُتَحَافَنَ لَا يُتَحَافَنَ لَا يُعَافَان لَا يُحْفَنَّانِ لَا أَخَاطَنَ لَا نُعَاطَنُ مُ**جَمِتُ بَنِي حاصر معروف بانون مَاكْبِدَ خَفِفِد:** لَا تَخَاطُنُ لَا تَخَاطُنُ لَا تَخَاطُ بحث منبى حاصر مجهول بالون مكيد خصيف، لاَنْتَحَاطَنُ لاَ مُفَاطَنُ لاَ تُتَعَادِ لَهُ تُعَادِ اللَّهِ س ب**الون باكيد خفيف، ب**ر: لَا يَخَافَنُ لَا يَعَامُنُ لَا تَحَاذُنُ لَا أَخَاذُنُ لَا نَحَاذُنُ **سَجِتُ مِنِي عَامُب مجبول بالون كَلَ**

امر حاصر معردت - انتش مين إخوت بروزي إستدع تفا - والأمتحرك ما قبل صحيع ساكن تفا - توبَّقا عدة يَقُولُ وأو كى خراكة تعل كم ماقبل کو دی - بیزهٔ وضل کو صرورهٔ نه رسینه کبوحبت کرا دیا - خود ی یوکیا - بسرها و ساکن کو کوکشل میں متمرک نفا - ماقبل مفستوج پیخ ی وجه سے تر قاعدہ تخال الف سے برل دیا ۔ تحاف ہو کیا ۔ اِجْمَاتِ ساکنین بُوا در میان القَّف اور فآر کے العَّت کوگرادیا ۔ خف بوزن خُلْ ہوگیا - یا یُوں کہ یہ بنا ماگیل بسب تکناف سے - انسِ طرح 🔹 کہ علامتر مُضارع کو ضُدِف کرکے آخر میں حالۃ دتھی کیو جیسے ساکن دیا حَاثَ بودكما إجتاب ساكنين تُواء، رميان الق ادر فارح - الفرج كراد بالتحف بروزُن مَلْ جوكما متحصَّت ، حديد جمع موّنت ما جزر بجت الطلخ معردت - أمثل بي الحُقافَ بروَزْن إشتغْتَ تفا - مثل حَفْ كَنظيل بوتى تتحاطيب دينير بن اجتماع ساكنين سي كيوم مسرَوب عَدَّد داب سَ أَلَيا بمن مَصْفَات بالمن صيف دا مد مركر حاضر بحث امر حاضر مجهول بانون فيصل من المنظف ف مُضارع مجول کے تعلیل ہوگی۔ ف آمک 8 مل : امرحاصر معدد ف کے علاوہ ، امرد نہی کے تمام صیفوں کی تعلیلات برش نعی تجد کی تعلیلات کے میں اور اسم فاعل دغیرہ تمام اسساد مُشتقة میں ، قَالَ لَقُولُ کے *اسادِ مُ*شتقد کی طرح تعلیل ہوگی۔ فیات کہ ملے : صرف صغرا ز القلول مُرْسُ قال بقول كُ س مال بقول عصب به صرف صغیر ضل کل فی مزیدنی مُتَوَلَّلُعین اجوف دادمی از باب افتیع ب ال یجول الافتر سیا که : مینیب ا مقلامند ایس باب کی بر ہے کہ ایک کی ماصلی میں یا تین حب رف ہوتے ہیں ۔ تىن جىسى، دُوزا مُدْ بىيسىنى شرَّع بى تَبْرَهُ وصلى ادر تىيسىرى جب كَرْتَا ر 🗕 إِقْتَا دَيَعْتَا هُ ا تَحْتِيَادًا، فَهُوَمُتُتَادٌ - وَاعْتِيدَ بَعْنَتَاهُ اقْتِيَادًا، فَذَالَتَ مُقْتَادُ مَا اذْتَادَ مَا اذْتَعِيْدَ ، لَوُلَيْتَذ لَمَرْيُقْتُنَهُ الآيَقْتَا لا لَايُقْتَالا مَنْ يَعْتَادَ لَنْ يُقْتَادَ المَعْتَادَةَ لَيُعْتَادَةَ لَيقتادة ألأمومينُهُ، ا تُتَدَدُ لِتُقْتَدُ ، لِيَفْتَدُ لِيُقْتَدُ ، إِفْتَادَنَّ لِتُفْتَادَنَّ بِلِيَقْتَادَنَّ لِيعْتَادَةَ المُقتادَة بِلِقْتَادَةُ لَيُقْتَادَنُ وَالنَّخْصِيَةُ، لَاتَقْتَدُ لَاتَقْتَدُ ، لَا يَفْتَدُ لَا يُفْتَدُ ، لَاتَقْتَادَنَّ لأ تُقْتَادَنّ كَرْ تَعْتَبَادَنْ لا تُفْتَادَهُ، لا يَقْتَادَهُ لا يُعْتَادَنْ النَّطَوْتُ حِنْهُ : حُقْتَا \$ حُدَّتَا دَانِ حُتْتَادَاتُ -مسبب فاشد بر، - أُقْتِيد بي بمزه كورن سوم كى مُناسبة محدورهم يُرهب تح في --صرف صغير فعل مُلاثى مزيد فيه مُعْتَلٌ الَّعِين اجوف إوى از باب إسْتِقْعَالَ مِجْول الاسْتِقَامَةُ ، سیدها بونا - علامة ایمس باب کی به سب کراس کی ماضی میں تیچر حسیف رف موت بي يتريح صلى، مينّ زائد يعين منروع بي تيمَزه ، دوميري مكرستين ، تيسري جكَّه "أرَّ-إِسْتَقَامَ بَسْتَغِيْثِمُ اسْتِفَامَةً، فَهُوَمُسْتَغِيثُوْ وَاسْتُغَيْبُ فَيُشْتَعَامُ اسْتِغَامَةً، فَذَ الت مُشْتَقَامَ بمااسْتُغَامَ مَااسْلُبِيعَر، تَعْرِيدْتَنِيعْ لَعْرُيُدْتَعْتُرْ، لَا يَسْتَعْتِعْ يَعُوَلا بُسْتَقَامُ ، لَنُ يَسْتَعْتِ مُرَلَىٰ يُسْتَقَامَ ، لَيُسْتَعْيِمَنَّ لِيسُنَتَعَامَتَ ، لَيَسْتَقِيْبَنْ لَيسْتَعَامَنْ أَلْآمَرُمِينَهُ إِسْنَقِعْ لِتُسْتَقَعْ لِلسُنَتَةِ وَلِيسْتَقَعْرُ بِاسْتَقْتِمُونَ

لِتُسْتَعَامَنَ بِلِيسَتَقِيمِنَ لِيسْتَعَامَنَ السَّتَقِيمَن لِتُسْتَقَامَنَ البَسْتَقِيمَن لِيسْتَقَامَ وَالنَّحُ سَعُهُ كَتَسْتَعَتِرُ لَا تُسْتَعَمُ لَا يَسْتَقِعُ لَا يُسْتَقَمْ لَا تَسْتَقِيسَ كَلَا تُسْتَقَيسَ لَا يُسْتَعَينَ لَا يُسْتَقَامَنَ ، لا يستقِيمَ * لَايُسْتُقَامَنُ ٱلْقَلْافُ مِنْهُ مُسْتَقَامٌ مُسْتَقَامًانِ مُسْتَقَامًاتٌ - خامَلا ﴿ إِس بِابِ كا جوف ادى خلافٍ قيامس بغيرتيليل كم بى بت آبا ب- جي استَ فود · اِسْتَصْوَبَ وغير -صرب صغير معن نُلاثى مزيد فيه مُعَمَّتُ لَ أَتَّعِينِ اجوبَ وا دى إزمابٍ إِنْفِعَالَ عَجوبَ الإِذْقِيادَ ، تابع اربونا - علامة إمس باب كى يسب كداسكى ماصى ميں باليخ حرف بوت ہے بین بین اللی، ذوراند بعب ن مشروع میں ہمت زہ دصلی اور دوشری جگہ کو نہے۔ إِنْقَادَ بَنُقَادُ / نُبَيَادًا ، نَهُوَمُنْقَادُ وَانُقِيْدَ يُنْتَخَادُ إِنْبِيَادًا ، خَذَاتَ مُنْقَادً ، ما انْقَادَ مَا أُبْقِيتِ ، كَرْيَنْقَ ـ ذَكَر يُمُسَّدُ لاَ يُنْعَادُ لاَ يُنْعَادُ الْنَ يَنْعَادَ الْنَ يَنْعَادَ الْمَنْقَادَنَ لَيُنْقَادَنَ الكَنتُقادَن كَلِنُعَادُ لَا يُنْعَادُ لاَ يُن لِيَنتَدَ لِيُنْتَدَ إِنْتَادَنَ لِشُقَادَنَ بِينْقَادَنَ لِينْعَادَنَ إِنْقَادَنَ بِينْقَادَنُ لِينْقَادَنُ لِينْعَادَنُ لِينْعَادَ وَالنَّحْمَعَيْدُ، لَاسَفَتَد لَا تُنْتَسَدُ ، لَا يَنْعَسَدُ لَا يُنْعَدُدُ لَا يَنْقَادَنَّ لَا يُنْقَادَنَّ لَا يُنْقَادَنَّ الْا تُنْقَادَنُ لَا يُنْقَادَنُ لَا يُنْقَادَنُ ٱلْقَلَاتُ مِنْقَادَ مُنْقَادَانِ مُنْقَادَانِ مُنْقَادَاتَ-صرف صغيرُ على لانى مزيد فيه مُحُسَبَ لا تعينِ اجوف واوى ازباب إنْعَالَ حَوَّلَ الْإِقَامَةُ ﴾ قائم تحرنا ، مُقتم مونا يعلامة إس باب كى تتبع كم الحكي على بماريرف منه من بالتصل المناف مين شوع مديم وتطلق اَ قَامَ يُفَيْحُرًا قَامَةً ، خَهُوَمُعْيِنَة مُوالمَعِيمَة مَدَالًا مُقَامَة ، فَذَالَتَ مُقَامَ مَا أَقِبْعَر لَوُيُقِيرُ كَمُ تَعْتُدُهُ لَدُيْقِيرُ وَلَدُيْعَامُ ، لَنْ يُتَقِينُهُ إِنَّ يُقْتَلُمُ ، لَيُعْيَمُنَّ لَيُعَامَنَّ ، لَيُقِيْمُنُ لِيقَامَنُ الأَمْرُونِيهُ ، أقدم لتحكر المقرر ليقرر التقرر القيمن لتشامت لِيُقِيْهُنَّ لِبُقَامَنَ ﴾ آيَيْهُنُ لِتُقَامُنْ • لِيُبْيَهُنْ لِيُفَامَنْ وَالنَّحْمِعَيْهُ ؛ لَا تُبِعُرُ لا تُقْدَرُ لا يُفَعْرُ لا تُقْدِيهُ لا تُقْدَعُهُ اللَّهُ مُعَيَّهُ بالا تُعْدَيْهُ اللَّهُ مُعَدَّةً إِلَّهُ مُعَدَّةً إِلَّهُ مُعْدَةً إِلَّهُ مُعْدَةً إِلَّهُ مُعْدَةً إِلَّهُ مُعْدَةً إِلَّهُ مُعْدَةً إِلَيْهُ مُعْدَةً إِلَّهُ مُعْدَةً إِلَيْهُ مُعْدَةً إِلَيْهُ مُعْدَةً إِلَيْ أَعْلَ لَا يُفِيسَنَّ لَا يُعَامَنَ ، لَا تُعَيَّسُنُ لَاتُقَامَنُ ، لَا يُقِيسَنْ لَا يُسْامَنُ الْقُلْحِينُ مِنْهُ، مقامَ مُعَلّمان متاحات -است المدلان المس اب كا ابوت وادى خلاف فيكس بغيرتيل كم محجى ببت آيليت سرجيسة أثادك وغيرو -صرف صغير ازباب تَغْعِيْل مُون التَّحَوِيلُ، بِعِيرًا - مِتْ لَعِم ح كَ بِعَاد ا صرف صغير آزباب ميفاً عَلَه يَجْوِل ٱلْمُدَادَعَةُ مَبِيشَى كُرّاس ما ما يا أَن ما صرف صغيرار بابيغل بيون اكتَحولُ: بيسرنا- . صرف صغير ازباب تفاعل في التَّناول. ليب الم

مَن والجُمُوعُ الْمُكَسَّرةُ: بَاعَةٌ، بَيَّاعٌ، بَيَّعٌ، بَاعْ، بُوُعٌ، بَيَعَاتُ، بِيُعَانُ، بِيَاعٌ، بُيُوع، أبْيَاعٌ، 1 أحنه

متقبل معروف : كَدْنِينْ كَمْرَيْبِيْحَا لَمْرَيْبِيْعُوْ الْمُرْتَبِعْ كَدْ مَيْعَا لَمْرَيْبِعْنَ كَدْ تَبِيعْ لَعْ تَبِيعَا كَدْتَبِيقُو الْمُرْتَبِيق َمَرْ بَبِيْنَا لَهُ تَبِعْنَ لَهُ أَرِيعُ لَمُ خَبِّعُ تَسْجَفُ **فَى جَخُبُ بَهِمْ در**فع**لُ سُتِقَبْل مجهول:** لَعُدْ يُبَرَّعَا لَعَرْ يُبَاعَا لَعَرْ يُبَاعِدًا لَمُرْتَبُعَ لَمُرْتِبَاعَا لَمُرْبَيَعْنَ لَعَرْتُبَعَ لَعُرْتُبَاعَا لَعُرْتُبَاعُوْا لَعَرْتُبَاعِي لَهُ تُبْعَن لَقُدْ أَبْعَ لَعُرْتُبَعْ لِلعَمْ أَ بالن ما يجد تفي الدونول ستقبل معروف: ليَبيَّعَنَّ لَيَبِيْعَانَ لَيَبِيْعَانَ لَيَبِيْعَانَ لَيَبِيعَانَ لَيَب لِتَبَيِيْعَانِ لَتَبِيْعُنَ لَتَبِيْعُنَ لَتَبِيْعَانِ لَتَبِيعًانِ لَا بِيْعَنَ لَنَبِيْعَنَ لَنَبِيْعَنَ بحث لام مكي مانون مكيد تفي وزم متعبَّل مجهول: كَيُبَاعَنَّ لَيُبَاعَانَ لَيُبَاعَنَّ لَتُبَاعَنَّ لَتُبَاعَانِ لَيُبَعْنَانِ لَتُبْاعَنَّ لَتُباعَنَ لَتُبَاعَنَّ لَتُباعِرَ كُتُبًا عَآنِ نَتَبَعُنَانِ لا بَاءَنَ مَنْاعَنَ بح**ت لام ماكيد بالون ناكيد خِفيفه ورفع ليُستقبل معروف**، لَيَبيعُنْ لَكَبْرَيْمُ لَتَبَيْعَنُ كَتَبَيْعَنُ لَتَبِيعِنْ لَتَبِيعِنْ لَاَبِيْهِ لَا بَيْهَ لَنَبِيعَنُ بمجهول المُتَعْبَل مجهول المبا ئِيُبًا مِنْ لَتُبَاعَنْ لَتُبَاعَنْ لَتُبَاعَنْ لَتَبَاعِنْ لَأْبَاعَنْ لَنْبَاعَنْ لَبُجَ**عَتْ امرحاضٍ معروف :** بِعْ بيُعَا بِيْعُوْا بِيَعِي بِيْحَا بِعْنَ مَجعت امرحا صرمجهول: لِنُبَعُ لِتُبَاعَالِتُبَاعُوْ النَّبَاعِيْ لِتُبَاعَا لِتُبَعْنَ تَجعت امرغانُب معروف وليتبغ لينبيعًا لينبيعُوًا لِتَبِع لِتَبِيتُنا لِيَبِعْنَ لِأَبِعَ لِنَبِعْ لِنَبِعْ لِمُعَامَ م معروف وليتبع لِيتبع لِيتبع رِيمُبَاعُوْ الِشَبَعْ لِتُبَاهَا لِيُبَدِّنَ لِأُبَعْ لِنُبَعْ **تَجعت امر حاصبر معَروف بالون تاكيد تفتي له: بِيْعَنَّ بِيْعَ**أَيْ بِيُعُنَّ بِيُعِنَّ بِيُعَانِ بِعُنَانِ م**حت امرحاصر مجهول مانون بالجبد نفذ ب**له: يشبُّاعَنَ يشبُّاعَانِ لِشَّبَاعِنَ لِشَبَاعَانِ لِبَهُ حَنَّانِةُ تَجِعتُ إمر عامُب معروفٌ بأثون مأكيب رَنفتيس لمرو لِيَبِيْعَنَّ لِبَيْدَعَ آنَ لِيَبِيعُنَ لِتَبِيعُتَ لِتَبَيْعَا آنَ لِبَهْنُاكَةِ لاَ مِنْعَنَّ لِبَيْعَنَّ مح**ت امرَغاسَب مجبول بانون لكب رَلْفَتِب له:** لِيُبَاعَنَّ لِبُبَاعاً نِ لِيُبَاعَنَّ لِيُبَاعَنَّ لِيُبَاعَنَ لِتَبَاعَانِ لِيُبَعْنَانِ لِأَبَاعَنَ لِللَّهَاعَةَ بِحَتْ المُرْحَرُ مُرْرِف ما نُون مَاكَيْهُ مِشْر، بيْعَن بيعُن ي ن مح**ت امرا**ص مجہول مانون ما ١ مرعا مَبْ مُعروف بالون الجد خضف، إيَبِيْحَنَّ لِيَبِيْعَنَ لِيَبِيْعَنُ لِتَبِيَعَنَ أَذِيتَ لَبَيْ ب بجمول بالون ما جيدتعنيف، إنه عَنْ لِنَبَاعَ لَيَّبَاعَ إِنَّهَا عَنْ لِنَبَاعَ الْمَاعَةُ يَنْبَعَنُ بح**ت بنى حاصر مروف**: كا يَبْعِ لاتَنِيتَ الاتِينِ عُوْلاً لاَ تَبِيْعِيْ لاَ تَبِيتُمَا لَا تَبِعَنَ سَ**جت مَنِي حاصر مجهول:** لَا تُبَعَ لَا تُبَاعَالَا تُبَاعُوا لاَ تُبَاعَ لَا تَبْكَرُ عَالًا تُبْعَتْ بحتْ تَهْي عَامُب معروف: لاَ يَبِيْعُ لاَ يَبِيْحَاً لاَ يَبِيْعُوْا لاَ تَبِيغُ لَا تَبِيغُ الاَ يَبِعْنُ لَا أ مجيول: لَا يُبَحُ لَا يُبَاعاً كَا يُبَاعُظ لا تُبَعَ لا تُبَاعالَه يُبَعْنَ لَا أَبَعْ لَا نَبِيح مجمعت مجتمع معر معروف بالون مالحي _. لَا تَبِيعُنَ لَا بَبِيعَانَ لَا تَبِيعُنَ لَا تَبِيعُنَ لَا بَيِيْعَانَ لَا تَبِيعُمَانَ لَا تَبِعُنَانَ مجمت *بنى حاصَر مجبول بالون الميد* المد: كَرْبُبَاعَنْ لَا تُبَاعَانَ لَا تُبَاعُنَ لَا تُبَاعِنَ لَا تُبَاعَانِ لَا تُبَعْنَانَ تَجْعَنُ تَح عامَ عامَ معروف بالون (نفي الد الديبية مَنْ لا يَبِيتُعَنَّ لا يَبِيعَانَ لا يَبِيعَنَ لا تَبِيتُونَ لا تَبِيعَانَ لا يَبِعُنَانِ لا أبيعَنَ لا تَبِيعَنَ تَمَر ال عَاسُ مجهول بالون تاكيد تفتي أو أديبًا عَنَّ لا يُبَاعَنَّ لا يُبَاعُنَّ لا يُبَاعُنَّ لا تُبَاعُنَّ لا يُبَعَنّان لأواباعَنّ

لَا نُبَاءَة بحث نبى حاضر معروف بالون تاكيد خفيف ، لَاتَبِيتُ لَا تَبِيتُ لَا تَبِيتُ لَدَتَبِيتُ بحث نبى حاصر لمجبول بالون تأكيد خفيفت، وَتُبْبَاءَنَ لَا تُبَاعَنُ لَا تُبَاءِهُ لَحِتْ بَهِي عَاسَبَ معروف بالون تأكيبَ نىيەت، ئايىيىتى ئايىيىيى، لاتىيىتىن لاايىتىن ئالائىيىتى كائىيىتى، تېمىن خاسب مجهوك بالون تاكىد تقني لَا يُبْبَعَنْ لَا يُبْبَعُنْ لَا يُبَاعُنُ لَا بُمَاعَنُ لَا بُمُعَنْ سَجِعَتْ مُسَعِم فَاتِل : مَا يُعَان مَا يَعُون بَا تَعْدَة تُمَا يُعَان بَأَيْنَاتُ بحت اسم مفعول: مَبِيْعٌ مَبِيعَانِ مَبِيُعُونَ مَبِيت مَعَيدَة مَدِيدَة المَ مَدِيدَة ال _تعلب_لارت بالمع ، صبغه داحد مذکر فائب يجت إثبات فعل ماضى معروف - أخل بس بَيَعَ بروُزْن حَسَرَت تفا - يا رمتحرك ، ما قبل مفتوح تقار بر حت الما مت الت يوركوالف مع بدل دياباً مركزن فال موليا - يوكن مركز ما مركب من معايل باً عَدًا تك موك يعتسب الصيغه جمع مؤنث نعائب بجنش ذيات فعل مامنى معروف - اَصْلَ مِن اَبَيَعْنَ برُوْزَنِ طَنَوَ بْنَ تفا - يآرمتحرك فكل مصّت وح تفاء تربقاعدة قال ياركوانف سے بدل ديا - بما عن بوكيا - إجماع ساكنين بوا، درميان الف اور عين كے - العَن كوكرا ديا - بَعْنَ بوكيا محمد فارتكم كوكسرد دياءتاكه يا رمخدوف ير دلالت كري - بِعْنَ بردُنْنِ فَنْ بوكيا - يمي تعليل بِعْسَا يك بوكى بيضيع : حينه واحد ندكر عائب بجت إنبات فعل ماصى مجول - أصل من جمع بروزن حكرت تعا بارير مرو لقیل تھا۔ تو متل مین سے قاعدہ ملہ سے ساتھ نقل کرے ، مانبل کو دیدیا، بعد چھین سیلے ماقبل کی حرکۃ کے بیئے برُوْزِنِ فِعْلَ مِوْكَيا بِهِي تعليل بيْعَنَّا تك بوك بعث : صيغه جمع مؤنتُ عَامَب - بحث إثبات نعله ا مجہول - اَصْل من بُيدَن بروُزُن حير بن نظا - يار بركسروني تفا - تو مُعتل مين ك قاعده متا ك ساتھ نقل كر ك ماقبل كوساكن كرك ديديا- بيثن بوكيا-إجعا يت ساكنين موادرميان يآرادر عين كمه عاركو كراديا-يفن بروزن فلن بردكيا- يهى تعليل بنيئًا كم بوكَّي - يَببين محر، صيغه داحد مذكر غائب يجث إثبات فعل مُضارع معروف وأقلل بس يَبْيِعُ بر دُزْنٍ يَصْبِرِبُ مَعَا-يا محركُ ما تبل جعيع ساكن محا- نومُعْسَ عن ك قاعده منذ ك ساعد بآرك خركة نفس ار آم ما تبل کو دیدی ریدیع ہوگیا ریم تعلیل مُضارع معروف کے اکثر صبغوں میں ہو گی کہ بعث ت، صبغہ جمع مؤنث غائب بجعث إثبات فعل ممضارع معردف وأضل مي يُبتيون بمؤزن يصنو بن كفا-يا متحرك ما قبل محسيح ساكن تعا توبُقا عدماً يَبِيعُ إِمَر كَي حُرْكَة نَعْل كركْ مَاتبل كُوْتَرى يَبِيقُ مَن بِيوكَيا -اجتماع ساكنين شوا درميان يآ / اورعين كحية با ركوكُرا ديا-يَبِيقَ بردُزْن يَغِلُنَ جوليًا- يهي تعليل مُضارع معروف مح ميغه جمع مؤنث حاصر تَدِعْن ميں جوگ يُبتاع ، صيفردا مد مركز غائب يجت إثبات نعل مُضارع مجول - أصْل مِن يُبْبَعُ بِرَوَزْنِ يُصْبُرُ مِنْ الله الماريخ من الكن تقا-تونَقا مدة يُنتُعُ يآركى حَرَكة نُعْل كرك ماقبل كو ديدى يججرياً إساكِن كو، جوكه أصل مين متحرك تحق ، ما قبل معسنون بتوسخ كيوجيس تقاعدة تحال الق سے بدل ديا - يتباع بروزن يغال بوكيا - يسى تعليل مصارع مجهول ك الترصيغوں بي بوگي .

يتبعض ، صيغر مح موّنت غامب - بحث إثبات فعا مُضار مع مجهول - اخل مي يجيعُن بروزن يُضُوّن تقا ريّاء قرك، ما قبل صبح ، ساكن تفار تو بقاعدة يَبِيع يا ركى سَرَكة نقل كرك، ما قبل كو دى ريجر بآرساكن كو، جوكه أصْل مي مخركه بحق، ما تبل مستوح بوسف كى وجست رتعاعدة قال الفت سے بدل ديا - يتباغن بوكيا ماجتائ ساكنين تبوا - درميان القب اد عَبَنَ کے ۔الَفَ کو گرا دیا یہ میکٹن بروز ن کیکٹن ہوگیا ۔ میں تعلیب ل مُضارع مجبول کے صیغہ جمع مؤنث حاضر تبعن میں ہو گی كَمْرِيكِيحٌ، حينه داحد فكر غائب بحث لفى جحت كم دفعل مستقبل معروف سائمل مي كمر يَبْيع بروُزْن لَوْ يصور ب تھا۔ ہم مترک، اقبل صحیح، ساکن تھا ، نو بُقاعدہ یَبدی کھ کیا کہ کھڑکہ نقل کرکے ماقبل کودی لَدُ یَبدیکم ہوگیا و معام ساکنین مُحکوا درمیان یا ، ادر عَیْنَ سکے ۔ یا ، کو گرا دیا کھڑ یہ ج بروز دینے کر کو کہ یونے لُے یُعینے لُے ، کو گیا۔ يالكوك كمرك فرجازم كيوجي كعر ببيترج تهركيا ويجفاع ساكنين تجؤ درميان يآءا درفتن كمطايا كوكرا ديكفر ببغر برؤزن كعر يَفِلْ بِحِلِّيا لَسْفَرِيْبَعَ^حَ، صيند ماحد مذكر غائب ربحث نفى بحث دَنَم درفعل مستقبل مجهول - أَصْلِ بِي كَفْرِيْبَيْعَ بروُزْنِ كَفَرْمَعْوَنِ تحط یآ ر متحرک ما قبل صبح ، ساکن تصا - تو بقاعدهٔ یَبینیم یا رکی خرکهٔ نقل کر کے ما قبل کو یک یا رساکن کو ، جوکه اُعش میں مُعرک تمتی ، ما تبل معنتوب مجوف كى وجد مصالف مس بدل ديا - كمو كيباغ بوكيا واجتماع ماكنين بهوادرميان القت ادرعيّن ك - الف كوكراديا -لَعْرِيْبَعْ برُدْزِنِ لَعَرْفِعُلْ يوكَيدِ باليُون كريباغ برجب كم جازم داخل بوًا، توكفه ميكي اجتماع ساكنين مُجا درميان الضّ او عيتن ك - الف كوكراديا- لكريم بروزن كفريقل بوكيا - ف اعتداد ما مرغائب معروف ادري معروف من شل نفى جمير محروف کے ادرا مرحاصر مجبول، امرغا مُب مجبول، نہی مجبول میں مثل نفی جنگ مجبول کے تعلیل موگ ربغ ، صیغہ داحد مذکر حاضر بسب امرحاض معروف - اصل مي إنبية بر وَزَن إختر ب عفا، يَار متحرك ما تبل صحيح ، ساكن تحقا به تدبّقا عدة يُبيّع بآرک خرکته نعل کمی ما تبل کو دیدی - بهتره و نسل کو صروره ند سب کیو جیسے گلادیا - بیٹر ہو گیا - اجتماع ساکنین میوا در سان يا َ را در عين ك يا ركوكا ديا - برخ بروزن رف ل موكيا - يا يون ك يه نبايا كيد ب تدييم سامس طرح كه علامة ممضا رع كودكت ٱخري حالةِ وتفى بِدِكُروى بديم توكيا - إجتاع ساكنين بركوا درميان يآرا درعتبن في - يآركوكوا ديا بعثر بروُزُنِ فول بوكي بغن حيند جمع مؤنث جاجز بجث امرحا ضرمعروف - أصل مي المبيعُنّ بروُزن إختر ثين تقا - يَثِّل بِحْر كَ تعليل بوك بَ بَكْ وغير من اجتماع ماكنين مدرمينه كيو حبت حرون علَّة والب أكَّيا تسبب أيَّكُما تسبب أصل من عنه واحد مدكر يجت السب فاعل - أعس من بَا يِنْعُ بَرُةُ زِنِعْمَا دِيْبَ تِحا - يَ آرْ لَمَا عِلْ م م القَ ك بعد واقع مولى - تومُعل عين ك قاعده م ك كسائد م وسع بدل ديا بَادْ مَحْ بَرُدْرْنِ مَا يَوْلُ بُوْلًا صَبِيتُ عَلَى مَعْدِدُ مُدَرّ مِعْتُ أَمِ مفعول أَصْلَ مِ مُنْيُوع مُ برقُزْنِ مَصْدُود مج تما - يا مُحَرك ما تساب محرم ساكن تفا- توبقا عدة يبيع يآركى حركة نقل كركمه ما تسل كودى - مبيع عظم جوكيام اجتمايتا ساكنين بوادرمان بأرادرواذ کے یار کو کر دیا ۔ مَبْوَع ہو کیا ۔ نمار کم یے مند کو کسرو سے بدل دیا . تاکہ داللہ کر سے آء مخدوف پر ۔ مَبق ع موکیا - بھرداؤ سار كوماتيل محسور بيسف كيوجي يامس بدل ديا - مَبِينة جُ برقُزْنِ مَعِنين لا جوك -- يا يُون كه مُبْيَغ على صمرً با كوياً. كان البيت

كسره سے بدل دیا ، پھراجتماع ساكنين تموا - اول كوكرا دبا ، موسوع بتوكيا يہ پھر تقاعد موقون طافر كويا د سے بدل ديا مرين كرون موليك ہوگیا۔ یایوں کہ مُبْتَدِ عظمیں آرکو اقبل صغوم ہونے کیوجہ سے بُرْقاعدہ صحفت کُواڈسے بدل دیا صَبُو ڈع ہوگیا ۔اجتماع ساکنین کی وجس يبط داؤكوكرا ديا - بحر بآر كم صمدكوكسره س بدل ديا - اكد دلالة كرب يات مندوف ير - مبوع مح بوكيا - بحركبة عدة بمزان دادَ كو آب برل ديا- مَبِينَة بروزن عَفِيْل جوليًا تَكْبِيتُهُ ، صيف دا خُذْتَ بحث الم المُرف أصل من مبتيح برقذن مصرود تفا- يار متحرك ، ما تبل محيم ، ساكن نفا- تد بقاعدة يبيتر يارى موكة نقل كرك ما تبل كودى - مبيني مردزن مغيل موكيا تحسك الع رمنْ مَعَادِلُ كابِن اصل يب مَبَيَتِكُم ، ميدوامد خرمُصَرَّر بحث اسمِ ظُرُف - أصل مي مبتيبة مردُزن مصنيوب تحار دوحرف ایک جنس کے دانع بوئے ، اوّل ساکن نفا - تو مُضامعن کے قاعدہ سل کے ساتھ اوّل کا ٹانی میں ا دغام کردیا -مَبَيِّتِه مُرَدَنِ مُعَقِقًا مُركيا - يهي تعبيل اتم الدداسي تفضيل كم تصغير كمصيون من بوكي معبَّتُه محمَّة وخيرة أيم الدكت تمام صيغ المُثَنَّ مِقْدَلُ دَينِر كابِي أَصْلِ بِنِي أَسْبَيح ، وعيرواسم تفعنيل مُرَح كم صيف شل أَقْدَلُ مُعنر وكابِي أَضل پر بن بَح يعي صينه واحد مؤنث بمت المي تغضيل وأضل مي مبيح براوزن حضر وبب تعا - يارساكن كو ما قبل مضوم بحد نعاكى وجر مس بقاحب و مُوسى دادَت بدل ديا، بُوْعَا بُرُوَزُنِ فَوْلَى بَوَكِيا تَمْبَكِيْعِنْ ابْنِي أَصْلَ بِرَبِ دوسرى يآسك ساكن جون كيوجب عط فا ابني صرف صغير فعل تُلاتى تحريد مُنتَلَ العبين اجوف يائى إزباب سوم فَعِلَ تَقْعَلُ يَحْوِل المهديب في درا علامتراس باب کی تین کداری ماصی می عین کلمیکسورا در مضارع می صف توح بوزای ----حَابَ يَهَا جُ هَيْبَةٌ ، فَهُوَهَايَتِبُ رَوَهِيْبَ مُعَابُ هَيْبَةٌ ، فَذَالتَ مَوِيبُبُ مَاهَابُ مَاهِيْبَ ، لَعْ يَهَبُ لَعْ يُهُتُ لَا يَهَا بُ لَا يُهَابُ ، لَنْ يَتَهَا بَ لَنْ يُتَهَابَ ، لَيَهَا بَنَّ كَيْهَا بَنَّ لَيْهَا بَنْ أَلْأَمُومِينَهُ ، هَبْ لِتَهْبَ ، لِيَعَابُ اِيُبُهَبْ، هَابَنَ لِنْهَابَنَّ بِلِيهَا بَنَّ إِيمَابَنَّ ، هَابَنْ لِتُهَابَنُ ، لِيهَا بَنْ لِيهُابَنْ ءَالنَّحُمينَهُ ، لاتَهَبْ لَاتُهْسَبْ لَا يَفَبُ لَا يُفَبَ الاتْعَابَنَّ لَا تُعَابَنَّ الا يَعَابَنَّ لَامِعَابَنَّ الْاتْقَابَنْ لا تُقَابَنُ الديمَابَنُ لا يُعَابَنُ لا يَعَابَنُ لا يَعَابَنُ الظّرِي مِنْهُ مَعَابٌ مَعَابًانِ مَقَايِبُ وَمُعَيِّبٌ وَالْأَلْةُ مِنْهُ: مِعْيَبٌ مِعْيَبًانِ مَعَايبُ وَمُعَيِّبً مِعْيَبًا مَهَابِبُ وَمُهَيِّبَةٌ مَعْهَيَابٌ مِهْيَابًا ذِمَهَا يَذِبُ وَمُهَيِّنِيْ وَالْعَلْ التَّفْضِيلِ المُدَ حَصُمِينَهُ، أغْذَبُ هُنَا ٱلْجَيَبُونُ أَهَايِبُ وَأَهْيِبْ وَالْمُوَنَتُ مِنَّهُ ، هُوَ إِنَّ هُوُ بَيَّانَ هُو بَيَّاتَ هُيَبُ وَهُيَا مرض يستراز باب انتخال - فجون الاختبيار : بديكرنا بشل الاقتينياد . - - - حرف مغراز باب متبعقال بحرد الاشتغار في بعلال لما بنا يشل لانسنيقلدة مسبع - حرف معراز باب المُفعَال يحول الإنهتياد ومحمَّنا مِثْل الانْعَيَاد مسبع - حرف معراز بالملك مُوَّلِ ٱلْاطَارَةُ»، أمَّا الشِّلِ ٱلْاتَحَامَةُ لَسَبِ صَرْضِع إن الْقُوْلَ بَجْل ٱلنَّذِي فِي، مُرَّنِ كُوْ ابن أل بها مرف مغرار باب غائلاً رجل المُبالغة، بعيت كرنا- إني أصل مرجب مصرف صغير ازباب تفضَّ جمَّن المتحدَّق حران مونا- إني أل برب معرف صغرارًاب تفاعل بحول التصباية ، ايك دوسر الوادديا - اين اصل برب -

ود (⁽⁾ ۾ پَرَ معين اللام (ناقص اوی) فٍ صغيفول لا في مُرَدِّ مَعْمَلُ اللّام باقِص ادى از باب اوْل فَعَلَ لَفْعَلُ عَلَيْ عَلَ مَعَالًا فِي مَا ا والذعوة ببلانا علامترأس باب كاشب كماسي يعنى عربكم يفتوح الرضائع برصمور تونا بر-دَعَا يَدْعُوْ دُعَاً * ذَدْعُوَةٌ مُ فَهُوُ دَايعٌ - دُدْعِت يَدْعِي دُعَاءٌ وَدُعُو تُوْفَدُ إِلَى منذ عُوْر لَا يَدْعُوْ لَايُدْعَى الَنْ يَدْعُوكُنْ يُدْعَى، لَيَسُ عُوكَ لَيسُدْ عَلَيْنَ ، لَيَسَدْعُونُ لَيسُدْ عَيَنْ أَلْآ مُوْمِينَكُ، أَدْعُ لِسَبِ نَ عَ لِيَكْحُ لِبُسَدُعَ الْمُحْطَىٰنَ لِيسَدْعَكَنَّ ،لِيسَدْعُونَ لِيسَدُعَكَنَّ ، أَدْعُونُ لِنسُدُعَيَنَ ، لِبَدْعُونُ لِيدُعَيَنُ وَالنَّحْصَيْبَةُ، لَا تَنْدُعُ لَاتُدُعُ مَا لَيَدْعُ لَا يُدْعَ ، لَا تَدْعُونَ لَا تُدُعَيْنَ ، لَا يَدْعُونَ لَا يُدْ عَيَنُ، لَا يَدْعُونَ لَا يُهْ عَيَنُ ٱلْظَوْفُ مِنْهُ * مَدْعَى مَدْعَيَانِ مَلَاحٍ وَمَدَ يُرْجِ وَالْأَلَةُ مِنْهُ : مِدْعَ مِدْعَيَانِ مَدَاجٍ وَمُدَيْعٍ مِدْعَاةً مِدْ عَانَانِ مَدَاعٍ وَمُدَيْعِيَةً مِدْعَلَةً مِدْعَاتَانِ مَدَاعِتُ وَمُدَيْعِتُ وَانْعَلْ التَّفْضِيُلِ السُذَكُرمِينَهُ، إَدْعَ ٱدْعَيَانِ أَدْعَوْنَ أَدَايِع قُادُمَة وَالْمُوَتَنَتْ مِنْهُ : دُعْيى دُعْيَكِانِ دُعْيَكَاتُ دُعْ وَفُعْ عَنى صن ڪير بحث إثبات فعل ماضى معروف ، دَعَادَ عَوَادَ عَوْادَ عَتْ دَعَتَادَ عَوْنَ دَعَوْتَ دَعَوْتُهُادَ عَوْ تُعَدِّعُ دَ حَوْثُنَ ذَحَوْثُ حَدَثُ مَعَوْنًا مَجْمَتُ إِثْبَاتَ فَعَلَ اصْحَمْجَهُولَ : دُعَى دُعِبَا دُعُوْا كُرِمِيَتْ دُعِيتَنَا دُعِينَ دُمُعِينَتَ دُعِيْنَهُمَا دَمِيدَسُفُرُهُ عِيْتِ دُعِيْنَهُمَا دُعِيْنَةُ، وعِيْتُ دُعِينَنَا بح**ن فَضْ عَلْ مَصْ معروف،** مَا دَعَامَادَعُوَا مَا دَعَوْا مَا دَعَتْ مَا دَعَتْا مَا دَعَوْنَ مَا دَعَوْتَ مَا دَعَوْتُمَا دَعَوْتُ مَا دَعَوْتُنَ مَادَعَوْتُ مَادَعَوْنَا كَبِح<mark>ْتُ فَعْلِ مَامَنِي مِجْهِولِ ، مَا دُبِيَ</mark> مَا دُبِيَامًا دُعُوْا مَا دُبِيتَ مَا دُبِيتَ امَا دُبِينَ مَادْ عِيْتَ مَادْ عِيْتُهُاماد مِيتُعُرُماد مُعِيْت مَاد مِينْتُ مَادْ عِيْتُ مَادْ عِبْتُ مَادْ عِيْتُ الْجِن الْبات فعس مُسارع معروف: يَدْعُوْنِدْعُوَانِ يَدْعُوْنَ تَدْعُوْ تَدْعُوْنَ يَدْعُوانِ يَدْعُوْنَ تَدْعُوْنَ تَدْعُوْنَ تَدْعُونَ تَدْعُونَ لمُجْ الْجُمُوعُ الْمُكَسَّرةُ: دُعَاةً، دُعَاةً، دُعَي، دَعْي، دُعُوّ، دُعَوَ آءُ، دُعُوَانَ، دِعْوَانَ، دِعَاة، دُعِيَّ، أَدْعَاءً، ٢ ا منه ت مدفا دان خواندن بمجائزاست. برقاعد نيكه دركتب حرف مخوندكورست، كه أكر بمز دمنقلب بودا زوا واصلى، يا يا به اصلي ع کِسَاحٌ ودِ ذَاحٍ بِس دَرْمَيْنُدُاُهُ، دَوْ وجرمانُزا ندرل اثبات بمسده حجوں کِسَاحًانِ ورِ دَاحًانِ بوج مُشابه إدُوب بجزه فَتَلَحُ ان، تعلب بمزه بوآة تجول كيسًادًان ودِدَاوًان - بَدوج مُسْابَه، أو بهم سدة حدد آخر مساه من م

تَدْعُوَانِ تَدْعُونَ أَدْعُوْنَدُعُ بحث إثبات فعل تُضارح مجهول، يُدْعُب يُدْعَيْان يُدْعُونَ تُدْعِل تُدْعَيَانَ يُدُعَيْنَ تُدْخِبُ تُدْعَيَّانِ تُدْعَوْنَ تُدْعَوْنَ تُدْعَانَ تُدْعَانِ مُدْعَانَ مُدْع نُدُع نُد معروفٌ ، لَا يَدْعُوْ لَا يَدْعُوَانِ لَا يَدْعُوْنَ لَا تَدْعُوْ لَا تَدْعُوَانِ لَا يَدْعُونَ لَا تَدْعُوْ لَا تَدْعُوانِ لَاتَنْ عُوْنَ لَا تَدْعُو لاَتَدْعُوانِ لاَتَدْعُونَ لَااَد عود لاَنَدْعُو مجمع فعل مُصارر عجمول الأيد علامي في لاَيد عيانِ لاَيد عون لاَيد ع لَا تُدْعَيَّانِ لَا يُدْعَيْنَ لَا تُدْعَى لَا تُدْعَيَّانِ لَا تُدْعَوْنَ لَا تُدْعَيْنَ لَا تُدْعَيّانِ لَا تُدْعَيْنَ لَا تُدْعَى لفى تكركبُنْ دفعل مُسْتِعْبِل معروف، لَنْ يَدْعُوَكَنْ يَدْعُوا لَنْ يَدْعُوَا لَنْ تَدْعُوَا لَنْ تَدْعُوا لَن تَدْعُوَكْنْ تَدْعُوَاكُنْ تَدْعُوَاكُنْ تَدْعُوَاكُنْ تَدْعُوَاكُنْ تَدْعُوَاكُ لَنْ أَدْعُوكُ لَنْ أَ دُعُوكُ حقيل محمول : أَنْ يَدْعَى لَنْ يَدْ حَيَالَنْ يَدْ عَوْالَنْ تَدْعَى لَنْ تُدْعَيَا لَنْ يَدْ عَلَى لَنْ تُدْعَ لَنُ تُدْتَى لَنْ تُدْعَيَّا لَنْ تُدْعَيْنَ لَنْ أُدْعَى لَنْ نَتْ عَدْ عَيْنَ لَنْ أُدْعَى لَنْ تَتُوعَى الم لَمُ يَدْعُ لَمُ يَدْعُوَا لَمُ يَدْعُوْا لَمُ تَذَعُ لَمْ تَدْعُوَا لَمْ يَدْعُوْنَ لَمْ تَدْعُ لَمْ تَدْعُوا لَهُ تَدْعُوا لَمُ تَدْعِد لَعُرْ تَدْعُوا لَمُرْتَدْعُونَ لَعْرَادْعُ لَعُرْ نَدْعُ تَجَتْ نْعَنَى حَجْتُ رَكُمُ ورفعا مُسْتَعْبَل مجهوك ؛ لَعُرْ يُدْعَا لَمَ يُذَعُوْا لَعُرْبُذُعَ لَمُرْتُدُعَيّا لَعُرْبُدُعَيْنَ لَهُ تُدْعَ لَعُرْتُدُعَيّا لَعُرِيتُهُ عَنّا لَعُر أُدْعَ لَعَرْ نُدْعَ بحث لامٍ ماكيد بالون ماكيد تقي له ورفعل مُستقبل معروف : لَيَدْعُوَنَ لَيَدُ عُوَا فِلَدُ عُنَ لَتَدُعُونَ لَتِدْعُوَانِ لَيَدْ عُوْنَأَتْ لَتَدْعُونَ لَتَدْعُونَ لَتَدْعُونَ لَتَدْعُونَ لَتَدْعُونَ لَتَدْعُونَ لَتَدْعُونَ بحت لامم ماكبيد مانون ماكيد تعتب لمدر معلم مستغبل مجبول: لَيْهُ عَيَنَّ لَيْهُ عَيَانَ لَيُدْعَوْنَ لَتُدْعَبَنَ تَتُدْع لَيُدْ عَيْنَانِ كُتُدْ عَيَنَ لَتُدْعَوْنَ لَتُدْعَوْنَ لَتُدْعَوْنَ لَتُدْعَيْنَ لَتُدْ عَيَانِ لَتُد عَيْنَان ى كاكبىر خفيصه ورتعال متلقبل معروف ؛ لَيَدْ عُوَنَهُ لَيَدْ عُوَنَهُ لَتَدَ عُوَنَ لَتَدَعُونَ لَتَدَعن لَتَدَ لام ماكيد مالون ماكيد خفيفه ورفعل مستعبل مجهول: لَيُدْعَيَنُ لَيمُدْعَوْنُ لَتَدْعَينُ لَتُدْعَينُ لَتُدْعَون لتد عَبِن لَا يُحْتَيَنُ لَبُدْ عَيَنُ لَجُفُ امر حاضر معروف، أَدْعُ أَرْعُوْ الْدَعُوْ الْدَعُوْ أَدْعُوْ أَدْ مجهول، لِتُدْعَ لِتُدْعَدًا لِتُدْعَدًا لِتَدْعَتْ لِتُدْعَدًا لِتَدْعَدُ اللَّهُ مَعْدَلُ مُجْتُ الرغا سُ معروف وليتد عوالية تُعُوْا لِتَدْعَ لِنَدْ عُوَا لِبَدْعُوْنَ لِاحْتُحُ لِنَدْعُ تَجَعَتْ المرغاسَ جَهول: لِيُنْعَ لِيُحْتَظَ لِيكَ عَوْا لِمَدْعَ لِيُدْعَنَّ لا في المُدْع المُدْع بحث امرحا منر معروف بالون تاكيد لقتي له: 1 مُدْعُونَ أ وعوان ا وُعْنَ المُدْعِن ا وُعُوان ا وُنونان بحث أمرحا حر ثجهول بالون تأكيد تقتله؛ لِتَدْعَيَنَ لِتَدْعَيَآنَ لِتَدْعَدَوْنَ لِتَدْعَيَنَ لِتَدْعَيَآنِ لِتُد امرغاسب معروف بالون مكيد تفيسله: لِيد عُوَّنَّ لِيد مُحَوَّانَ لِيد عُنَّ لِتَدْعُونَ لِتَدْعُوانَ لِيد مُوْنَاتِ لِدَعُونَ لِنَهُ مُحَوَّنَ مجعتُ امرغا مُب مجهول باون مَكْبِرَتْقَيْلُه: لِيُدْ عَيَنَ لِيدُ حَيَانَ لِيدُ حَوْنَ لِعُدُ عَيَنَ لِعُهُ عَيّانَ لِيدُ يَعْنَان

لِاُدْ عَيَنَّ لِنَّهُ عَيَنَّ تَجِتُ امر حاصر معروف بالون ماكيد خفيفه: أَدْعُونُ أُدْعِنُ أُدْعِنُ ا ما كيد تفيضه، لينهُ عَيَّنَ لِينَهُ عَوْنَ لِتُهُ عَيْنُ تَجعتُ امرغا سَب معروف بالون ماكيد تفيفه : ركيدُ عُونَ ليدُعنُ لِتَذْعُوَنْ لِادْعُونْ لِنَدْعُونْ مجعتْ امرْغَامُب مجهول بِالْوَنْ مَكْبِرِحْفِيفَد : لِيدْ عَيَنْ لِيدْعُونْ لِتُدْعَيْنُ لِلْدْعَيْنُ لا يَدْ عُيَنَ مَجعت بنى حاصر معروف ، لا تَدْعُ لا تَدْعُوًا لا تَدْعُوا لا تَدْعِي لا تَدْعُوا لا تَدْعُون مجه ف منهى حاصر جميول لا تُدْعَ لَا مُدْ مَيَّا لَا مُدْعَوْ الدَّنْد عَنْ لا تُدْعَيَّا لا تُدْعَيَّا لَا تُدْعَنُ سجت بني غا مُب مروف ، لا يَدْعَ لاَيَدُ عُواً لايَدْعُوالاتَدْعُ لاتَدْعُوالايَدْعُوْنَ لَاادُع لاَنَدْعُ بحت بنى عَامَب مجول: لايدُع لايد عَيالايد عوا كَ مُدْعَ لَدَ مُدْعَيَا لَا يُدْعَيْنُ لَأَ أَدْعَ لَا مُدْعَ مُجمت بَنِي حاصر معروف بالون ماكيد ثقيب لمه: لا مَدْعَوُنَ لا مَدْعُوَات لاَتَدْ عَنَّ لاَتَدْعِنَ لاَتَدْعُوَانَ لاَتَدْعُوْنَاتِ تَجْمَتْ بَنِي حَاصَر مجهول الون اليد تغييب له ؛ لا تُدْعَيَنَ لاَتَدْعَيَاتِ لَا مُدْعَوْنَ لَا مُدْعَينَ لَا تُدْعَيَا بِآلَا تُدْعَدُنَانِ تَجْعَتْ **بَنِي عَامَبِ مُعروف بالون ت**اكيد تقيله، لاَيد عُوّ ت لَدَيَدْ عُوَانِ لَايَدْ عَنَّ لَا تَدْعُونَ لَا تَدْعُوانِ لَا يَدْعُونَانِ لَا ادْعُونَ لَا أَدْعُونَ لَا أَد مَاكْمِبْ رَفْقِيلُه، كَدُمْدَعَيَنَ لَدُيْدُعَمَانِ لَايَدْعَوُنَ لَا تَدْعَيَنَ لَا تَدْعَيَنَ لَا يُدْعَينان معروفت بالزن اكبيذ عنيفه، لا تَدْعُوَنْ لاتَدْ مِنْ لَاتَذْ عِنْ سَجِعَتْ مَنِي حاصر مجهول بالون اكبير تعنيفه، لاتُدْعَيَنْ التدعرة لافتد عين تجت منى غارب معروف بالون ماكية فيغم ، لايد عود الديد عود الديد عود الدر عود الديد عود الديد ع بحت منهى عائب جمول بالون تاكب رُخص فد لايد عَيْنَ لاَيد عَوْنَ لاَتُدْعَيْنُ لاَيَد عَيْنَ لاَيُد عَيْنَ لاَيد فاعل بَحَاجٍ دَاعِمَانِ دَاعُونَ دَاعِيَةً ذَاعِيَةً وَأَعِيدًانِ دَاعِمَاتُ تَحِمَتُ سَمِ مُعْجول: مَدْمُوتُمُدْعُوَّ إِن مَدْمُوتُ مَدْعُوَّ مَدْعُوَّ مَدْعُوَّ مَدْعُوَّ مَدْعُوَّ مُد تعبالاس دُعَاقً ، مصدراز إب نُعَرَ - أَصْل من كما و بروزن مُعَالٌ تعا - وآدالف نا مُك بدرطوف من واقع توا - تومُعل لام ك قاعدد مد محسا تد وآد كوم وس بدل ديا - ديماً المروزي نعام بوكيا حد عاً صيغه دا حد مركز عائب بحث إثبات فعس امنى معروف - أمنل مي دَعَوَ، بردُرْين نَعَسَرَ تِما - وأكَر مَعْرك، التَبل معستون تقا- تُرتِقاعدة قَالَ، وآذكو القَن س برل ديا - حكابروُزْنِ فعًا بوكيًا كم عكواً: صيدَ شنيه مذكر ما نب يَجت إثبات تعل اصى معردف اين أقل بيب القيت تتنيه كيوجي تعليل نهي بوئى تحد عكوا : ميبغرجي ، ترغائب بحث إنهات نعل امنى معروف - اختل مي دُعُونوا بون في موقوا تما- واومتوك ، ماقبل معنتون تعارتو بتواعدة حُلّ ، دار كوالف س بدل ديار كالو بتوكيار بتماية ساكنين تجوا ، درسيان لف اور قادَ کم - آلف کوکرادیا که عدا بروزن فعد الهوکیا تح عکت ، صیعه دا حد مونت عائب - بحث إثبات فعل ماضی موج اكْتَل بِي دُعَوْتُ، بردَزْنِ نُصَرّتْ تحا - وادُمتحرك ، ما قبل مغسرو متا - توبّقا عدة قال - دادَكوالعنيس بدل ديا دَمّا متُ بوكيد إجماع ساكنين فيوا ، درميان الفقر اور آرك - الق كوكرا ديا دُعت بدوزن مُنت بوكي حرعتا ، بروزن فعتا -

رشُل دَعَتَ تعليل بوكى - يونكر تآر حقيقة "ساكن ب- فتر، العن ك وجست عارمنى ب ، في يكى، حيد دامد الرّ فاب رجد إثباتَ فعل احتى مجول أصل مي دُحِوَّ بروُزْنِ نُصِّسوَ تِعا- وَأَوْ لاحْمَتْمَ بعدِكمو ما قع بُوا - نومُتَعْل لام م عقاعده سا- محالت واذ كولكوس بدل ديا- درى برونن في بروك سري تعيل مرعياي بركى د عود ، معد جع مذرغات -بحت انجات فعل ماصى مجهول - أصل مي حريقو ولابر وَزْن فيصيدو والتحاب وآوَ لام كمه مي بعد كسرو واقع بُوًا - توبقاعدة دي واوكريآر مع بدل ديا - يآرمضوم بعديسرو داقع بولى ، جسك بعد داوسكن مقا- لويآر بمنمة شيل بوف كيوج ي معسَّل ا لام مح قاعده سلا محد التد نقل كرك ما تيك كوديديا ، بعد جين ين الف أمس ك خركة كم يجر يآد ساكن كو ما تجل مضموم بوف كيوجي بقاعدة فيقت أواكست بدل دياب ومعود بوكياب اجتماع ساكنين بكوا ، درميان دو داقيك ، اول كركرا ديا- يحتظ بروزن فعوا بوكيا - يا يون تعليل كي مات، كم وعود والمر والآ يرضم في محا- تعل كرك باقبل كو ديديا، بعد جسي لين اس کرز کے ساب دوداد ساکن جمع ہوئے - اول کو کر دیا۔ دعوا بوزن بعو اہو کا کہ عبیت، سے د عِنْنَا يَكُ ثُل مرى كم تعليل بوكى والبتد مع موتَّث غائب س أخرتك يآر ساكن بوجات كي شِل محين كم يتب تحقق أميغ واحد ذكر عائب يمجث إثبات نعل مُعارع معروف -- أخمل من يَدْعُوم بروُزْنِ تَيْصَومُها منهم وأدَّ يرتقيل تحا- توصحت للك کے قامدوست کے ساتھ وآؤ کوساکن کرایا - تیڈ محو بروڈن تف کل برکیا ۔ بچ تعلیل تذعو ، اذعو ، مَذعو من برگ تي تحقق حيد جمع مذكر ما مُب - بحث إثبات فعل مُصار عمع وف - أمثل من يَدْ مُوُدْنَ بُوَنْنِ يَنْصُرُون محاد ما ومتحرك لام كمرس بعدمتمة حاقيه محاءا درامس بدرقا وساكن تمات توششت لام كم قاحد مق كمساتة متركوتعيل بمن كيوجيت م گرا دیا۔ ابتحاع ساکنین بوا ، درسیان در دا تو *کے ی*ا او*ل کو گ*را دیا ۔ یک عوّن بیک نین یک موت سوکیا ۔ یہ تعلیل جن نگر مامزتَدْ عُوْنَ مِن مِملًا بَيتَ عُوَنَ، مسيند من مؤنت خاب - بحث إثبات لعل تُفارح معروف - إين أَصل ي كَذَا يَدْتُون ، معيذ مع مؤنث حاصر مستقد عين : معيندوا مدمونت حاصر محت إثبات لعل مُفار مع معروف - أصل يس تَدْعُونَنَّ بروُزْنِ مَنْصُرٍ مْنَ عَما - وأو محسور بعد صمر واقع بُواء ور المس ك بعد يار ساكن على - تو والو يكسر تعيسل میونے کی وجسے مُتَتَن لام کے قاعدہ بل کے سائندنقل کمکے، ماجل کو دیدیا ، بعد چین پینے اس کی خرکہ کے - بچر قادَ ساکن کو اقبل محسور مدینے کی وجیسے بآر سے ہدل دیا ۔ تنظیمیتین برایا ۔ اجتماع ساکنین مجواد رمیان دریا رکھے ۔ اول کوکر دیا ۔ تْدْعِيْنَ بِرُدْنِنِ نَغِيْبُنَ بَرْدًيا صَ**مِيتُ عَنْيَ جَعِين**َه دامد مُدَكِّرُ فائب رَبحت إثبات ضل مُضار ما مجهول - اُصْل مِن مُدْعَوْم برُدُنْنِ مُيْضُمُ الما- وأو الحمدس يومع بكرما في تركوا ، البل كى تحركة أمستكن مُوافق ندمنى - تو بُقاعة أخل الأكولية سه بدل ديا - يذ تحف موكيا بر يريد متحرك ما قبل مغتسو ح كوبَّقًا عدة كَالُ العَبْ ستع بدل ديا - ميد عن بعدَّن ميغي بركما - يريتسبيل منذ على ، أذعن أنذعت یں ہوگی میں من عیکان ، بر قاعدہ میڈ علی میرف واؤ کو یار کیا۔ سرط ملک نہائے مانے کیوجی ، بر قاعدہ قَال یارکو الف مصنبي جدلا - تُصَدّ عَدَّينَ ، صينه جمع خدر غائب ربحث إنبات فعل مُضائبًا جمول - أصل مي مدة عَوَّوْنَ ، تُزْلَد

من موقن تحا- واز ، کلم میں چرمتی جگر دانیے ترکا ، ادر ماتبل کی تحرکہ اسٹ موان زمتی ۔ توبقاعدۂ میڈ عیٰ واؤ کویا ، سے بدل پا يدْعَمون بوكيا يعريآ متحرك كو، ماتبل مستون بوسف كيومست ، بقاعدة قال الف سه بدل ديا - ميذ عَادْن بوكي - إجماع ساكنين مُبَرًا، درميان الفَّ ، ادر داقو ك - العن كوكرا ديا مي يحتون بردزن يُفعون بوكيا- يرتعليب ل ميد وجمع الركر حاصر مجهول كَذْعَوْنَ مِن بوكُ لَصِلْ عَكَيْنَ: صيغه مع مؤنث غائب - بحث إثبات فعل مُغاربًا جمول - أَصْل مِن يُدْخُونُ برُوْزِنِ مِنصَوْنَ تَعَام وَآوَ ، كَلَّم مِن جِحْدوا فع بُوًا، اور ما تبل كَ خُرَكَة أُسَكُ مُوافق زمتني سه توبقا عده بعرعيٰ، وآذ كوبا آس بدل ديا - يدعين برون يفعين برديا - وكذا تدعين ميد جمع تونت ماضر ست تعين ، حيد دامد مونت ماجر-بحت دا ثبات فعل مُضار مع مجهول - أصَّل مي تُدْعَدِونُنَّ ، بروُزُنِ شَفْسَدِدِينُ خطا- وآدَ ، كله مي جومعي مجكه واقع مُرُوا، ادر ماقبل كم كَرْكَة أمس كم مُوانِق مر محق - توبَرة عدة ميذعى والأكويات بدل ديا- تُدْعَد ني بوكيا- محريات متحرك كو، باقبل شترح مجوسف كى وحبيصه، برقًا عددة خَالَ الق س بدل ديا - تُدْعَا بْنَ بوكيا - اجتماع سأكنين بركوا، درمبان الف، ادريار ك ال كوكراديا- تد عَيْنَ بَرُوْلَنِ تَفْعَدَيْنَ بَوَكَيا كَتْهُدْ **جَدْتُ عَ**، صيغه داحد مُدَر غائب سبحث نفى تجسُد بلكم درخل مُستخل موت اقْس مِن لَعُرْبَدِعُوْ ، بردُزُنٍ لَعُرْبَيْصُوْ نِفا - حالةٍ جُزْمى كيومست ماذكركراديا - لَعَرْبَدُع بردُزن لسبغ يَعْدُ رُه كَس كَ فَرْضُكُ عَلَى ٢ ميذه مَدَر رغامب بمحمث نعى محت رئم درول مستقبل مجهول - أصل من كعد ميدوي ، بروزن كمد يفتي تما - حالةِ جَرْحَى كَى دجر عصر العب كوكراديا - تعريبُ عَرَدُن كَوْ يَعْتُرُ رَمُّ كَي كَتَبْ سَبْ حَمَنَ ، صيغه جي ندكر فائب ربحث الام تأكيب د بالون تأكيد تفتيب له در نعل مستقبل معروف - أص ي أيدَ عُوْقٌ بركُذُن لَيفُعُونٌ مخار إجتماع ساكنين على غير صَدْ م وان ہُوا درمیان وار اور اور اور نون کے معلاساکن واؤ مدہ تھا۔ تو معت ل "م کے قاعدہ عد کے سامندوا و کو کرا دیا۔ لیک عشق برُوْزِنِ لَيَعْصُ تَروكيا - لام كم كمر واوْن مصارع من يعلم م كرميكا ب - ولذا كتَ رض كم كما من معد واجد وز حاصِر بعث لام ماکید بانون تاکید تشیب له درفعان شتقبل معروف ، أصل مي كت مين ، بروزن كتفقي في محار اجتماع ككين على خير مَتر و واقع مُوًا ، ورميان يآر اور نون ك ، بيلا ساكن مده تمعا - توسست لام ك قاحده مد كم سائد يسب ساكن بآر كوكردا. لتدمينَ بروزن لَبَفَعِينَ بوكيا-لام كله وآو، مُضارع مي بيل ي كريجكا ب للمحمد عوت، صيغه مع مُزَّمَعاب بحث لام أكيد الون كاكيد تقيب لمرديفل مستقبل مجول - أمس مي كَيْدُ حَوْنَ برَعُزْنِ كَيْفَعُوْنَتْ تِفا - إجمارتا ساكسين على عير مُعَرَّم قاقع تجواء درميان وآكوا در نذن كے ، بہلاساكن دآؤ غيرتدہ تھا۔ تو مُعَتَّت لام كے تاعدہ من كے ساغداً وكو صرّ ديا -كيدْعُونْ بردُزْنِ كَيفْعُونْ بولكيا- لام مجمدُ داد شفارع من بعل بى ريط بى ريم بسب - وكذاك من يؤن كتف في صيغه واحدمونت حاضر بمبت لام ككيب ربانون كاكيد ثفتيسة درنعل مستقبل مجبول أتطليس كتبذ تمين أردز باكتفقت تي تقا-اجتلاع ساكنين على يذرموه واقتد مجوا درميان يآر اور تون ك - تربيلا ساكن يآر غيركته تعار ومُعْشل لام ك قاعده مد ك سائل يَرْ كُوكسهر ديديا- كتبة غَيِنَّ بروزن تشفعينَ موكيا- لام كلم مُضارَّت من ببط ما كُرْج كسب المحصح، صيغه واحد ندر حاجز بب

امر ما صرمووف - المكن مي أ دعو ، بدون أ فصر تعا- امرى حالة وتعى كيوب ، فاد كوركداديا - أ دع بروزن أ في مركد ا مرحاص التي صيفول مي مجى حالة وتنى كيوسي ورفا مب مي مطلقاً ا در حاص مجهول كي تمام صيفول مي حالة جردى كيوم سے حرفِ عِلْة كرمائے كار ايسے ہى نہى كے تمام مينوں ميں بجى مالة مزمى كيوم بھر المايى ميدوا مد فركر - بحث المسبم فاعل - أخس مي حاليقة بروزن كالعير على - وأوَّلام كلم مي بعد كسرووات توبَّد فا عدمة كمري وأوَّكويا سه بدل ديا - حاج مولكا منتم آرير ثقيل تفاريرا ديارة اعدين موكيات جناري ساكنين ترواء درميان يآداد زنوين كرو باركورا ديار دايد بروزان فايج بركما- ت وأس من برا عدة يُذعى بحى وآد كوياً ، بدل سطح بن ، كاليميكين ، من ش دُوبَبا كے تعليل ہو كا وَ ميدخرج نركر - بحث اسم فاعل - المثل مي حَاجِعُوقُونَ بروُزْنِ نَاصِرُونْ نَاصِرُونَ مَعَا- وآذَ بِصِعَد تُعَيِّل مُعَا- نَعْل كرك ما تبركم ديبيه بعد صبين يسب اتبل كى تركة في - إبتار ساكنين شرط، درسان در داد م - رول كورا ديا - داعون بروزن فاعون سوكيا مستد فتحق صيغه واحد خركر يجعث اسم مفعول - أصل من مد محوظ مماذن منصور تقا- دوطاة بم جوست ، يهلهم تما - تومنامت كة ناعده مت ك سائد يعل وآوك دوسر من دغام كرديا - مَدْعُو مُدْنِ مَعْمَل موليا محد عن ميندد احد خدكر - بحث أسبم ظرف - أمثل بي مَدْ عَظ بروزن منعمو تعا- وأو ، كد مي ومى بكى بكر واتع تها ، اور ما قبل كى خوكة أسك مُوافق ندمتى - توبر قاعدة يدعى، ماذكرية سعدر إديا - حد يحظ بركيا - بحر يازم تحرك كو البل معنتون بوف كير مست يرتفاعدة الفت بدل ديا - مدد ممان تروكيا - إجتماع ساكنين مروا ، دديان الف ادر تنوي في - الف كوكما ديا - مدفع بيكدن مُفَقَّ بِمَكَا مَتَدَاجٍ، صيد بح - بحث الم ظرف - أمَّل بن مَدَ إين بردَنْنِ مَنَاضِ مَعَا - وَاذَ كله من بالجي مِكْه واتع موا، ادر اتبل كى حركة اسك موافق رئتى - توبتوناعدة يدعى ، واذكر السب بدل ديا - متداعم مركبا- أب ياد واتع بول مُفَاعِلُ كَ لام من - توتجرَّد عُن اللَّهُم دَاللِفَانَة بوف كروجي بخالةٍ رنعى وجرّى ، بَرْقا عدة جُوّادٍ، يآرك تُراكر عين كله كرّنون دے دی - مداج بدان مفاج برا بجسک فع ، ميد واحد كرمصغر - بحث ايم طفر - الحس مد نيد برددن منتصبة محا- وآد كلمدس بالجوي جكردات مردا بدر الجل ك خركة أسك موانت زمتى وتربة قاعدا يدعى، وآدكو إرس بدل ديا- مُلَدُ بُعِظَ بَهُوَكَ سَمَد بار برُنفيل تما ، كرا دبا - مُدَدُ يُعِين موكيا-اجتماع ساكنين مُوًا، درمبان يآر ادرتوين ك - يا يكور را ديا-مُدَمع بدفَرْنِ مُحَمّع بدكي حيد بحس ، ميند داختر عذر ، يعنى حِبْت بمث المسم الدمنغراب بين بش مَدْع دخر مست اسم فرق مح تعليس مركى موسد عاية، ميغددامدرون يبعث الم الدرسطى - أمل م مدعولاً ، ركذن ويتصور تما - وآو، كم م جرمتى جددوا تع تبوًا ، ادراتبل كى توكة أسيك توافق المتى توبم فاعدة يدهل، وآذ كو إرسه بدل ديا - يعد تحتية جوكيا معجرية متمرك كودا أقبل معسترت بوف كيومست ، برقاعدة قال القت سع بدل ديا- بدد مًا فابردزن مفعاً في بوكيب -إيونسي لكري ، مُعدّ عاقر أصل من جد تحوي عما - وآد متحرك كو اتبل معسترت موت كيوس بر ترة الدة قال العن بدل د! - ودُكاناً رُدُرُن ومُعَامًا بركيا حسكَ يتجيبية ، سيددا مدمونت بصَعَرَّ محت المسم ، درسلى - الحسَّل بن مكذ يعة والجزئي

مُنْيَصِيحة المُنام واد ، كلمدين بالجوي جلمدداتي مُحام ادر ماتبل كى تركة أسط مُوانق زعتى - ترب تاعده يديني داد كوبآ أسط بدل ديا يمتديدين بردُزْنِ مُفَيْعِينَةُ بوكيار مستقوات مي دُعِي والى تعليل بحي بوسكتى ب - حسب تحقق عامة ، صيغه دامد خكرر بحث اسبه المكتب ملك ل بن حد محارم بروش منصار و محاسر وآد ، الد لائد کے بعد طرف میں واقع تبوا۔ تو منتشک لام کے قاعدہ مشر کے اعل بمزم س بدل ديا - مدد عاد بروزن مفكا و" بوكيا - يسى تعليل مدعاً وإن تنيه من بوكى - تراسكومد عاد الن بعي بر المسلحة بي- كما مرَّ في حاسب إصلا المست التي الحت ، صيغه جمَّ عجب من الدكر المرابع - أصَّل من مدّاع فيرد الجرزين هَنَا صِيرُم تَعَا - وآدَ ، كله مي تحقق جلَّه واتن تركوا، ادر ما تبل كالحرُّكَة أسكم كموانق زلمتني ، بلكه تقى بي تنبي - تو بُعلريق أوسِط بُقامدة في على ، وأكركم يآركرك، يآركا يآرس ، دفام كرديا - مَدَاعِث بروُزن مَفَاعِث بركيات يهى تعليل مُدَ يُعِير صيفه واحد مذكر مصغر ببحث أمسم الدكبر الم كبر الم المركب من الدكر المحاف المحاف الم تفضيل - أخلان ا دُنْعَوْ بروَزْنِ أَ مُصَوْمَتُها - شِلِ أَعْلَى ب كَلْكِي بوكَ آ دُخْبِكَ إِنَّ مِبْعَد تنذِيه مُدَر بجث أيم تفنيل مي مِتْل كَدْعَيَّانِ كَتْعَلِيلَ بَدْكُ - أَ دْعَدْنَ ، صيغ جمع مذكرسالم بمن الم تفعيل مي مش يُدْعَوْنَ كَتَعَلِيل برگ آكار ع صيند جمع نذكر مكتر بحث أتيم تفضيل مين مثل حدًاج كم تعليل برك مح في في مينددا عد ترمصنغر- بحث المم تغضيل مي مثل مَدَ يُع منايل موكى محمع بلح عصيف واحد مونت يجت أمي تعقيل -أغس يرد مخوى ، بروزن نصرى مقارداً وتعلى (بالشم ، معماً إسمى احك لام كلم من واقع تكوا - تومعت للام ك قاعده سلد كسا تقرياً سع بدل ديا - وعيلى بروز ف نُعْنِى بولايا تح عيدَتيان ، ميد الذي ورجت الم تفعيل - أصل م جحو كان بردزن نصر كان خا - تر قامدة فعل ندكر، وآد كو يآرسه بدل ديار دغيبَيان بردزن مُعَيَّيان تركيد شنيد كموجب ربّة فاعدة مجتليان ، العَن تُعل، كريآر م ويا- اورالت شذيه مى كيوم يسجر بديآر مفتوح مونى - اور يآير البدكي تركر عارمنى بوف كيوم يسجر ، إ دغام منهس كيا -كيد كدا دغام کے لئے دوسرے حرف کا مترک تہ حرکتہ اکنس (حقیقہ یا حکماً) ہوا شرط ہے۔ ذکذا و عبّتیات مح محت میند من مُز محتر بعث اليم تغفيل - أصل بي و عظر ، بدر إن تصر خفا - واد متحرك كو ما تبل مستر مع منه كيو بست رتفاعدة فال الغسي . بدل ديا - وعان جوكيا - ابتار ساكنين موا ، درميان القت ، ادرتوين ، - الق كوكراديا - د عشر بروزن فحف موكيا - دا مد سك صيغد كى مُناسَبة سے ، صورة خطى يأر كے ساتھ ہے 🗟 تحيين ميغد داحد مُزث مُصْفَر بحث المِ تفضيل- أَصْل ميں وتحيين بروزن نصب المراح تعا والد ، المدمن وعلى جكد والت تما وادماتهل كاخركة موانت زعلى ، بلكره مي منبي - تربط ين ادسا والوكر يأته مصر بدل ديا ومحيَّني بوكيا- دُوّيار جمع بوئين ، أول ساكن تقى - تواول كالناني من إدغام كرديا- دُعَيتني بوكرك فتحتيلي بوكيا-سيرو المس من سبيك والات عد من مكل مراجد. حرف متغيض لواتى مجرد متحترك اللّام ما فصط وى ازباب سوم فعَولَ يَعْصُ يُحون البوضواق، طان ال ملامتراكس أب كي يتبع كرار مى احتى من عين كلمة تحسورا ورمضا رايا مي محسب وح برو تا----دَمِينَ يَوْمَنِي بِصْوَانُهُ فَعُبُوَ مَاضٍ - وَمُ حِينَ يُوْمَنِي بِسُوَانًا، فَذَالتَ حَرْجِينًا - مَادَحِينَ مَاذُ جِنتَ ، لَهُ يَ لمصوالِيَجْهُوعُ المُكسَّرةُ: دُضَاةٌ، دُضَّى، دَحَى، دُضُوَّ، دُضُوَاتَ، دُضُوَاتَ، دِضُوَاتَ، دِضِيَّ، أَدُضَآ

كَتَرْضَى لَا يُرْضَى لَا يُرْحَدَيْنَ المَرْحَدَيْنَ الْمُرْحَدَيْنَ الْمُرْحَدَيْنَ الْمَرْحِدَيْنَ الْمُرْحِدَيْنَ الْمُرْحِدَيْنَ الْمُرْحِدَيْنَ الْمُرْحِدَيْنَ الْمُرْحِدَيْنَ الْمُرْحِدَيْنَ الْمُرْحَدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُرْحَدَيْنَ الْمُرْحَدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُوحَدَيْن لا لَيُوحَدَينَ الْمُحْدَيْنَ الْمُرْحَدَيْنَ الْمُحْدَيْنَ الْمُحْدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُدَعْتَيْنَ الْمُن وَمُرَيْخَتِي وَالْلَالَةُ مُوحَدَيْنَ الْمُحْدَيْنَ الْمُحْدَيْنَ الْمُحْدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُوحَدَي وَمُوحَدَيْنَ الْمُحْدَيْنَ الْمُحْدَيْنَ الْمُحْدَى مُدَا الْمُعْتَيْنَ الْمُوحَدَيْنَ الْمُوحَدَي وَمُونَ الْحَدَى الْمُحْدَيْنَ الْمُحْدَى مُنْعَانَ الْمُحْدَيْنَ الْمُوحَد مَوْحَدَيْنَ الْمُحْذَيْنَ الْمُحْدَيْنَ الْمُحْدَيْنَ الْتُحْدَيْنَ الْمُ لَحْدَى مُنْكُذَعْتَ الْمُحْدَيْ الْتُعْذَيْنَ ال وَحْرَضَيْنَ الْمُحْذَيْنَ الْحَدَى مُعْتَدَة الْحَدَى الْحَدَى مُعْتَعَنْ الْتُحْدَيْنَ الْتُحْدَيْ الْمُولْتُ الْحَدَى مُنْ الْتُحْدَيْنَ الْحَدَيْ الْمُ تُحْتَيْ الْتُحْدَيْ الْحُدَيْتُ الْتُحْدَى الْتُحْدَيْنَ الْتُحْدَيْ الْتُحْدَيْ الْتُحْدَيْنَ الْتُحْدَيْ الْتُ لَحْدَيْنَ الْحَدَيْ ال الْحَ وَحْرَضَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْمُونَ الْحَدَيْنَ الْمُ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْتُحْدَيْنَ الْ

بح**نت اِتَّبَات فعل اصی معروف ،** تَرْضِیَ تَرْضِیًا تَرْضُوْاتَ حِنِیَتْ تَرْضِیدَتَا مَ حَنِیْتَ تَ <mark>حِنِیْتَ مَ</mark> حَنِیْتُ ک تم حنينة عرقم منينيت دحنية عمّا ي مَنينة مّا محنين من جند خل كم مث إثبات فعل احتى مجهول : " مُ حنى تُ جنيكا ى منوام منيت ، منيت ، منيتا م منين م منينت م منينت م منينت م منينت م منين م منينت م منيت م منيت م منيت م منيت بحت تفى فعل لمضى معروف : مادَحِينَ مَا دَحِيبًا مَا دَحْسُوًا مَا دَحْبِيبَتْ مَا مَ جَيبَتَا مَا دَحِيثِنُ مَا مَ جَذِيبَ مَت ى من يُنتَك ما دَمِن يُتُعد ما دَمن يُس ما دَمن يُسلما دَمن يُن ما دَمن بُن ما دَمن يُنا **بحت نعى نعل اصى جمول**، أمادُينى مادُجنيا مادُجنوا مادُجنيت مادُجنينا ما دُجنين مادُجنينت مادُجنيت مادُجنيت مادُجنين مادُجنين مادُجنيت حَادُمنِيْتُنَّ مَادُمنِيْتُ مَادُمنِيدُنَا بِحسف إثبات فعل مُضارع معروف: يَوْمَنْ يَوْضَيَّانِ يَزمنوُمَت تَرْمِنِّى تَوْمَنِيَانِ يَوْمَنِيْنَ تَرْمِنْى تَوْمَنِيَانِ تَوْصَوْنَ تَوْمَنِيْنَ تَوْمَنِيانِ تَوْمَنِينَ أمْ مَنْ مَوْمَنْ كُحَتْ إِثْمَات بعل مصار ع جهول: * مُوْمنى يُوْمنيان مُؤْمنون تُوْمنون تُوْمنى مُوْمنيان مُوْمنين تُوْمنى مُوْمنيان تُوْمنون مت يحت في متر منت اب أو منافي أد منى نو من بعث ففى فعل معادر معروف ، لا يَرْحنى لَا يَوْجنيكِانِ لَا يَرْحَدُونَ لَا تَوْحنى لَا تَوْجنيكِ لَا يَوْجنَيْنَ لَا تَوْجنى لَا تَوْجنيكِ ل اَنَوْصَيَانِ لَا تَوْصَيْنَ لَأَمَّ صَىٰ لَائَرْمَنْ بَحِتْ لَقَى فَعَلَّ مُضَارِ رَحْمِجُهولِ: لَا يُوْصَى لَا يُرْضَيَانِ لَايُوْصَوْتَ لَا تُوْصَىٰ لَا تُوْجَنِيَانِ لَا يُؤْمِنُهُنَ لَا تُوْضَى لَا تُوْضَيَانِ لَا تُوْمَنُونَ لَا تُوْجَنِينَ لَا تُوْجَنِيانِ لَا تُوْجَنِينَ لَا تُوْجَنِيانِ لَا تُوْجَنِينَ لَا تُوْجَنِينَ لَا سُوْصَلْ بمحف نَعْي مَاكِيدَ بَكُنْ دَرْفُعْلْ سَتَعْبَلْ مُعَرُوفْ، لَنْ يَوْصَلْ لَنْ يَوْصَدُا لَنْ تَوْصَ لَنْ تَوْضَيَا لِنْ يَرْصَلُكُ لَنْ تَوْصَى لَنْ تَوْصَى لِنْ مَوْصَحًا لَنْ تَوْصَى لَنُ تَوْضَيَا لَن تَوْصَي كُنْ أَنْصَى لَنْ نُوْمَى بمحسف نغى ماكيد ككن درخول مستقبل مجهول ، كَنْ يُوْصَى لَنْ يُوْصَيَا لَنْ يُوْصَحُا لَنْ تَنْكَصَى لَنْ تُوْجَيكَ لَنْ يَوْصَيْنَ

اله مِوْضَاوًان ، بم جازاست كما مرّ في مكلك ١٠ من،

لَمِنْ تُوْصَىٰ لَنُ تُوْصَيَا لَمَنْ تُوْصَوْا لَنْ نُزْصَىٰ لَنْ تُوْصَيَا لَنْ تُوْصَى لَنْ أَرْصَى لَ فُرْصَى مُ درفعل مُستنقبل معروف: كَدْ يَرْمَنُ لَمُ يَرْضَيَا لَدْ يَرْصَدُا لَدْ تَدْخَا لَدْ تَدْخَا لَدْ تَدْج رَّكُرْضَيَّا لَعُرْنَوْضُوْا لَكُرْنَدُوْضَى لَعُرْسَوْضَيًا لَعُرْسَوْضَهُنِ كَعَرْأَ دُمَنَ لَعُرْنُوْضَ **بِحسبُ لَعَى جَحُبُ رَكُمُ كُ**ر فعلمُسْنِقْتِلْمجبول: كَمْ يُوْمَنْ لَمَرْيُوْمَنْهَا لَمَدْ يُوْمَنُوْا كَمُرْتُوْمَنْ لَمُرْتُوْمَن لمُد ِنُوْضَيَا لَمَرْ تُوْضَوُا لَمُرْتُوْضَى لَمُرْتُوْضَيَا لَمُرْنُوْ صَنَيْنَ لَمُرْا مُرْضَ لَمَدْمُوْضَ **كَبِ رانون مَاكِ** نقىپ لەدىغلىم ستقبل معروف، لكَرْضَيَّ كَيَرْضَيَّ كَيَرْضَيَّ كَيْرْضَوْنَ كَيْرْمَنْيَ كَتَرْمَتُيَ كَيْر لُتَرْمَضِيَنَ لَتَرْضَيَانِ لَتَرْصَوْنَ لَتَرْصَبِنَ لَتَوْصَيانَ لَتَوْضَيَاتِ لَتَدْ حَسَيُكَ لَامُ صَيَنَ كُوْصَنِينَ بِحَفْ لام م بالون ماكيد تقتيب لمرد دو مستقبل مجبول: لكَبْرُصَيَةَ لَمُوْصَيَةً لَمُوْصَيَةً لَمُوْصَدَيَةً لَكُو لَتُوْضَيَنَّ لَنُوْضَيَانَ لَتُوْصَيَنَ لَتُوْمَنِينَ لَتُوْصَيَانَ لَتُوْصَيَانَ لَتُوْمَنِينَ كَمُ صَيَنَ كُنُومَدَينَ بِحَفْ لِعَهْمَكِم بالون تأكيد تفيضه درفعاً مستقبل معروف، رَكَبَدْ مُنَدِّنُ كَيَوْ مَنُونَ كَتَرْ مِنْدِينُ كَتَرْ عَنَكُمْ كَتَر لأرضائي ككرمنك محسفاتم تاكيد بانون تاكيب فخيف ونعلم مستقبل مجول اليومني كيميتون لتومني لتخطين لَتُوْضَوْنَ كُتُوْصَيْنُ لأَمْ حُنَيْ كُنْوْحَدَيْنَ بحعث امرحاص معروف ، إدْحَدَ إدْحَبَيَا إِنْ حَوْا إنها فَ إِنْصَنِّيْ بَحسَبُ امرحاصُرجَهُول: لِتُرْمَنَ لِتُوْمَنِيَا لِيقُوْمَنِهُ إِيقُوْمَتْهُ لِيقُوْمَنِي التُوصَيْ بجعث امرخا تبعج دف لِبَرْصَ لِيَرْضَيَا لِيَرْضُوا لِتَرْصُ لِتَرْضَيَا لِيَرْصَدَيْنَ لِدَمْ صَ لِنَرْصَ بِحِتْ امرْمَا مُب مجبول، لِيُرْضَ لِمُوضَيَّا لِمُوْطَنُوْالِتُوْطَنَ لِتُوْطَيَا لِمُدْحَنَيْنَ لِأُبْحَنَ لِنُوْحَنَ لِمُحْتَن*َ الْمُصْحَدَنَ المرحاص معروف* بالولن كَلِي**تَ لَعَيْبِ لَهِ:** إِنَّهُ صَنِيَنَ إ دُمنياً إِنَّ إِنْ صَوْدٌ إِ دُمنيانَ إِرْ صَيّانَ إِنْ صَيْبَاتٍ بحث المرحاصُر مجهول بالون ماكي زُلعتي إرو ليتوضّينا لِتُوْصَيَّانِ لِتُوْصَوْنَ لِتُوْصَبِينَ لِتُوْصَيْنَانِ لِتُوْصَيْنَانِ لِتُوْصَيْنَانِ جمعتُ امرَ غامَب معروف بالون تاكي **تلقيب** رليَرْ مَسِيَنَّ لِيَرْضَيَانٍ لِيَرْصَوُنَ لِتَرْحَنَيْنَ لِتَرْصَيَانٍ لِيَرْضَيْنَانٍ لِيَرْضَيَنَ لِير بالون أكيب (ثقيله : لِيرُوصَيَنَ لِيُرْجَدَانٍ لِيُرْجَدُونَ لِتُومِنَدُنَ لِتُوجَنِينَ لِيُوْجَنِينَانٍ لِأُمْ صَيَكَ لِمُوْجَنَينَ محت امرحاصرمعروف بالون ماكيرتمنيف ، المرحن يَنْ إرْحَسَوْنُ إِرْحَسَدِينَ مجعتُ امرحاصر مجهول بالون تأكيب تخفيصُر، ألِتُوْصَيَنُ لِنُوْحَدُةُ لِتَرْصَينَ بحدث امرغا مب معروف بالون ماكيد تجنيف، ليرْجني لمَدْمَنُونْ لِنَرْ حَدَيَة إِلَى حَدَيْ لِمُحْتَيْ مُحِتَ مرفات مَجْبول بالون مَا كَيدْ عِنْق، إلْمُ حَدَي لِتُوْضَيَنُ لِأُمُّ صَبَيَنُ لِلْمُرْصَبَينُ بِحدث شِي حاصر معروفَ : لَا نَوْضَ لَا نَوْضَيَا لَا تَوْضُعُا لَا تَدْحَشَهُ لَا تَدْحَظُها لَا تَوْصَنِيْنَ بَحَسَتْ بَهِى حاصر جَمَهُول : لَا تُوْصَى لَا تُوْصَنِيا لَا تُوْصَوْا لَا تُوْصَى لَا تُوْصَدِينَ بَحسبُ مَبِى عَامَبِ مَعرر نسف ؛ لَا يَوْضَ لَا يَوْضَيَا لَا بَوْصَنُوْا لَا تَوْضَ لَا تَوْضَيَا لَا يَوْصَدْنِ كَلامَ ضَ لَانَوْضَ مُحِعت

منى غاسب مجبول : رَلايُدْمَ لَاثِيرْ مَدَاتَ لَامَيْنَ صَوْ لا تُدْمَن لَا تُحْرَضَ لَا مُرْمَ لَا مُرْمَ كمن ك أصر معروف بالون تأكيد لفتي له: لا تَوْضَيَنَ لَا تَرْضَيَانِ لَا تَوْضَعَنَ لَا تَوْضَيَنَ لَا تَوْضَيَانِ لَا بحث بتى حاصر مجهول بالون تاكيد تقيسله، لا تُدْصَيَنَ لَا تُرْصَيَانِ لَا تَرْصَوُنَ لَا تُرْصَلِينَ لَا تُدْمَن محت منبى عامم معروف بانون ما يجد ثفي المرا لأير حديثة لا ير متيان لا ير مندونة لا تر مندية لا تر منيان لا ير عفينان لَدَاَرُّ مَنِيَنَ لاَ نُوصَيَنَ بِحِفْ مَهِى عَامَب مجهول بِالون تَأْكِرَتْقِبِلَه: لَامِوْصَبَنَ لاَ يُوْصَيَآةِ لايُوْصَوْنَ لاَ تُوْضَيَنَ لا مُؤسَنياتِ لا مُوصَيْباتِ لَا أَمْ هَدِينَ لا نُوصَدِنَ بحو**ت نبى حاصِر معروف با نون تأكيدُ خفيف**ه: لَا تَوْصَنَينُ لاَيُوْصَدُ كَتَرْمَنَهِنُ بحث بنى حاضر مجمول بالون ماكبد خضيف، لَدَتُوَمَنَيُ لَا تُنْصُونُ لَدَيْوَمَنَينُ بحث بني عا معروف بالون تأكيب خطيفر ، لائد مندَينَ لايتر منونُ لا تَدْصَيِّنُ لَا أَنْ مَنَيْنُ لَا نَوْصَدَيْنُ بحص بني فالس مجهول بالون ما **كي ر**حقيد، * لَا يُرْصَلِنُ لَا يُدْسَعُنُ لَا تُرْمِنَيْنُ لَا أَنْ مَدِينُ لَا مُوصَلِّين **بحت ا**م › ٧ من ٦ امنيتان دامنون ٦ اجنينة ٢ اجنيتان ٦ اجنيات بحث المسبع مفعول : مَوْجِنَّ مَوْجِنَّ مَوْجَنَيان مَوْجَنَيَ مَرْضِيَةَ لَمُ مُرْضِيَّتَانِ مَرْضِيَّاتٌ - فسأ مصل كا : - إمس باب كَنْ تَنْلِيلات باب دَعَايَدُ عُوْاكَ تعليلات سسه ی کرونی کے ، کہ اُصّل میں موصلُوں بروزنِ مسلموع مقا**لِطاف قیاس کہ لی**ے والا تا عدہ ماری کرد یا ۔ ^{ترو}ین کرد زا لا في تُجَرّدُ مُعْلَى اللّام باقص دي إرباني يتخصص تعلّ يفعل جُون الدّينجاء • يستعبين تميونا معلامة إس باب كي بس الركي المني الأركضان عين عين كلم مضموم بهوتا مسبق م يَرْجُولَا مُرْخَى مِنْ يَوْجُو مَنْ يُوْخِي ، لَيَرْجُونَ كَيْرُخَوَنَ لَيُرْجُونَ لَيُرْجَبُ الْأَمْرِينَهُ ؛ أَخِ لِنُوْخَ ، ليسيَرْ خُ لِيُوْضَ ، أُمْحُونَ لِتُوْخَيَنَ ، لِيَرْجُونَ لِيُرْحَدَنَ ، أُنْ خُوَنْ لِتُوْخَيَنُ ، لِيَرْخُونْ لِيُرْحَيَنَ وَالنَّحْسِعَنَهُ لِأَرْجُ لَا تُوْخَ ، لا يَوْخُ لايُوْخُ ، لا تَوْخُونَ لا يُوْخُلَنَ ، لا يَوْجُونَ لا يُوْخُلُنَ ، لا تَوْخُونَ لا تُوْخَلِنَ ، لا يُوْحُدُنَ ٱلظَّوْفُ مِنْهُ، مَرْبِقٌ مَوْخَيَّانِ مَوَاحٍ وْمُوَيْنِح وَالْأَلَةُ مِنْهُ : مِوْتِنَي مِدْخَيَانِ مَوَاح وْمُعَنِج - مِدْخَا فَجُوْظَائِن مَوَاجَعٍ وَمُمَرَ يُجْبَهُ مُورُخًا دُمْ مِوْخَادًانٍ مَدَاجِيٌ وَمُرَبِّنِي ۖ وَانْعَلُ التَّفَعْنِيلِ الْسَ كَوْمِنْهُ: أَنْ خَاذَ أَبْ خَبَانِ أَنْ خَوْتَ أماج قرام أيخ والمودَّنْتُ مِنْهُ: تُخْصِ مُجْمَيَّانِ دُخِيبَاتُ مُنْ فَرَجْمَعَ مَا عَدَد ما فَصَد ا صرف صغير فعل ثلاثى مزيد فيدمعتك اللام ماقص وى ازباب فيتحال - تيجو الاصطفاق ، ٤ موريحًا وَإِنَّ بِم مِاكُرُ است كَمَا مَرَّ فِي صَلَّكَ "امن

چرا اینا علام ان باب کی ب کہ اسب کی ماضی میں بالی خ حرف ہوتے ہیں، تین اسب کی، دُوز مُدَ-يعب بند مرفع مين سمت بزه وصب بي، ورميسري جب گه تاء -إصْطَعْي مُسْطَعْيُ اصْطِعَاتِ مُقْصَطْ مُصْطَعِ وَاصْطَعْنِي يُصْطَعْ اصْطِعْنَا * مُنْهَاتَ مُصْطَعْ يَصْطَفِ لَمْ يُصْطَفُ لَا يُصْطَعِيْ لا يُصْطَعُ إِنَّ يُصْطَغِي لَنْ يُصْطَعُ لَ ، تُبَصَطَعِ مَنَّ لَيُسْطَعُ مَنْ يُصْطَعُ مَنْ ٱلْمُرْمِينَهُ: إِصْلَعَتِ لِيُسْطَعْتَ إِيصَطَعْتِ إِيصْطَتَ، إصْطَعَةٍ مَنْ لِتُصْطَغَيَنَ ، لِيَصْطُعُ يَنْ إِنْصَطْفَيْنَ الْبِصْطَدِينَ لِيعَسَطَنَنَ ۖ كَالنَّعْتُعَنَّهُ ؛ لَا تَصْطَفِ لَا تُصْطَف، لَا يَصْطَب لَا يُصْطَف، لَا تَصْطَعُ لَا تُسْسَلُفُنْ ، لَا يُسْطَعُينُ لَا يُسْطَعُكُنَ مَلَا تَصْطَعُينَ لَا تُصْطَعُينَ ، لَا يَصْطَعُهُنُ الْأَدِفُ منه، مُصْطَحُ تفعلفيان مضطفيات سَنَّ ٱلَّامِ ما قِصْ دِي ارْبابِ اِسْتِيغُعالَ بِحُونِ ٱلاِسْتِدِينَا بَرِ ش عیش ہونا ۔ علامتر اس باب کی بیا ہے تد اس کی ماصی میں چھ حروف موت ہیں تلا اصل تبيخ زائد-يغب بني منت قرع بين تهزهٔ وصب بي، ددمري طَمَنين تَبسري طَلَه آم إِسْتَرْبِي بُسَرِّحِيْ اسْبَرْخَارْ ، نَصْحَ مُسْتَرْخ رَوَ اسْتَرْبِي يُسْتَرْبِي اسْتِرْخَارْ، فَذَالْتَ مُسْتَرْجًا مُعَارِينَ لُمُؤْيَسْتَرْج لَمَدْيُسُتَرْخَ ، لَا يُسْتَرْخِي لا يُسْتَرْخِي لَنْ يَسْتَرُخِي لَنْ يَسْتَرُخِي لَنُ يَسْتَرُخِي لَنْ يَسْتَرُخِي لَنْ يَسْتَرُخِي لَنْ يَسْتَرُخِي لَنْ يَسْتَرُخِي لَنْ يَسْتَرُخِي لَهُ لَمُعْهُمُ اللَّهُ اللَّ ٱلَامُوَمِنِهُ السَمَرْجِ لِيَسْتَرْجَ المِسْتَرْجَ لِيسْتَرْجَ السَّوْجِينَ كَلْتَتَتَرْخَيَنَ الْكُنَرْجِينَ لِيكْتَرْخِينَ السَّرْخِينَ السَّرُوخِينَ السَّرْخِينَ السَّرْخِينَ السَّرْخِينَ السَّرْخِينَ السَّرْخِينَ السَّرْخِينَ السَرْخِينَ السَّرْخ لِبُسَتَرْ خِيَنْ لِيسُتَرْحَيَنَ وَالنَّهِ عِنْهُ، لَا تَسْتَرُوجَ لَا تُسْتَوْخَ لَا يَسْتَرُخَ لَا يُسْتَرُخ ، لَا تُسْتَرْخِينَ لَا تُسْتَرْخِينَ ، لَايسُتَرْخِينَ لَا يُسُتَرْخَلِنَّ ، لَا تَسْتُوْخِيَنْ لاتَّسْتَرْخَلَنْ ، لا يَسْتَرْجَعِينْ لا يُسْتَرْحَكِينَ الظُّوف مِنهُ، مُسْتَرْجَى مُسْتَرْجَيات -برفص في فلن من يدني تمعشت لله الآم ما قص وى إذباب إنفِعَال - يَحَوَّل الإنبِ عمَّا مُح ما ما · علامة أيمس باب كي يسب كه أسبكي ماصى ميں يا يخ حسب وف جوست جي ي تبین اضب بی ، دلکر زائد – لعنی ستر ماع میں سمتر ، وصّب بی اور دومیری جگہ نوک ۔ إِنْعَلَى يَنْهَدِي انْبُهُجَاءٌ ، نَعْبُوُ مُنْهَجْ رَوَا نُعْمِي مِنْهَتْ انْبِحَاءٌ ، نَذَاكَ مُنْهَتَى ملا نُتكى مماانْمُوت، لَدْمَنْهُ له وتعسويفة الكامل: مقطفٍ مُقطَنِيَانِ مصطفونَ مُصطفينَة مُصطفينَة مُصطفيناً باسم لله وتصويفُه إلكامِل: مُصْطَعْتٌ مُصْطَعْيَانِ مُعْسَطَعُونَ مِصْطَفًا لاَ مُصْطَفًا لَا مُصْطَفًا بَان تله وتصريقه الكامل، مُسْتَوْجٍ مُسْتَرُجْيَانٍ مُسَتَرْجُونَ مُسْتَرُجْيَة مُسْتَرْجَيْنَانِ مُسْتَرْجَيَات المس وتصويفُ لكامل. مُسْتَرْبَى مُسْتَرْجَيَانِ مُسْتَرْجُونَ مِعْتَكُونِهَا لا مُسْتَرْجَاةً مُسْتَرْجَانَ مُسْتَرْجَيَاتَ ١٢ مِسْبَر ته وتعميد فرالاامل مُنْبَج مُسْجَيَّان مُنْبَحُوْنَ مُنْبَجِيَاتَ مُسْجَيَاتَ مُسْجَيَاتَ مُسْجَيَا وَسَتَكَ مَ لله وتصويف الكامل، - مُنْبَحَيَّانِ مُسْحَوْنَ مُسْحَوْنَ مُسْبَحًا لا مُسْبَحَامَانِ مُسْحَيَّاتَ - سَنَ

مِهْمَجْ، لَايَسْبَحِيْ لَايُسْمَحْ، لَنْ يَسْمَحِي لَنْ يُسْمَى ، لَيَسْمَحِينَ كَيْسْمَحَينَ ، لَيَسْمَحِينَ لَيُسْمَحَينَ الْأُمَرُ مِنْهُ إ لِنَسْهُمَ ، لِيُسْمَح ، إِنْسَحِينَ لِتُسْحَدَيْ المَسْحَينَ لِيُسْحَينَ المُسْحَينَ السُبَحَينَ المُسْمَع وَالنَّحْمِعِنِكُ، لَاتَسْمَع لَاتُسْمَع ،لَايَسْمَع لَايُسْمَع ،لَا تَسْمَحِيَنَ لَامْسْمَحَيْنَ ، لَايَسْمُحِينَ لَا يُسْمَحُيُنَ ، لَا تَسْمَحِينَ يَحَيَنُ ٱلظَّرْفُ مِنْهُ ، مُنْمَحٌ مُسْحَيَّانِ مُنْعَجَبَاتٌ صرف مغير نعل مَلاق مزيد فيسب مُعْسَبُ لا اللام ماقيص وي ازباب إفعال مح و الإعطار . ں باب کی یہ بے کہ آسکی ماضی میں حیت ارحرف مشیردع میں ہمز ہ تطعی۔ بلی،ایک زائد یع **بوت ب**ر میں بوت بر میں عُظى بُبَعِلى إعْلَاً * ي فَهُوَ مُعْطٍ - كَا تَحْطَى بِعُظَاءً * ، فَذَاكَ مُحْطَى - مَا أَعْظَى مَا أُعْطَى كَرْ يُعْطِ كَعْرِيعُ حَطَ لَا يُعْطِج اَرِيْعَظْى ، لَنْ يُحْطِى لَنْ يَعْطِى مَدْيَعُطِينَ لَيُعْطَيَنَ ، لَيُحْطِينَ لَيُعْطِينَ لَيُعْط لِيعُظ، اَعْطِينَ لِتُعْظَيَنَ ، لِيُعْظِينَ لِيُعْظَيَنَ ، اَحْطِينَ لِتُعْظَينَ ، البُحْطِينَ لِيحْظِينَ لِيعُظا لَا يُعْطِ لَا يُعْطَ ، لا تَدْجِلِهَ كَا لا تُعْطَينَ ، لا يُعْطَينَ ، لا يُعْطَينَ ، لا تُعْطَينَ ، لا يُعطِينَ لا يُعطَينَ ألظَرْفُ مِن فتقى معكمان تَ إِللَّهُم نافص وى زباب فِعَيْل يُحُون التَّسَمِيكَةُ ، ں باب کی یہ *سبے کہ اِسب ک*ی اصنی می*ں چست اِ*د علامة إس تے ہیں ۔ تین آلی ، ایکط زائد۔ لیس ، كَهُوْ مُسَبِيرٌ وَسُبِي يُسَبِّي نَسْبِيَةٌ ، فَنَذَاكَ مُسَبَّى - مَاسَبَّى مَاسُبِّي ، لَعُرِيُسَ لَوْيُنَمَّ كَيْسَبِي لَا يُسَبِّى ، لَنْ يَسَبِّى لَنْ يُسَمِّى ، لَيُسَبِّينَ لَيُسَبِّينَ أَلْيُسَبِّينَ أَلْا مُومِنْهُ: سَ لِتُسَبَحَ، لِيُسَبِحَ لِيُسَبَحَ، سَبَيَنَ لِتُسْبَعَيْنَ، لِيُسَبِّبُنَ لِيُسَبَّبُنَ ، سَسَيَنْ لِتُسَبَّبُنُ، لِيُسَبِّبُنْ لِيُسَبَّبُنَ وَالنَّحْصَيْنَهُ؛ كَرْسُبَيَرَلا تُسَبَعْر،لا يُسَبَرْلا يُسَبَرْدُ يُسَبَرْنَ لَا تُسْبَدِّينَ لَا يُسَبِيرِي لَا تُسْتَبَيَّنُ ، لَا يُسَبِّنِينُ لَا يُسَتِّينُ ٱلظَّرْفُ مِنْهُ، مُسَمَّتَي مُسَبِّيانِ مُسَبِّياتُ -الله وتصويفُ الكامل، مُعْطِ مُعْطِيًا ذِ مُعْطَوْنَ مُعْطِيَةٌ مُعْطِيًّا ذِ مُعْطِياتٌ ٣ منه مُعْطَى مُعْطَيَانٍ مُعْطَوْنَ - مَعْطَا ﴿ مُعْطَانًا نِ مُعْطَيَاتٌ - ١٠٠ مُسَبِّرِمُسْبَيَانِ مُسَتَّوْنَ مُسَبِّيَةٌ مُسَيِّيَتَانِ مُسَبِّياتٌ مِسْ مُسَبَّى مُسَمَّيًا بِهُ مُسَبَّونَ مُسَبِّمًا لا مُسَبِّمًا كَانِ مُسَمَّيًاتُ ١٢ من

ىغرفعا زكر بي مز مدفيد مُعْسَبُ لَهُ اللَّام مَا قِصْ اوى إز باسب مُجُونُ ٱلْمُتَغَالًا بَنْ : غَنُو كُرْمَا بِعَلامِتْ إَسْسَ بِالْبِ كَي يَهِ بِ كَدَاسَتْ كَي ماضَى بِي جَار ب بوتے ہیں تیتن کملی، ایک کر بعیب نی فاء کلم بھے بعب ا فَالى يُغَالِيُ مُغَالَاةً ، فَهُوَ مُغَالٍ - دَعُوْ لِتِ يُغَالَى مُغَالَاتٌ ، فَذَاتَ مُغَالَى - مَاغَال ما تحوّلي ، كَثْرَيغَال كَتْرِيغَال ، لَا يُغَالِىٰ لَايُغَالَى مَنْ يَعْالِى لَنُ يُتَخَالَ ، لَيُعَالِيَنَّ لَيُعَالَيَنَّ ، لَيْخَالِينُ لَيكَ لكينُ أَلَا مرَّمِينُهُ ، غَالِ لِتُغَالَ بِيكَالِ لِعُالَ خَالِيَنَّ لِتُخَالَيَنَّ دِيْخَالِيَنَّ لِيُخَالَيَنَّ ، خَالِينُ لِتُخَالَيَنْ ، لِيمَّا لِينُ لِيمُنالَينُ وَالتَّفْصِيخَة، لَا تُعَالِ لَاتُخَالَ الْايُخَالَ وَيُعَالُ لَا تُعَالِيَنَ لَا يَعَالِيَنَ ، لَا يُعَالِينَ لَا يُعَالِينَ ، لَا تَعَالِينَ لَا يُعَالِينَ ، لَا يعالِينَ ل صرف صغيرنعل نُلاق مزيد فيعَتَبَ لللَّام باتص واوي از باب تفَعَلُ يَجُول أَبِلَتَكُ لَحْ بِي برائ ظامر ركزنا- علامت ترامس باب في يد مص كدامس كى ماضى من بآنج حرف ہوتے ہیں نین اسلی، دُوْدائر بعنی سروع میں نآء ادر عین کام مُکرَّر مُسَيَّتِ بَرَ تَعَلَّى يَتَعَلَّى يَتَعَلَّى مَعَلَّى مُتَعَلّى - وَتُعَلِّى يُتَعَلّى تَعَلِّيّاً، فَذَالْتَ مُتَعَلّى ماتُعَلّى ماتُعُلّى ، لَوْ يَتَعَلّى لَعُ يُتُعَلّ لَا يَتَعَلَّى لا يَتَعَلَّى ، لَنْ يَتَعَلّى أَنْ يَتَعَلَّى ، لَيَتَعَلَّينَ لَيَتَحَلِّينَ ، لَيَتَعَلّى لي إِلِيَتَحَلَّ لِيُتَعَلَّ نُعَلِّينَ لِتُتَعَلَّينَ وَلِيَتَحَلَّينَ لِيُتَحَلِّينَ ، تَعَلَّينُ لِتُتَعَلّينُ ، لِيتَعَلّينُ لِيتَعَدّلَينَ وَالنَّفِي عَنْهُ م لَا تَتَعَلَّ لَا تُتَحَلَّ لَا يُتَعَمَلُ لَا يَتَعَلَّيُنَ لَا تَتَحَلَّيُنَ لَا تُتَعَلَّيُنَ الْا يَتَعَلَينَ ، لا يَتَعَلَّيْنُ لَايَتَعَلَّينُ ٱلظَّرِفُ مِنْهُ ، مُتَعَلَّى مُتَعَلَّى مُتَعَلّى إِنَّهُ عَلَيهُ مُتَعَلّى ا صرف يغير مرابع أنه مرابع الم يستر معتر أللام الفص اوى ازباب تعاص يحول لتنابئ: مرگوئتی کرنا۔ علامتہ ایک باب کی بیاہے کہ ایک کی ماضی میں پائے پنج حرف ہوتے ہیں تین اصلی، دُوّزائد لیسب یں منزوع میں تآ وادر فا رکلمہ کے بعب القب تَنَاجى يَتَنَاجى تَنَاجِيًّا، فَهُوَمُتَنَاج - وَتُنُوجى مُتَنَاجى تَنَاجِيًّا، فَذَأَتْ مُتَنَاجى ماتَنَاج ماتُنوجى له و تعصو يفدالكامل: - مُغَالٍ مُغَالِبًانٍ مُخَالُوْنَ مُعَالِيَهُ مُغَالِيَتَانِ مُغَالِيَاتٌ ١٢ مسنب مُعَالَى مُعَالَيان مُعَالَدٍ نَ مَعَالَاة مُعَالَاة مُعَالَاتان مُعَالَيات سمن مُتَعَلِّ مُتَعَلِّينَا نِمُتَعَلُّونَ - مُتَعَلِّينَة مُتَعَلِّينَا نِ مُتَعَلِّياتُ سمن ٨ مُتَعَلَى مُتَحَلَيًا فِ مُتَحَلَّوْنَ مَمَتَعَلَّا * مُتَحَلَّا تَافِ مُتَعَلَّيًاتُ ١٠ من ٨ م مُتَنَاج مُتَنَاجِيَانِ مُتَنَاجُونَ مُتَنَاجِيَةُ مُتَنَاجِيَتَانِ مُتَنَاجِيَاتُ «مد » مُتَنَابِقُ مُتَنَاجَيَانِ مُتَنَاجَوْنَ - مُتَنَاجًاةُ مُتَنَاجَاتًانِ مُتَنَاجَيَاتٌ ممتناجياتً

لَحْرَيْتَنَاجَ لَعْرِيْمَنَاجَ ، لَا يَتَنَاجى ، لَنْ يَتَنَاجى لَنْ يُتَنَاجى ، لَيْتَنَاجَيْنَ لَيْتَنَاجَيْ لَمُتَنَاجَيْنَ لَمُتَنَاجَيْنَ المُومِنْ تَنَاجَ لِنْتَكَجَ ، لِيَتَنَاجَ لِيكْنَاجَ ، تَنَاجَيَنَ لِتُتَنَاجَيَنَ ، لِيَتَنَاجَيَنَ ، تَنَاجَيَنَ ، تَنَاجَيَنَ وَلِيتَنَاجَيَنَ وَالنَّحْمُعَنِهُ، لَا تَتَنَاجَ لَا تَتَنَاجَ ، لَا يَتَنَاجَ ، لَا تَتَنَاجَيَنَ لَا تُتَنَاجَيَنَ ، لا يَتَناجَيَنَ لا يُتَنَاجَيُنَ ، لا يَتَناجَيُنَ لا يُتَناجَيُنَ ، لا يَتَناجَيُنَ لا يَتَنَاجَيَنْ، لَا يَتَنَاجَيَنْ لَا يَتَنَاجَيَنُ ٱلمَظْرَفَ مِنْهُ، مَتَنَاجَتُ مُتَنَاجَيَانُ مُتَنَاجَيَاتُ ناقص كانى حرف مغيفون ألمَّتْ تُجَرِّدِ مَعْسَبَ لَاللَّهُ مَنْ ذَبْلَبٍ دوم فَعَلَ يَغْعِلُ حَوَى الْتَرْخَقُ، بِعِينكنا -علامة إسسَ باب كى بيرت كم إسكى من عن من عين كلم فت توح اور صار عين عسور يولسب ى مى يَزْرِقْ رَمْيًا، فَهُوْ تِمَامِع - وَرُبِعَ فِيزَمَى مَ شَيًّا، فَذَاكَ مَوْجِي مَا مَامَ مَنْ مَا دُجْي ، كُوْبَوْم ، كَايَرْمِي لَا يُوْعِلى، لَنْ يَتَوْمِى أَنْ يُوْمِ ، لَيَوْمِيَنَّ لَيُوْمِيَنَّ ، لَيَوْمِيَنَّ لَيُوْمَيَنُ أَلْأَصْرُمِنُهُ: إِرْمِرِلِيُوْمَ لِيَوْمُ لَيُوْمَ إِدْعِيَنَّ لِتُوْمَتِيَنَّ ، لِيَوْعِيَنَّ لِيُوْمَيَنَّ ، إِزْمِيَنُ لِتُوْمَتِنْ ، لِيَرْمِيَنْ لِيُوْمَبَنُ وَالنَّحْمَعَة ، لَا نَوْمَ الْايُزْمِ لَا يُوْمَ ، لَا تَسْرِيبَنَ لَا تُسْمَيِّنَ ، لَا يَوْمِينَ لَا يُسُمِّينَ ، لَا تَسْمِينَ \$ لَا يُوْمِينُ * لَا يُوْمِينَ * الطُّوْفُ مِنْهُ بَعَرْقُ مَوْمِيَيَا نِ مَرَامٍ فَهُ حَدَيْتُهِ وَالْالَةُ مِنْهُ ، مِوْمَى مِرْمَيَانِ مَوَامٍ فَمُ مَدَيْهِ مُوْمَاتًانِ مَوَامٍ فَمُعَرَيْبِياةٌ مِوْمَاتًا حِيْمَةُ مَنْ اللَّهُ مُتَوَاحِي وَمُوَيَّدِينَى وَٱفْعَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُذَكَّرُهُ أَنْ مَى أَنْ عَيَانِ أَنْ مَوْنَ أَنَاجٍ قُدَاً ﴾ يُبِعِوَالْمُوَنَّتُ مِنْهُ : وَمَنْيِ دُمْيَيَانِ مُ مَيْبَاتَ مُعْدَ حَدَمَة مَنْ مَعْ صرف كبير ى فا إنبات فعل ماضى معروف ، ترمى ترمَّيًا ترمَوْا ترمَتْ ترمَتَا ترمَيْنَ ترمَيْتَ ترمَيْتُمَا ترمَيْتُ مُوْتَم ؆ڡؽٚؿ؆٢ مَيْتُنَ مَرْمَيْتُ مَعَيْدًا **بحث إثبات فغل ماضى مجهول : مُ مِق**َ مُ مِيّامُ مُوّا مُ مِيّتُ مُ مِيتًا مُ مِيْنًا مُ مِيْتَ ى مِيْسَمَا مُ مِيْسَعُد ، مِيْتِ مُ مِيْسَمَا مُ مِنْ مَ مِيْتَ ، مُ مِيْنَا بَحْتَ نَفَى فَعل اصْ معروف ، مَا مَ مَ مَا مَ مَيَا مَا مَكْوَ مَاحَ مَتْ مَاءَ مَيْنَ مَاءَ مَيْتَ مَاءَ مَيْتَ مَاءَ مَيْتَ مَاءَ مَيْتَ وَمَاءَ مَيْتِ مَاءَ مَيْتُ مَاءَ مَيْتَ بحث تغى فعل ماضى مجهول ديمًا تُرْمِي مَا تُرْمِي مَا تُرْمِينَا مَا تُرْمَدِينَتْ مَا تُرْمِينَتْ مَا تُرْمِينَ مَادْمِيْتِ مَادُمِيْتُمَامَامُ مِيْتَنَ مَادُمِيْتُ مَادُمِيْنَ **بَحَتْ إِنْمَاتَ فَعَلْمُصْارِحَ مَعَرُوتَ**، بَوَي يَوْمِيَات بَوْمُوْنَ تَوْمِي مَوْمِيكَا نِ يَوْمِهْ، تَوْجِى تَوْمِيكَانِ تَوْمُوْنَ تَوْمِدِينَ تَرْمِيكِانِ تَوْمِينَ أنْدِمَى نَوْجِي كِمَ**تْ اِثْبَاسَتَ** عوالجُمُوعُ المُحسَّرةُ: رُمَاةٌ، رُمَّاتٌ، رُمَّى، رُمَى، رُمَى، رُمَيَاتٌ، رُمْيَانٌ، رِمَاتَ، رِمَاتً، رُمَا ف مؤمادان بم جازات كالرفى مناا المد

إذمن إذمن بحث امرحار مرجبوك بانون تاكيذ خنيف ووليتر متبن ليتومون ليتومد بمن بمعث امرغائب بانون مَاكِيدُ بمُعْيضر: لِيَرْمِينَ لِيَرْمُنُ لِتَرْمِينَ لِأَمْ مِيَنُ لِنَوْمِينَ لِنَوْمِينَ بِحدث إمرغانم جمول بالون تاكَيْرُين لِبَرْ مَكِنَّ لِيُدْمَوُنُ لِتُرْمَكُنُ لِلْمُ حَكَنُ لِنُرْمَتَكُنُ بِحَتْ بَهِي ماضرم وقت : كَتَوُمِرًا تَرْجَيًا لَأَتَرْبِي لَاتَوْمِيَا لَاتُوْجِيْنُ بحث مِنِى حاصر مجهول: لَاتُوْمَ لَاتُوْمَدُ لَاتُوْمَوْا لَاتُوْجَى لَاتُوْمَيَا لَاتُوْمَ بَجَعْت منى عا مب معروف، الديدة مالايد مينا لايد موالاتدم لاتدمينا لايدمين لا ادم لائدم محت منى ْعَا مَتْبِ مِجْهُولٍ، * لَا يُوْمَا لا يُوْمَيَّا لَا يُوْمَوْ الْاسْرُمَ لَا تُتَوْمَيَّا لَا مِيْ مَا مَنْ أَ بانون " كيدنعيت لجد: لَا تَنْ مِيَنَ لَاسَرُمِيَانِ لَاتَوْمَنَ لَابَن مِنْ لَاتَن مِيَانِ لَاتَنْ مِيناً فِي ك جمجول بالون تاكي رتفتيب لمدد لأمَّرْ بمَيَنَ لَا تُرْبَعَيَنَ لَا تُرْبَعُونَ لَا تُرْمَدُ مَدَيِنَ لَا شُرْمَي غائَتْ معروف بالون ماكيدتغيسة: لايزمِينَ لايزمِينَ لايزمينَ لايزمَنَ لاتَوْمِينَ لاتُوْمِينَا لايزمِينَا لا لَدَ أَثَرَ مِيَنَ لَا مَنْ مِينَ بحث بني غامب مجهول بالون ماكيد تعبيب لمه: لا يُوْسَيَنَ لَا يُوْمَيكَ لَا يُوْمُونَ لا تُوْمَىيَنَ ^{يَ}دَمُعَيَّانِ لَا يُوْمَيَّنَانِ لَأَكُرْ مَيَنَ لَا مُوْمَيَنِ **بَحِث بَنِي حاضر معروف بانون مَاكِينزعنيغ**ر: كَاتَوْمِيَنْ لاتوين لاتوم بحرث بنى مامر مجبول بانون اكي مع مد . لا تقدّ مكين لا تومون لاتوم من بني بعد بني غائب معروف بانون ماكية حيف، أَلايت تديني لايترمين لاتترمين لأأم بدين لاتترمين المترجين بحت منهى غائب مجهول بالون ما يد تعيفه : لَدُين مَدَينُ لَا يُرْمَوْنُ لَاتُن مَينُ لَا أَتْهُ مَينَ لَا مُرْمَينَ لَا مُرْمَينَ بحسف المسبع فاعل: كليم تراميان ىَاحُوْنَ بَاعِيَةً كَاعِيَتَانِ مَامِيَاتٌ مجمعت المسيم مفعول : - حَرْبِحَتَّ حَرْمِيَّانِ حَرْمِيَّوْنَ حَرْمِيَّةُ حَوْمِيَّنَانِ ا لات مَرْمِيَّاتُ تر محسب و ميند دامد ند كرغائب - بحث إنبات نعل مامني معروف - أصل مي ديمي ، بدوري صدري تقارته بارتم ك كوماقبل مغسّرت ہونے کی جیستے تہ قاعدۂ قال الق سے بدل دیا۔ دُمٰی بردُزْنِ فَعٰ بِرُکْ سَمَّ مَسْوًا المَ مِعند جمع ندار خائب بحث إنبات فعل امنى معروف - اكْتَلْ مِن دَحَمِيُوْا ، دِوُزْنِ حَسَوَيُوْا تحا-تويّا دِمَتَّوكَ كوا قبل معسّتون توب كيومبت رُتقاعده تحال الف ب برل دا - رَمّادًا بركيا - إجماع ساكنين موا، درمان الف ادر وأوَّك مدالف كركما ديا - ومعظم مؤلَّد فقط بردًا ... بهي تعليل زمَّتْ رَمَتَا مِن بَوْكَ حَرُ حَسُواً ، صِغَرَمَة مُرْرَحَانٍ يَجْتُ إِنَّباتَ فعل ماضى تجهول - أغس يؤكونوا بروُذْنِ حنبوبُوا تماريا رمتحرك بعد كسرو واتع بوئ اورأس ك بعد واتح ساكن تما-تويار برصمة تقبل بوالم كيوجين م منت ل 8 م کے قاعب سلا کے ساتھ بآء کا ضمہ نقل محک ما قبل کو دیدیا ، بعد صین یکنے ما قبل کی ترکمہ کے میآر ساکن کو ، اتبل مصموم بوت كيو سبب رتفاصة كيوستودا أوسب بدل ديا - اجتمار تا ساكنين بكوا در ميان دكو دا وتك ، اتول كوكمرا ديا - تافونا برون فتوا يوكي تيت هجت : ميد ما مد خكر عاب - بعث إنبات فعل معار معروف - امتل من كوف موذن

مُعْل لام ك ما عده مد كما الذيب سلساكن داو كوضمة ديديا - كمرد موكن بروزن كيفعون حدكيا - لام كله إد مضارت بس س ہی گرجیکا ہے ۔ گذا کُتُرُ مُوُنَّ 🛛 المُستکر عَبِينَ، سينددا عد تونت حاضر-بحث لام ناکب، انون "اکپد تعبلہ در فعسل مُستقبل مجهول ما صَل مين كُتُوْ هَدَيْنٌ ، برُدَرْنِ كَتَفْعَدَ بَيْنَ غَفَا - اجتمار عالى عني خير مُدِّم ها قعْ تُحداء درميان يآداورونن ك بها ساكن ياريز مده تما - تومعن لام كم فاعده مد كم ساعة بيل ساكن أركوكسرو ديديا - كتر مين بروزن لتعف ي بوك إن جر ، صيدها مدركر ماضر بحث الرماض معروف - اصل بن إدم من روزن إنهل تما - مالة وتعن كموجك بار ورا - آر مروز زن إنتج بطّيار يه تعليل أفرونتي حداكم صيل مي بوك من المعم ، حسيفه واحد فكر - بحث اسم فاعسل - أصّل من تم الجن بروزي المسارية عمد معترباً، يرتقبل تما وروا ما مرارية موكلا بعمامة ماكنين مُط درميان يآرا در تنوي ك، يا وكوكرا ديا مراج برفون فَايِع بررايا مَرا مُتُونَ بِي بِنْنَ يَرْمُونَ كَلْسِل بوكَ مَوْر محد الله واحد مدركر بحث الم مغول -المُنْنَ مِن مُرْهُوْ فَى بروُزْنِ مَصْنُرُ فَتْ عَا- دارَ، بَا بجمع بوئي، ازل ساكن تقار زكتها عدة سيترك واز كو يآر مت بدل كر يآر كاياتر مين إدغام كرديا - مَرْضَيٌ بِموكيا - بجرياتر كامنا سُبُدّ سے ما قبل كے ضمتر كوكسروسے بدل دیا موضح بروز من مُنْعُنُ بَرُكًا مَرْ حَتْ ، معيد دا مَرْتُ بحث أنم ظُرْف - اصْل مِن مَرْجَكَ بروُزْنِ مَعْمَلُ مُعَا ترا محرك كوما تبل معسنون مون کا دمیسے کتا عدة قال الف سے بدل دیا متعد مکان مولاً مراجعات ماکنین مُوا درمیان الغ اور تو ت الن كوكرا ديار موقع بركن مَعْنى بولي حكوليم ، مبغ بمع بعث الم فكرت - أصّل من موّا مِن مردَّن مصّاد ب تفا- يآر وافع ہوتی مَفَاعِلُ کے لام میں -توبقاعدة بَخَارِ يَارَ كُور كُرا كرمين كلمكو منوين ديدى - صَوَاج بدفَنْنِ مَفَاع بوكيا مُسَجَدٍ بيسَجِرٍ : مسعدد احد مذكّر معتقر بحث اسم ظرف أصل من مُسوّ تيوي بدؤزن مستيوب تما - يار يرضت تتسيل تفاركرا دياب موسيسية في بوليا - إجتاع ساكنين بنوا درميان يآر اور تنوي سك - يا ركوكرا دياب موسي برروزن مفي موكسا -يهى عبل مرديم المادراك يبريم تغطيل مي بوكي بموضح ، وعزواتيم المصغرب مَنْ صَوْحَتْ وعزاتهم فكرف المحتعيل بوك ميرياة، مينددا حدموست اسم الدوسطى - أصل من حديدية بروزن معتد متظم ياً متحرك كوما قبس معستوت بويف كيوم يست رئبرتا عدة خال ، العن س بدل ديا - ميدها فالجروزن مفعًا في بوكما من مسبب من مدينه بيب منه ، صيغه دا بيد ونت مصغّر - محت امم المروسطى يتعليل كاكوني سبب بحق نه بإت جان كموجب بيني المل ايز مِوْمَتَ عَلَى : عينددا حد مذكر - بحث الم أكمر الم كبر - مُثل هدة عَامَ الم تحقيل بوكي تَحْبَوا في من ميذ جمع - بحث اسم أل كرا - أصل بر موامِيْنُ بردُرْن مضاد يتب تقا - ودويار من بوس ، بس لى اكن تقى - تومُضاعف كقائيدة ے ساتھ بار کا یاءیں ادنا م کردیا۔ مَوَاجِعَتُ بروُزُنِ مَفَاحِلَ ہوگیا۔ کُذا مُوَ یُسِینی (مَ² جل) : صیغہواحد فرکر-بمت الم تفضيل- أمش بين أن محف بروزن أصوب تقا- بارمتوك كوما قبل معسنتون تروسف كيوم مستحد تقاعدة قال ،العس بدل ديا - أَنْرْمُخْ مِوْزُنِهُ أَنْعَى بُوْلًا ۖ ٱرْحَوْنَ، حَين جَعْ بَرَّرْ يَحَرَّ بِحَثْ الْمِ تَعْيس بِشْ يُوْتَوْذَ تَعْلِل بُوكَ أَكَا إِمَ

يغه جمع مُذَكَر مُسَمَّر بحث المِ بغضيل مِنْنَى مَدَاعِم تعليل بوگ مُ هت ، صيغه جمع مُوَنَّث مُكْتَر بحت السَيْغ اَفَسَ مِنْ وَحَصَّ بَرَوَزُنِ صَنُوبٌ تَعَا - تَوَيَّآ مَتَحَرَكَ كَوْمَا قِبْلَ مَعْسَتَوْنَ مِوَسَفَكِيوم سِتَحَدَبْقَا عِدَةُ قَبَالُ ، القن ست بدل د رُحان بر مركبا - اجتماع ساكتين ميوا، درميان الف ادر تتوين ٤- الذ كوكرا ديا- دُمَّن يروزَن فعن موكيات م محيض ، صيف داختر م مصغَّر يبحث اسمٍ تفضيل - امَثْل مي مُمَّيَّة بي بروَزْنِ صَوِّيْ بي تقا- دَوْيَارَ جمع ہوئيں ، اَدَّل ساكن تقى به تومُضا عنا بي تقام محسا بقديها يآركا دوسرى ميں ادغام مرديا، دُمَيتَ بروَزن تُحَلَّى بوگيا۔ صرف صغير ازباب سَمَع مِحون ٱلْحَسْمِية، دُرنا - مُسَتَّر ل رَمِنَ يُرْمَنَى صرف صغيرازباب مستجر بحري آلتت فحص، دوكرنا كوشش كزامِتَّارُضٌ رضي سجسته المن ويق ص صغير ازباب كرم يجون التَّحْبِ ؛ انتها بي علمند بوما مَعُوَّنِيْهُوْ مُعَنَّى مَتْبِ رَجُو يَرْجُوْ الخ ف سَعَد لاً - نَهُوَ أَصْل مِنْ نَهْمَى تَعَارِمُعْل لام كمة قاعده مل كما تقريآركو وأوَّسه بدل ديا زَهُورُوزْن خَعْدَهُمَّا التَّر ىيى ئىنىڭى تھا، بقاعدة ئرمنى يآدكوساكن كرديا - يھر كُبقاعدة يُق سَوْ يا بقاعدة مَنْهُوَ يَآدكوداؤ سے بدل ديا يُنْقُوبُوَ زُنِ **بَلْقَقِ** صوف صغيوازباب إفْتِعَال يُجِن الإجْبَبِكَمُ ، تبين كرّا مِشْلَ النصطفَكَمُ سبع سرف غيرزبابُنغُكال يُجْل الإسْبَغْنَام ، جدن مزايشُ لاتَبَخْ موضع لزباب إنعال بجول ألاغنا فربب يرامزما بشل ألاعيطا فوسر حضر صغياز بالطغيل مجول التكفيتة ، دالنا مشل التسبيبة تسب ر فصغير (بابي عُفاعك مي أكمو أهامة، بابهم براداري كرايش ألموالة محر معار بالتفقي مجور التسبي، أرزوكر ايشل كتعلق وف صغير إزباب تفاعمس أيجم اكتَّنَا هِجَنِ إيكُ دس حُودُوكنا بِمُثْلِ ٱلتَّنَابِي حَسبَهِ .

łø.

۱۴۱ فبفرالل في مُجَرَّد لفيف مفرق أزباب وم فَعِلَ يَفْعِلُ بِحُوْسِ الْوِقَايَة ، بِجَابًا-علامتداس بب كيسب كدار كاضي ين كالمدمن توم الدرمضارع من محسور بوزاس -وَقَ يَتِى دِقَايَةً فَهُوُدَاتٍ وَوُقِي يُوْتِي دِنَايَةً ، طَذَاتَ مَوْتِي حِمَادَتْ مَا وَتِي كَمُرْيَقِ كَمُ لَا يُوْقِلْ، لَنْ تَبَعْدَى مَنْ يَوْتَى ، لَيَقِينَ لَيُوْعَانَ ، لَيَقِينَ لَيُوْعَانَ أَلْأَمُومِنُهُ : قِب لِتُوْقَ بِلِيَق لِيوْقَ ، قِينَ لِتُوْقَيْنَ لِيعَةِيَنَ لِبُوْقَيَنَ فِينُ لِتُوْقَيَنُ إِلِيَقِينَ لِيُوْقَيَنُ وَالنَّحْ حَبْهُ، لَاتَقِ لَاتُوْق، لَايَق لايُوْق، لَا تَعتينَ لاتُوْقينَ لَايُوْتَينَ لَا يُوْحَكَنَ ، لَا تَقِيَنُ لَا تُوْحَيَنُ ، لَا يَقِينُ لَا يُوْحَيَنُ ٱ نَظَرُفُ مِنْهُ : مَجْ فَحَيَانِ مَوَاقٍ كَمُوَيْقٍ وَالْالَدَرُمِنُهُ : مَيْ فَصَحَانَ ، لَا تَعْذِينُ وَالْلَدَرُمِنُهُ : مُنِعْ مِيْقَيَّانِ مَوَاقٍ لاَمُوَيْقِ مِيْفًاة مِيْقَاماً مِنْقَاماً ومَوَاقٍ وَمُوَيْفِيدَة - مِيْفَا لِمُسْتَغَاءً إن مَوَاقِبُ ومُوَيْقِي وَاخْلُ التَّنْذِيْل الْمُذَكِّرُمِنُهُ، ادْخْرُكُ فَيكُونَ ادْتَوْنَ ادَاتٍ وَأَكْنِقٍ وَالْمُؤَنَّتُ مِنْهُ ، وَتَى وَتَيكان ومتيكك وتَقْتَ وَوَقَيْ فامد لا: - جن صينون في مشروع من وأو مصموم ب ، أن من أقيتت والاقاعدة جل محمد بد . صرف کےبیر بحث إنبات فعل اصى معروف: وَقَدْ فَقَيْسَا وَتَوْا وَتَتْ وَتَتَا وَقَدْنَ وَقَدْتُ وَقَدْتُ وَقَدْ تُعَوْدَة وَتَنْتُنُهُا وَقَيْتُ وَقَيْتُ وَقَيْنَا مجمت إنبات فعل ماضى مجهول: دَقِ دُقِيَا دُقُوًا دُولِيَتْ دُقِيتَا دُقَيْن دُقِيْتَ وَتِيْتَمَا وَقِيْتَعَرُوقِيْتَ وَقِيْتَمَا وَقِيْتَمَا وَقِينَتَ وَقِيْتَ وَقِيْتَ فَوَقَدْ مَعَنَ عَ مَا وَقَوْامًا وَقَتْ مَاوَمَّتَامًا وَقَيْنَ مَا وَقَيْتَ مَا وَقَيْتَهُمَا وَقَيْتُمَا مَا وَقَيْتُما مَا وَقَيْتُنْ مَا دَتَيْنَا بحث فَعْ فَعْل مَصْ مجهول: مَا وَقِيَ مَا وُقِيَا مَا وُقُوْا مَا وَقِيَتُ مَا وَقِيَتَ مَا وَقِينَ مَ دُقِيْنُهُا مَا دُقِيْسَعُرْمَا دُقِيْدُتَا مَا دُقِيْنُهُمَا مَا دُقِيَتُنَ مَا دُقِيْتُ مَا دُقِيْنَا بِح**ت إنْبات فَعلَ كُصارتَ مَعْزَدَ:** يَقِنْ يَعْبِيَانِ يَقُوْنَ تَعِيْ تَعْبِيَانِ يَعِينُنَ نَعْمِبُ تَقَيَّانِ تَقُوْنَ تَقِينُ تَعِينُ تَعِينُ ٱ<u>جْ</u>بِ نَعْ **جُعَثُ إِنَّهَا سَتَ** لعل مصارع مجول: يُدْقَى يُوْتَيَان يُوْقَدْنَ تُوَقْدَعَ تُوَقْدَ عَوْقَيَان يُوْقَدْ تُوْقَدْ تُوْقَد بُوَقَيْن تُوْقَد تَوَجَّنُ أُوْقَى نُوْتَى بِحَ**تْ بْعَنْ مُعَارُ مُعَارُ عَمَرُوفَ** ، لَا يَتِى لَا يَقِيّانِ لَا يَقُوْدُ لَاتَقِى لَا تَقِيَانِ لَا يَعْنِي لَاتَعِنْ لَاتَعِيَانِ لَا تَقُوْنَ لَا تَعِينَ لَا تَعِيانِ لا تَعْيَانِ لا تَعْدِينَ لَا أَخِدَ لَا مَعْ فَا مُعْدَى كُمُ فَارْحَ مُجُول: لا يُوْفَيَهُ لى ﴿ الجُمُوعُ المُكْسَّرةُ: وُقَاةٌ، وُقَاءٌ، وُقًى ، وَقَى، وُقَى، وُقَيَّاءُ ، وُقْيَانٌ، وِقْيَانٌ، وِقَاةٌ، وُقَاءً، أَوْقَاءً، ٢ ا بله جيقا وان بم بالزاست كمامر في مطلا المامن

٢ُ يُوْتَوْنُ لَا يُوْتَى لاَ يُوْتَيْنَ لَا يُوْتَيْنَ لَا تُوْتَى لَا تُتُوْتَيَانِ لَا يَوْتَوْنَ لَا تُوْتَ بحمت لفى ماكيب ركمن ورفعل مُستقبل معروف: لَنْ يَقِي مَنْ يَقْمِيا لَنْ يَقْمِدُالَنِ تِبَعْنَ لَنْ تَقْبِيا لَن لَنُ تَقِي لَنُ تَبَعِيا لَنُ تَقُوْا لَنَ نَبْقِي لَنَّ تَقِيالَنَ تَعَيِينَ لَنُ أَقِصِكِنَ نَفِي **محت نعى تاكيد كمِن درفعا محست تعبّل مجهول ب** لَنْ يَتُوَقِّرِلِينُ يَتُوَجَّيَا لَنُ يُوَحَقَّ لَنْ تُوَجَّيَا لَنْ يُوَحَيَّنَ لَنْ يُوُحَى لَنُ تُوَجَّيا لَنُ تُوَجَّدُا لَنْ تُوَجَّدُا لَنْ تُوَجَّدُا لَنْ تُوْتَنِيْ لَنُ أُوْتَى لَنْ نُوْتَى بِحِنْ نَعْى حَجْتَ دَلِمَ دِرْفَعِ الْمَسْتَقْبِلِ مَعْرُوفَ ا لَمْ يَقِ لَعْ يَقْوَا لمرْبَق لَوْتَقِبَا لَعْرِيَقِيْنَ لَعْرِبَقٍ لَعْرَقَقِيَّا لَعْرَقَقُوْا لَعَرَّبِقِي لَعْرَقَقِيَّا لَعْر تَقِيلُ لَعْرَقَتِي كَعُرَقَ كَعُرْقَ مُحْتُ فَعَى حَجَتُ لَمْ در يفعل مُستقبل مجهول: لَمُ يُؤْذَ لَمُرْيَوْ نَيَا لَمُرْيَوْ مَوْ لَمُرْتُوْقَ لَمُرْتُوْقَيَا لَمِرْيُوْ فَيْنَ لَمُ تُوْقِقَ لَمُرْتُو قَتَبَ تُؤذنا لَمُرْتُوْنَ لَمُرْجُوْتُهُا لَمُرْتُوْفَيْنَ لَعُرْادْقَ لَعَرْنُوْنَ بَحِيتْ لامِ مَكْيد مالون مَكِيدهم فتسال مردنغا مُسْتَقْسا معروف، لَبَقِينَ لَيَعَيَانَ لَيُعَنَّ لَتَعَيِّنَ لَتَعْتِياً لَا يَعْدَنَانَ لَتَعِينَ لَتَعْيَاتِ لَتَعْتَنَ لتقيانَ تَعْقِدُا تَ لاَتِيَنَ لَنَقِينَ ب**حِيث لام تأكيب بانون تأكيد لَقَيل درفعل مُسَتقبل مجبول:** لَيُوْتَيَنَ لَيُوْتَيَنَ لَتُوْعَيَنَ لَتُوْمِيَانِ لِيُوْعَيْنِانِ لَتُوْعَيْنَ لَتُوْعَيانِ لَتُوْعَوْنَ لَتُوْعَيِنَ لَتُو تَعِيانِ لَتُو تَعَيانِ لَتُواتَ يَتَ مُستقبل معروف: يَبَعِينُ يَنَعُنُ لَتَعِينُ لَتَعِينُ لَتَعِينُ لَتَعَلَّى لَتَعَتَّى لَاقِينَ لَنَبِينَ بحت لام مَاكِيد بالون ماكيد حفيفه درفع لمُستقبل مجبول؛ لَيوُ قَيْنَ لَيوُ قَوْنَ لَتُو قَيْنَ لَتُوْقَيْنَ التُوْقُونُ لَتُوْقِينُ لَادْقَيْنُ لَنُوْجَيَنُ محت امرحاصر معروف ، قَاقَ إِنَّى قِيمًا خِيرًا بحث امر ماضر مجول لِتُوْقَ لِتُوْتَيَا لِتُوْقَوْ لِتُوْقَصُ لِتُوْقَيْ الِنُوْقَيْنُ **بِحِتْ امرْمَا تَمَبِ مُعروف:** لِبَقِ لِيعَيّا لِيقُوّا لِتَق لِتَوْيَا لِيعَيَّا لِيعَ لاَقِ لِبُق محسبُ إمرُ عابِّبُ مجهول: لِيُؤْذَ لِيوُقَيَّ الِيوُقَوْ التَّوْقَ لِتُوْقَيَا لِيوُقَيْنَ لِأَوْقَ لِنُوَةَ بَحَسَ إمرِ حاج معروف بانون ماكبترتفيسله، فِيَنَّ دِيَانَ قُنَّ مِنَّ ذِيَانِ فِينَانِ فِينَانِ جُمِعُ مُعَرِّحْ مُول بالون تأكيرتقيل يلۇ تَنَيْ لِتُوْدَيَانِ لِتُوْدَوُنَ لِتُوْجَيِنَ لِنُوْدَيَانِ لِتُوْعَانِ لِتُوْعَيْنَانِ محمث امرغا مُبمعروف بالون اكيدني ليون لِيُنِيَانِ لِيعَنَّ لِتُعَيَّي لِتَعِيَّانِ لِيَعِينَانِ لِتَعِينَ لِنَعِينَ لِنَعِينَ لِنَعِينَ لَكَتِ مُحمول مَأْفون ما يحد تقيلون إليو عَدَر لِيُوْقِيَانَ لِيُوْقُوُنَ لِبُوْقَيْنَ لِتُوْقَيَانَ لِيُوْقَيْنَانِ لِلُوْقَيَنَ لِنُوْقَيَنَ لِنُوْقَيَنَ لِنُو يْسِيَنْ قُنُ قِنْ جَمِيتْ امرحاصر مجرول بانون كالبير خفيف، إيتو قدَنْ لِتُوَقَوَّنْ لِنُوْ قَيْنَ بحت امرغا مُ معروف بانون تأكيد خعيفدًا ليتَعِيدَ ليتعدَّدُ لِتقدينُ لِدَحِينُ لِنتِينَ بحدث امر عامَبَ مجهول بالون تأكيد خىچىغىر، لِيُوْقَدِّيَ لِيُوْتُونُ لِتُوْقَيْ لِأَوْقَيْ لِلُوْقَيْ لِنُوْقَيْنُ لِمُوْقَيْنُ بِح**يث بَى حاصِرمعرو**ف، لَاتَفْ لَاتَفْتَا كَا تَبِقِيْ لَاتَفِيْ الدَّقِينِ بحث منى حاصر جمبول: لَا تَوْنَ لَا مُوْفَيَا لَا مُوقَوْ الاتُوَقْفَ لِاتُوقَانَ بحث منى *ڠائب معروف*: لَايَتِ لَايَتِيا لَايَغُوْ الدَّتَقِ لَاتَعَبَّا لَا بَعِنْ نَا أَنِ لَا نَتِي بَحْتُ *بَنْنَا بَجْبُول*: لَا يُوْتَ

لايُؤتياً لايُوتوا لاتُوتى لاتُوتيا لايُوتين لالدون لانون بحسف بنى ما ضرمعروف باون تاكيد لقيد لَاتَقْتِيَنَّ لَاتَقِيَّاتِ لَاتَعْنَ لَاتَقِنَ لَاتَقِنَ لَاتَقِيَاتِ لَاتَقِيْنَاتِ بحمث نهى حاصر جميول بالن الجد العتب لمد الاتولين لَا تُوَ يَيَانِ لَا تُوَقُونَ لَا تُوْقِينَ لَا مُوْتِيَانِ لَا تُوْقِينَانِ مُحت بَنِي عَاسَبَ مُعَرَون بالون اكبِدَلْفَتِيسَابَ: ٧ يَقِينَ لَا يَقِيَا إِذِ لَا يَعْنَ لَا تَقِيرَنَ لَا تَقِيرَانِ لَا يَعْدِينَانِ لَذَا قِينَ لَا نَقِيرَنَ كَ بالون تاكيد تعنيفه، لاتقِين لاتَعْنُ لاتَعْنَ لاتَعْنَ بمحبت منهى حاضر مجهول بالون تاكيد تعنيفه، لاتوُتَن لأتُوت لَا تُوْقَبِينَ بَحسَ بَنِي عَامُ مِعروف بِانون ما كِرْحِفِيضَرْ * لَا يَقِينُ لَا يَنْقُنُ لَا أَفِينَ لَا لَفِينَ بَحف ىنى غاسب مجهول بانون تاكيد خينفر: لَايَة حَيَنْ لَا يُوْخَدُنْ لَا تُوْحَيَنُ لَا أَوْحَيَنْ لَا نُوْطَيَن بُحس م فاعل: كَابَ دَابَة دَابَيَانَ دَاتُوْنَ دَاتِيَه كَانِيدَ دَاتِيدَانِ حَاتِيَاتُ محسن أسسم مفعول: مَوْقِط نوْ فِيَّانُ مُوبِّيُونُ مَوْتِيتَهُ مَوْ فِيتَانِ مَوْقِيَّاتٌ -فأمكة ٥- اس ماتيك فاركل برين تعليلات بترك وَحَدَيْعِدُ الصَّرَام كله كي تعليلات بيش رَّكْيَ بِي مَ ا فدفعا ثلاث محود للبيف مفرق ازباس م فيحل يفعل يتجو الوثيق بيج يست بنا يقلامتراس باب كي يسكراسي ماصخ يس عين كلمه تحسور اور مصالع مد مصنتوح برذ اسب وَبِي يَوْجُ وَجْيًا، فَهُو وَاج وَوْجِي يُوْجَى وَجُيًا، فَذَاكَ مَوْجِي مَاوَجِي مَاوَجِي ، كُوْنَوْج كُدْ يُوْج ، لا يُوْجى لَا يُوْحَى ، لَنْ يَوْجِى لَنْ يُوْحَى ، لَيوْ جَمَيْنَ لَيوْسَجَيَنَ ، لَيوْجَبَنَ لَيُوْجَبَنُ لَيُوْجَبَنُ ألْأَمْرُمِنْهُ ، إنْ يَوْجَايَ لِيُوْجَ لِيوْجَهِ إِيُجَيَنُ إِنَّوْجِيَنَّ الْيُوْجِيَنَّ لِيُوْجَيَنَّ الْيُجَيَنُ إِنَّهُ جَيَنُ ، لِيَوْجِيَنُ لِيُوْجَيَنُ وَ لايَوْجَ لايُوْج ، لا تَوْجَيَنَ لا تُوْجَيَنَ ، لا يَوْجَايَ لَا يُوْجَيَنَ ، لا تَوْجَيَنُ لا تُوْجَيَنُ ، لا يُوْجَيَنُ لا يُوْجَيَنُ لا يُوْجَيَنُ لا يُوْجَيَنُ الله مِنْهُ، مَوْجَى مَوْجَيَانٍ مَوَلِي وَمُوَيْجُ دَالْلَدُونِنَهُ، مِنْجَى مِيْجَيَانِ مَوَاجٍ وَمُوَيَج - مِيْجا ومُعَافًا نِمُوَاج وَكُمُو يُجِينَةٌ - مِيُجَاءً مِيْجَاءً إِنَّى مَوَاجَى دَمُوَيْبِي حَدَ لَعَلَ التَّنْفُرِيلِ الْمُدَ كَومِنْهُ، أَ ذَجَا إِنْ أَ ذَجَوْتُ ٱمَاجٍ قُرْادَيْج كَالْمُوَنَتُ مِنْهُ ، وُبْي دُجْيَكَان دُجْيَكَان دُجْيَكَات دُبْ دُوج مِن فامر في المرب المطان يجمى يعص صينون من التيتيت والاتا عده جل كمكتب رف صغير فعل تلاقى مجرَّد لفيف مفروق ازباب ششم فعَمِلَ يَفْعِلُ مَتَّحُونِ ٱلْوَكَي ، نزد بك منا. علامته اس بآب کی جنے کہ اِسکی اصنی اور مصب ارج میں عین کلمہ مکسور تہو تا سب کے دَلْيَ بِلْيُ وَلَكُ ، فَهُوَدا لَكُ وَدُبِلَ يُوَلَّى وَلُبًا، نَذَاكَ مَوْلِتٌ - مَاوَلِيَّ ، لَعْ يَلْ مَعْ عموالجَمُوع المُكسّرة: وُجَاةالخ مثل وُقَاةالخ والجُمُوعُ المُكسّرةُ: وُلَاةًالخ

نَنْ يَوَلْى لَيُبِلِيَنَّ كَيُوَلَيُنَّ لَيُكِينُ كَيُوْلَيَنْ ٱلْأَمَوْمِينَهُ . لِ لِتُحَلَّ بِلِيل لِيوُلْ، لِيَنَّ لِيَوْلَكَ، لِيَزِلِينَّ لِيعُولَكُ، لِيَنّ لِنُوْلَكِنُ ،لِيَهِلِيَ لِيُوْلَكُنُ وَالنَّجْمُعَنْهُ، لَا تَلِ لَا تُوْلَ ،لَا يَلِ لَا يُوْلَ ،لَا تَلِيكَ لا تُوْكَنَ ، لا يلِيكَ لا يُوْلَكَ كَنَائِينُ لَاتُوْلَئِنْ ، لَا يَلِينُ لَايُؤَلِينُ الْظُرْفُ مِنْهُ: حَوْلَى حَوَالِ مَوَالِ حَمَوَيْلِ وَالْإِبْرُمِسْهُ: جِيلًا جِيلَكَانِ مَوَالٍ وَمُوَيْل مِيدُلاً * مِيدَلاً مَان مَوَال وَمُوَيْدَية - مِبْلاً مَ مِنْكَرَ مِنْكَرَ مُوَال مُ حَمُو يُلِع والفك المُعَن بالله فكرم به . ٢٤ ڬ ٱ ٤ ٽيکان ا ڍُ لَوْن اَ دَالِ گُوْا وَيْل وَالْهُوَ نَتْ مِنْهُ ، دُ **لْبِ دُ** يُبَبّانِ دُلْيَتِبَاتُ دُلْى قَدُهُ لَحْتْ صرف صغير فلأكل في مزيد في في في فروق ازباب إفتيعال يتوك الا تقصَّر عن بريمز مرا- علام تدارس باب کی یہ سبے کہ آسٹ کی گفتی ہی بائے خرف ہوتے ہیں تکن صلی ، ڈورا کر یعنی تدرع بن ہمز، دسلی ا ذکر کم تح بعد تار إِتَّقَى يُتَّقِيمُ إِيَّقَامٌ ، نَهُوُمُتَلِقٌ - دُاتَقٍي يُتَّقَى اتِّقَامٌ ، فَذَاكَ مُتَّقِي بِه ما أَتَّقَى مَا أَتُقَى، لَغُرَيْتَقِ لَدُمُيَّتَنَ ، لَا يَتَّعَىٰ لَا مُيْتَقِيٰ، لَنْ يُتَّقِي كَنْ يُتَّقِيٰ كَيْتَعَرِينَ كَيُتَقَيِّنَ ، لَيَتَقِينُ كَينَقَيْنُ ألْأَمُرُ مِنْهُ. إِنَّتِي لِتُقَتَّى الْيُتَقِ لِيُتَتَىَ ، إِنَّحَدِينَ لِنُتَّفَيَنَ ، لِيَتَقِينَ لِيُتَقَيِّنَ ، إِنَّقِرِينُ لِنُتَقَدَّى ، لِيتَقِينُ لِيُتّقِينُ وَالنَّحْمُ عَنْهُ ، لَاتَتَّق لَا تُسْتَى الايتَنِي لا يُتَّتَى الا تُتَّقِيِّنَ لا تُتَّقِينَ الايتَقِينَ الايتَّقِينَ الايتَّقِين ٱلظَوْفُ مِنْهُ ، مُتَعَدّ مُتَعَيّان مُتَعَيّات من بمن اب كاكرميوں كالعلات كلين جامين -وفصغير فعل لأبن مزيد فيدلفيص مقروق ازباسب إسترفعال ستجل ألاشت يفاغن كُورا ومعول كرماء علامنَه إسس باب محي يريب كداسكي باصني بين تتقرَّب رف موت مين مين اللي بين ذائد بعسني تنزع بين مزة وصلى دوسرى جكريتين بيسرى جكه يتآو-إِسْتَدْ فِي يُسْتَدُنِي اسْتِيْفَاء ، فَهُو مُسْتَدُونٍ - دَاسْتَكُونِ يُسْتَكُون السَيْدِهَا ﴿ ، جَذَاكَ مُسْتَدُف مَاسْتَوْنِي مَااسَتُوْفِي ، لَعُرِيسَتَوْفِ لَغُرَيسَتَوْفَ ، لَا يَسْتَوْفِ لَا يُسْتَوْفِ ، لَنْ يَسْتَوْفِي لَنْ يُسْتَوْفِ لَكِ لَيُمْ تَتَوْ خَيَنَ ، لَيَسْتَوْخِينُ لَيُسْتَوْ خَيَنُ الْأَمْرُمِنْهُ ، إَسْتَوْفِ لِتُسْتَوْفَ ، لَيستَوْف لِيستوْف بِالسَّوْفِينَ لِتُسْتَنَوْضَيَنَ ، لِيَسْتَوْفِيَنَّ لِيسْتَرْفَيَنَّ ، إِسْتَوْفِيَنْ لِتَسْتَوْخِيَنْ ، لِيَسْتَو فِينْ لِيُسْتَوْفِيَنْ وَالتَّحْرِ عِنْهُ ، لَاتَتَكَو لَا تُسْتَوُف الايسْتَوْفِ لايسْتَوْف، لاتسْتَوْ فِيَنَّ لا تُسْتَوْ فَيَنَّ، لَا يَسْتَوْ فِيَنَّ لَا يُسْتَوْ فَيَنَّ ، لاتشتومن يمِنْ اع وتصويفُ الكامِل: مَتَّبِي مُتَّقِبَانِ مُتَّقَوْنَ مُتَّقِبِيةً مُتَقِيدًانِ مُتَّقِيدًاتٌ ١٢ سنب مُتَعْ مُتَعْمَان مُتَعَدن ممتقا لأمتقا كان مُتَعَيات اسب « مُسْتَوْفٍ مُسْتَوْفِيَكِنِ مُسْتَوَفَّوْنَ مُسْتَوْفِيدَةُ مُسْتَوْفِيتَانِ مُسْتَوْفِيَاتٌ ١٢ من. مُسْتَوْفْ مُسْتَوْفَيَا يِ مُسْتَوْفُوْنَ مُسْتَوْكَا لاَ مُ تَدْعَلْ كَالَا جَعَبْ فَسَاتُ لا مس

لا تُسْتَنُوفَكُ ، لَا يُسْتَدُوفِينَ لَايُسْتَوْفَيَنَ } لَقُلُوفٍ مِنْهُ، مُسْتَوْ فَيَ عُسَبَوْدَ فَيانِ مُهُ رفعل ثلًا تي مزيد فيهد يفيف مفروق إزباب إفعُبَ إنْ سَبْحُونِ ٱلْإِيْلَاءِ. بحزنا - علامة ایسس باب کی بیر ہے کہ ایسسکی ماضی میں چیتے لى،ايُك زائر يعين تتروع مين تمزَّه قطعي دْ لْى يُوْلِي إِيْلَامٌ ، فَقُوْ مُوْل - وَأَوْلِيَ يُوْلْ إِيلاً * ، حَذَاتَ مُوْكْ - مَا دَلْ مَا ولى ، لَو يُوْل لَع يُوْل لَا يُوْلِيُ لَا يُوْلِى لَنْ يَتُوُ لِي لَنْ يَتُوْلْ ، كَيُوْلِيَنَّ كَيُوْلَيَنَّ ، كَيُوْلِيَنُ كَيُوْلَيَن ٱجُلِيَنَ لِتُوْلَكِنَّ ، لِيُوْلِيَنَّ بِيُوْلَكِنَّ ، آدْ لِينُ لِتُوْلَكِنْ ، لِيبُوْلِكِنْ لِيُوْلَكِنْ وَالتَّحْصِنَهُ ، لاتُوْلَ لَاتُوْلَ ، لايبُولِكِنْ لِينُول ڵڎۘڡؙۏڵڽێؘۜ ڵڎۘۅؙڶؽڹۜ؞ڵٳؠؙۏڸڹڹٞ؉ڵٳؽۊڶؽڹۜ؞ڵٳؿۅڸؽڽ۫ڵٲؿۅڶؽڹ۫؞ڸؚٳؠ۪ؗۊڸؚؽ[ؙ]ڵٳؠؙۊڸؽڹٛڵٳؠؙۏڶؽڹٛٱڟۏڣ۫ڔڹ۫ڔۥ*ؽ*ۏٞۿٷڸؘٳڹڡۏڶؾٳٮ صرف صغير فعل نُلاثى مزيد فيد لغيف مفرق ازبا يفعِيل متحول أكتقو ليكة ، والى ب کی یہ ہے کہ اِس کی ماحتی میں تجار حرف ہو۔ يل يتراص - زائد یعین عین حمیہ دَنْ يُوَلِّي تَوْلِيَةُ، فَهُوَ مُوَلِّ رَوَدُتِي يُوَلَّى تَوْلِيَةٌ ، فَذَاكَ مُوَلَّى مَا وَلِّي ما وُتِي ، لَمُ يُوَلِّ لَمُ يُوَلَّ ، لَا يُوَتِي لَايُوَ لَى ۖ النَّ يُوَلِي كُنْ يُبُولَ أَنْ كَيُولَكِنَ ۖ كَيُولَئِنَ أَبُولَكِنَ أَلَا مُرْمِنْهُ، وَلِ لِيُولَ إِيكُولَ مَولَكِنَ التُولَ لِيُوَلِيُنَ لِيُوَكِينَ ، ٤ لِينُ لِتُوَلِّينُ ، لِيُوَلِينَ لِيُوَكَينُ قَالنَّقْصَعْنَهُ ، لَا مُوَلَّ لا تُوَلّ لا يُوَلّ الا يُوَلّ الا يُوَلّ يَ لاتُوَكِّيَنَّ ، لا يُوَلِّينَ لَا يُوَلِّينَ ، لا تُوَلِّينَ لا تُوَلِّينَ ، لا يُوَلِّينُ لَا يُوَلّينُ الطَّرْفُ مِنْهُ: مُوَلّى مُوَلّيانِ مُزَلّياً في صغير فعل ثلاثي مزيد فيد لفيف مفروق إزباب مُفاعلَة بجُول إَكْمُهُ وَاللَّهُ "أَلِس سَ اِب کی یہ ہے کہ اِس کی ماعنی میں خار میں دومستی رکھنا۔ علام _ تا سمرف مہو ہتے ہیں یہینی اصلی ، ایک زائد۔ یعنی خار کہ کے بعدالقہ وَالْأَيُوَإِلَى مُوَالَاةً ، فَهُوَ مُتَوَالٍ - وَوُ وَلَجْتَ يُوَالْى مُوَالَةٍ ، فَذَلْكَ مُوَالْى مما دَالْ ما وُ وَلِي ، كَمْ يُوَالِ كَمْ يُوَالَ ، لا يُوَالِيُ لا يُوَالِي ، لَنْ يُجُوالِي كَنْ يُوَالْ ، لَيُوَالِيَنَ كَيُوَالَيَنَ ، لَيُوَالِينَ لَيُوَالَينَ أَلاَ مُرُمِنُهُ. وَالِلِتُوْلَ لِه وَتَصويفُ الكامل: مُوْلِ مُوْلِيَانٍ مُوَكُونَ مُوْلِيَةٌ مُوْلِيَةً مُوْلِيَتَانٍ مُوْلِيَاتٌ ، «م مُوْكى مُوْلَيَانٍ مُوْلَوْنَ مُمُوْلًا لَهُ مُوْلَاتًانٍ مُوْلَيَاتٌ المِن مُوَلِّ مُوَلِّيان مُوَلَّدُن مُوَلِّية مُوَلِيتًا فِ مُوَلِّيكًا فِ مُوَلِّيكًا مِن مُوَلَّى مُوَلَّيْهِانِ مُوَلَّوْنَ مُعَوَّلًا \$ مُوَلَّا مَا نِمُوَلَّكِ تَ المن · * عُوَالَ مُوَ البَيْنِ مُوَالُونَ مُوَالَدُنَ مُوَالِبَهُ مُوَالِبَتَانِ مُوَالمَاتَ * مُ ويجوز أولىالخ وكذامًا أولي

194 مرف صغير فعل تكانى تُجرَّد لفيت مقرون ازباب دوم فعُت لَ يَفْجِلُ مَتْجَولُ لَقَطْقَ م ت ایک باب کی بیرے کہ ایک کی ماضی میں عین ک بارع میں مکسور ہوتا۔ بتورح اورمتصنه طَوٰى يَطُوِى طَبَّاً ، فَهُوَ طَأَوْ - وَ طُوِى يُطُوٰى طُبّاً ، نَذَاكَ مَعْلِوَيْ مَعْلِوَيْ مَاطَوْى مَاطُو لاَ يَقْلِوِيُ لَا يُقْلوى ، لَنْ تَتْعَلُّوى لَنْ يُظُوى ، لَيَظُو بَنَّ لَيُظُوَيَنَ ، لَيَقْلِوِيَ لَيُظُوّينُ أَلْا مُومِينُهُ : إِصْلَحِ لِتُظُو لِيَظْعِدِيكُو الْطُوِيَنَ لِتُطُوّيَنَ اليَظُوِيَنَ لِيُظُوّيَنَ الْطُوِينَ الْطُويَنِ الْيُظُوّيَنُ لِيُظُوّيَنُ الْيُقُومَ لَا تَقْلِولا تُقْلُونُ يُقْلُونُ يَقْلُونَ ، لَا تَقْلُونِينَ لَا تُطْوَيَنَ ، لَا يَفْلُونِينَ لَا يُظُونِينَ لَا يُطْوَيَنُ ٱلظَّوْفُ مِنْهُ ، مَظُوًى مَطْوَيَانٍ مَعَادٍ وَوَمَعَلِيَّ وَالْأَلَمُ مِنْهُ : مِعْوَى مِعْوَيَانٍ مَطْادٍ وَمُعَلِّي مِعْلَوًا تَهُ مِعْلَوًا ثَانِ مُطَادٍ فَوْ مُطَيِّبَةً مِعْلَوًا يَ مِعْلَوْا تَمَانِ مُطَادِي وَ مُطَيِّبَيُّ وَ أَفْعُلُ التَّغْضِيلِ لُهُ: كَنُ ينة، أُطوى أَطْوَيَان أُطْوَدَنَ أَطَادِ وَأُسْطَى وَالْمُعَنَّفَ مِنْهُ، طَيْ طَيِّيَانَ طَيَّيَاتٌ حُلَوَى وَمُلَوَيْ. حصوف مصار ، تحت إثبات فعل احتى معروف ، حلوى طَوَيَا طَوَفَ عَلَيْتُ طَوَمًا عَدَيْنَ طَوَيْتُ طَوَيْتُ طَوَيْتُ كَ طوَيْتَ علوَيْشَكَا طَوَيْتَ عَلَيْ عَدَيْتَ عَدَيْنَا بحث إثبات فعل ماصى مجهول ، مطوِى علوما طوْقَدَ الطويَتِ طويَتَاطُوِيْنَ طُوِيْتَ مُلوِيْتَمَا طُوِيْتَحْ طُوِيْتَ طُوِيْتَ طُوِيْتَ الْمُويَّةُ المُويَّةُ عُلوَيْنَا بح**ت فَي تَعْلَ الْحَقَ** معروف ٢ مَا هَذِي مَا طَدِيَّا اله بحث تقى فعل صى مجهول ٢ مَاطِدِيَ مَا هُدِيَا الهُ مجعت إِثْبَاتَ قَغل مُصارَح معروف، يَعْدِي يَفْدِيَانِ يَظْرُدُنَ نَظْرِي نَظْرُونَ نَظْرِي نَظْرِي يَظْرِينَ تَظْدِي تَظْرِي نَظْ تَطْبِيَانِ تَفْلِوْنَ ٱخْلِوى نَظْبِي تَعْلَى تَجْبِتْ اِتْبَاتْ فَحَلْمُصْارَحَ جَهُولَ • يَعْوَى يَظُوّيَانِ يُفُودَنَ تَعْلَوْ تَظَوّيَكَ َ يُعْلُوْبَانِ نَظُوَيْنَ أَطَوْى نُطُوْى بُطُوْى بَحِدْتَ فِي قِعْلَمُهُمْا يُج يطون يُفلوى تُطُوّيان تُطود نَصلون وف ، لَدَ يَظْدِي لَا يَعْلِو يَانِ الله مجمع فعل مُضالي جهول ؛ لَا يُطُوٰى لَا يُطُوّيانِ الله مجعف لقى تا يُحَدَّبُكُنْ دِنْعَلْ مُسْتَقَبْلَ معروف ؛ لَنْ يَتَطْبِي لَنْ يَتَطُونَا لَنْ تَظُودًا لَنْ تَظْبِي لَنْ ت يَّطُوِيُنَ لَنْ تَطُوِي لَنْ تَطُوْدَا لَنْ تَطُوُدُا لَنْ تَطُويُ لَنْ تَطْوِيُ لَنْ تَطْوِيُ لَنْ تَطْوِي لَ تَن در فَعَلَى مُسْتَقْبِلِ مِجْدِلَ : لَنْ يُعْلَوْ ي لَنْ يُطُوعُا لَنْ يُطُوطُ لَنْ تُطُوّي لَنْ تُطُوّيا لَنَ يُتُطُوّينَ كَنِ تُطُوّى <u>نُطْحَيَّا لَنُ نَصْطُحَهُ الْمَنْ خُطُورَى لَنْ تُعَلَّوَ بَإِلَىٰ تُعْلَوْ بِي لَنِ أُطْوٰى لَنْ نُطُوٰى مِحت</u> مصوالجُمُوعُ المُكسَّدةُ طُوَاةً، طُوَّاة، طُوَّى، طُوَّي، طُوَّية، طُيَّانَ بطِيَّانَ عِلَيَاتَ، طُوِيَّ، أَطُوَآة، ٢ ا منه تحصطواوان ، ثم جائز ست كما مرق (١٣٢٠) امن

مقبل معروف، لَعْرَيْظُونَمْ يَطْوِيَا لَعْرَيْظُوْوْا لَعَرْ نَظْوِلُمُ تَطْوِيَا لَعُرْ يَظُوِيْنَ لَعْ تَطْوِلُهُ تَطْوِيَ يَصَوُّ وَالَمَوْ تَصْلُونَ لَمُرْ يَصْلُوما لَهُ يَتَصْلُونُهَ لَمُرَ أَصْلُو لَعَرْ مُصْلُقُ مُصْلُقُ **حَجْد مَهُ مُسَتَقَبْل مُجهول ؛** تُنْقُونُ لَمُ يُطُونُ لَعُرْسُولُمُ نُطُوبًا لَعُرْتُطُودًا لَمُ نُطُوبُ لَهُ مُطْوَيًا لَعُرْصُونُ لَعُرا طوّلَهُ نُظُو بحت لام ما يجد بالون ما يرتقيله وركل مستقبل معروف ؛ ليَعْفِوِيَنَ ليُطُوِياً ليَعْدُونَ لَتَطُوِينَ لَتَعْلُو لِيَطُونُنَانَ تَتَطُويَنَ تَتَفُونَانَ لَتَطُونَ لَتَطُونَ لَتَطُوبَ لَتَعْلِينَانَ لَتَعْلِينَانَ لَكُونَ لَكُونَ كَتَعْدِينَانَ المَوْتِينَ لَكُونَ كَتَعْدِينَانَ المَعْدِينَ المَعْدِينَ المَعْرِينَ المَعْدِينَ المَعْرِينَ المُعَانِ المُعانِ المُعَانِ ا تاكيد تقيلة رنعل مستقبل تجهول: لَمُطْوَيَنَ لَيُطُوَيَنَ لَيُطُودَنَ لَنُطُوَيَنَ لَنُطُوَيَنَ لَيُطُويَنَ لَتُظُوّينَ لَتُعْوَيَانَ لَتُطْوَدُتَ لَنُظُوَينَ كُتُطُوبانَ لِتُعْلُو يُبَانِ لَتُعْلُو يُبَانِ لَدُعُلوبَنَ لَكُفُويَ لَ **درمعل مستنقب معروف،** لَيَقْدِينُ لَيَقُونُ لَتَقْدِينُ لَتَقْدِينَ لَتَقْدِينَ لَتَقْدِينَ لَتَقْدِينَ لَنَظْدِينَ لَنَظْدِينَ لَتَقْدِينَ **ىكىزىمىيىغەدرىغان ئىشقىل مجهول ئ**لىغۇ يۇلىغۇدۇنى ئىغۇرىنى كىنىغۇ يەن كىنىغۇرۇن كىسطورىن كارىخورىن كىنىغۇ يوپى تى امرحاض معروف ، اغلو اغلوما احكو ذا اغلوتى اعلوتي المعلوتين مجمعت امرحاض مجهول ، ليتُطوّ يتطوّد لِتُطَوَى لِتُطُوَيَ إِلِتُطُوَيْنَ بِحِيتَ امْرَتَا مَبْمَعْمَوْفَ، لِيَظْوِلِ حَطُوبَ لِيَظُونُ التَظُولِتَعْلُونَ لِلْطُو لِنَعْلُو بِحسْ امرغامُ مجبول: لِبُطُوَلِيُطُوَ بِالْمُطُوَةِ النَّطُوَ لِتُطُو لِتُطُو بَالِيطُوبُ لِأُطُولِنُطُو بَحسْ امر حاضر معروف بانون ناكيد فغبله ، إعظويَنَ إعلوياً في اعلوتَ اعلوتَ الطّيويَاتِ اعلويُناً في محدث مر المرجهول ما نُولُن الجَبِدِنِقِبِكِمِ، لِتُطُوِّينَ لِتُطُوَّكَ لِتُطُوَّهُ نَ لِتُطُوِّينَ لِتُطُوِّيَاتِ لِتُطُوَيُنَاتِ بح**ت امرنا تَمْ مِجُرُون** بانون تاجيدنغ ليرم. ليطويَنَ ليطويَاتَ ليطونَاتَ ليطوتَ لِتَطْوِيَنَ لِتَطْوِيَاتِ لِبَطُويَاتَ لِبَطُويَ لِنظورَةَ كَجَنْ الْمُ **۬ٵمَبِحَبُول بِالوَّنْ تَعْتِيلِهِ وِ**لِيعُوَيَنَّ لِبُطُوبَيَّةِ لِيسْطُودُنَّ لِتُطُوبَتَ لِتُطُوبَتَ لِتُطُوبَت بسحست مرحاض معروت بانون تاكية خفيفه والمؤين الموثق المؤيث سجبت امرحاص مجهول بانون تاكير خفيفره لِدُمَلُوَيَنُ لِتُطُوَدُنُ لِتَعُلُوَيِنُ بِح**نتُ امرِ ثمَا بَبِ مُعَرُوفَ بَانُونَ مَا جُهَرَ فَيفَرِهُ،** لِيَظُونُ لِيَعْلُونُ لِتَعْلُويَنُ لِلْطُونُ لِتَعْلُويَنُ لِلْطُونُ لِيَعْلُونُ لِنَطْوِنَ بِحدث امرْعَاسَ مِجْهُول بِانْوَنَ مَا كَيَرْهُ فَيَعْهُمُ لِيُطُوِّينَ لِيُطْوَدُنَ لِنُطُوِّينَ لِيُطُوِّينَ بِخُطُوَّينَ بِحُطْ ىنى حاصر معروف ، كَانتظر لاَ تَظْرِياً لاَ تَعْفَرُوْا لاَ تَطْدِي لَا تَطْدِي لَا تَطْدِي لَا تَطْو لَاتُطُوبَا لَانْطُوطُ لَاتُطُوبُ لَاتُطُوبَ لَاتُطُوبَ بَحِمتُ بَهِي عَامَبُ مُعَرُوف ، لَايَطُولَا بَطُوبًا لَا ذَعْنِوِلَاتَعْلِوِيَّا لَايَظُونُيَ لَذَا حُلُولَا نَظْرِ**بِحدث بَى عَامَبِ مِجْبُولٍ،** لَايُظُولَا يُظُوكا لَايُظُولُا تُطُولًا تُطُوبًا لَا يُعَلَّدُ يَنَ لَأَهُ عُبُولَا مُظْوَبِحِتْ بَهِى حاصر معروف بالون باكيد نُقْتِيل ، لَا تَعْلُومَ أَذَ تَطُورًا نِ لَا تَطُوتُ لَا تَطْوِيَ التَطْوِيَاتِ لَانطُونِيَكَتِ مِحت بْنِي حاضر مجهولَ بَالون ما كَيدَ فَعَبَد ، لَا تُطْوَيَنَ لَا تُطُورَ لَا تُطُورَ لَانْطُوَكَانَ لَاتُطُوكَيْنَاتٍ **بحدت بنى عاسم معروف بالون تاكيد لُعَبّل**م، لَايَعلُويَنَ لَا يَطُوبَانٍ لَا يَظُونَ لَانْطُورَيَّ

لاَ تَطْعِيَانِ لَا يَعْدِينَانِ لَا اَعْدِينَ لَا نَظْدِينَ الله ع**ن بحدث في عامب ججهول بانون الجد نقيله :** لَا يُطُو كَتَ لَا يُطُوَّبَانِ لَا يُطُوَقُنَ لَا يُطُوِّينَ لَا يُطُوَيانَ لَا يُطُوبِيَانَ لَدَا طُوَيَنَ لَا نُطُوَيَنَ كَ بالون ما يدخفيفه ولا تَطْعِينُ لا تَطُونُ لا تَطْعُرُ المَّحْفُ بحص بحاض مجهول بالول ما يمدخفيفه ولَا تُطُورَ ن لَاتُطُوَيُنُ لَانُتُطُوِينُ بِحِمْتُ بَهِي عَامَبَ مُعَرَوف بِالوَن مَا كَبِرَ مَعْبَطُوهِ لَا يَظُويَنُ لَا يَطُونُ لَا تَعَلِّو يَنُ لَدَا طَوِينَ لَانْطُوِيَنَ بِحِ**تَ بَنِي عَاسَبٍ مَجْهُول بِانُوْتَ مَا كِيرَ مُتَعْبِفَهِ ،** لَا يُطُوِّينَ لَا يُعْدَدُنَ لَا تُعْدَدَ يَنْ لَلْأَطْوَيَنَ لَانْطُوَيَنُ بحث أَجم فاعل علادة علادة إن طادون طاوية تطاويَتَ إن طاديًا عَ محمث أَم مفحول، مَطْعِتْ مَطْوَيَان مَعْلُوتُونَ مُطْوِيَةٌ مُطُوِيَةً مُطُوِّيتَان مَطْوِيًا ٢٠ -صرف صغيرفعان ثلاث مجرَّد لغيف مقرون إزباب سوم فعل يَفْعُلُ حِيُّول الْتَرْجَيْ بیراب مرد ا - علامته اسب کا بیرتر که اس کا بیرتر که ایک میں بین کلمه بخسوا ور مضائع میں فتوج ترا بر تَرْدِى يَرْدُى بَ يَّبَا ، فَهُوَمَ يَانُ - وَبُرِدِى يُوْدِلِى بَيَّا، فَذَالتَ مَوْدِي مُمَادَدِى مَادُدِى ، لَعُرَيَرُ دَكُعُ يُوْدُ ، لَا بَرُوٰى لَا يُرُوٰى اللهُ يَرُوٰى لَنْ يَتُرُوٰى الَبَرْوَيَنَ كَبُرْدَيْنَ ، لَبَرْوَيَنْ لَيُرْدَيَنُ الْأ لِيدُوَّ لِيُدُوَّ إِدْدَيْنَ لِتُرْدَدِينَ ، لِبَرُوَيَنَ لِيُدُدَيَّنَ ، إِدْوَيَنْ لِتُوْوَيَنْ ، لِيَرْدَيْن لِيُدُوِّينُ وَالنَّجْمَعُ الْأَوْدَ لَإِسْرُدَ الْكَيْوُى لاَ يُوْدَ لاَ يُوْدَيَنَ لَا تُوْدَيْنَ الْاَعَدَةَ دَيْنَ لاَ يُوْدَيْنَ الْاتُودَيْنُ الطَوْتُ مِنْهُ ، مَوْدًى مَوْدَيَا نِ مَوَا وِ تَوْمُوَيْ وَالْالَةُ مِنْهُ ، مِرْدَكَ مِوْدَكَ نِ مَوَا وِتَوْمُويَ - مِزْدَاةٌ مِرْدَاتُ ومُوَيِّدَيَدَ مودواً عَرَوداً مَانٍ مَوَاوِى مُوَمَرَيِّنِهِ أَوَ أَعْلُ التَّفَضِيلِ الْمُذَكُومِنْهُ : أَمْ وَى أَنْ دَيَانِ أَنْ وَوَنَ أَمَادٍ تَوْاًمَ بِي وَالْمُؤْنَثُ مِنْهُ، دُبْي مُ يَبْيَانِ مُ يَبْيَاتُ مُ دُمَى قَرْمُ وَيَضْ فا مد و و صرف صغيراز باب سيست ، تعيين كيشيل الا بلاادغام ، ورحيتى يتحتي الا بالادغام و دنول طرح جائز سب لَمُوالجُمُوعُ المُكسَّرةُ رُوَاةٌ ، رُوَّاةٌ ، رُوَّاءٌ ، رُوَّى ، رَوَّى ، رَقَى ، رُقَى ءَ،رَيَانَ،رِيَانَ،رِيَاغَ،رُوحٌ،ارُو آغَ، ٢ ا یک قَدْ مُرَّخ مِ مَكْلُ المد

مرف صغير فعل ثلاثي مزيد فيدلفيف مقرون ازباب إفريحال بي تيون الإرمشة بواغ برار يونا به علامت زائس باب کی بیسیے کہ اِسَسی ماضی میں تیا کی حرفت رہوتے ہیں۔ ېلى، د د زائد يعيب خي *متروع ي*ن ېتمز ه وصيب لي اورفار کم يے بعد آر ٳٮؙۺۜڒؙؽێۺؾؘۅؚؽ۫ٳۺؾۅۜٳ[ؚ]٤۪، فَهُوَ مُسْتَوِد وَاسْتَوْيَ يُسُتَوْى اسْتِوَاءٌ ، ذَذَ إِلَّ مُسْتَوَ نعرُ يَسْتَوُ لَعرُ بُسْتَوُ، لاَ يَسْتَوُمْ لَاَ يُسْتَوُى النَّ يَسْتَوُى لَنَ يُسْتَوْيَ الدَّسْتَوَيَّ لَيستَوَيَنَ المُسْتَوَيَنَ لَيستَوَيَ الْاَمْنِ إِسْتَوَلِتُسْتَوَ لِيسْتَوَ لِيسْتَوَ) إِسْتَوَيَنَ لِتُسْتَوَيَنَ ، لِيَسْتَوَيَنَ لِيسُتُوَيَنَ السَتَوَيَن ۘٵڵڹۧؖۿؙؿؗ*ڲڹ*ؙ؋؞ؘڵٲۺؾۘۅٞڵٲؿؙٮؾۘۅٛۦڵٳؘؽڛؾۘ۫ۅڵٳٛؠۣٮٛؾۊؙڔڹڰۮۺؾۅٛؾڹٞۘڵٲۺؾۅٛؾؽؘ؞ڵٳؽڡؾۅٛؾؽٙ؞ڵٳؽٮؾۅٛؾؽٙ؞ڵٳڐڛؾۘ*ۅٮڹٞ* لَا نُسْتَوُكُنُ ، لَا يَسْتَوَيَنْ لَايَسْتُوَيَنْ ٱلْظَرُفُ حِنْهُ، حُسْتُوكى مُسْتَوكا نِ مُسْتَوكا تُ-صرفص فيرفعل لأن مزيد فيد لفيف مقرون ازباب إمشته فعال يتحقو الاستناع بحياكما . علامت اس باب کی بیرے کراسے ماصنی میں چھر جرمت ہوتے ہیں -تين صلى تهيئٌ زائد - يعنى منترف مي تيمزه وصل كى دوسرى جيجي يتين اور ميسرى جگه تار إستحيى يستدجيني الشيخيام ، فكو مستنجي واستحيي يستهني السوعيام ، فيذات مستنجق مما استحيلي ماالستجي لَمْ يَسْتَحْيُ لَعُرْيُسْتَحْيَى أَذَي يُسْتَحْيِي لَنُ يَسْتَحْيِي لَنْ يُسْتَحْيَي لَ وَيُسْتَحْيَي المُسْتَحْيِينَ لِيسْتَحْيِينَ السَتَحْيِينَ حْيَكِنُ ٱلْأَمُومِينُهُ؛ اِسْتَحِي لِتُسْتَحَي ، لِيسْتَحْي لِيُسْتَحْيَ ، اِسْتَحْيِكِنَّ لِتُسْتَحْيَكِنَ ، لِيسْتَحْيِيكَ لِيُسْتَحْيَكِ حَيِينٌ لِيسْتَحْمِيكُ اللِّيسَتَخْيِينُ لِيُسْتَحْيَكُ وَالنَّحْمَعْنَهُ، لا تَسْتَحْي لا تُسْتَحْي الايسْتَحْي الايسْتَحْي الاتشابِيكِ لَا يُسْتَحْدِينَ، لا يسْتَحْدِينَ لا يستحيينَ ، لا تستَحْدِينَ لا تُسْتَحْدِينَ ، لا يستَحْدِينَ لا يستَحْدِين الظّري مِسْلَم، متحيى مستحسان مستخيات فصغير فعل مُلاثي مزيدة فيدلفيف مقرقان ازباب إنفِعالَ يحوِّل ألا في ذواع : المكونشين بيطف المقلامة است باب كي يد مسه كدامس ماصى بين بتاسيخ تعرفت تويت بين ا يېن سلى، د د لار يب نى متروغ يى بېمزه وصلى ، د ومهرى حبب كه توكنت إِنْنُوْسِي يَنْزُوِيُ إِنْبِدِوَاءً، فَقْتُصْنُزُورِ وَأَنْزُوْتِي يُنُوَلَى انْبِعَاشَ، بَذَاتَ حُتْنُوُدى – هَاانْوَطَى حُسَا الْنُؤْمِنَى الْمُرْبِنُؤُولُهُ يُنْوَدَ الْايَنْزَوِنِي لَايُنْزَوْمَى الْنُ يَتْنَزُونِي لَنْ يَتْبُرُطِى الينزويينَ لَيُنْزَوَ يَسِبُ ڂڡۊؘتَعُسُونُغُرَّلْكامل، مُسْنَبُومُسْتَوْمَان مُسْتَوَقِنَ مُسْتَوَيَةَ مُسْتَوَيَتَانِ حُسْتَوْمَاتُ «مَد ت مُسْتَوَقِنَ - مُسْتَوَا لَا مُسْتَوَلَانٍ مُسْتَوَيَاتٌ "امنه تله وتعليناً لكامل، مُسْتَحْي مُسْتَحْيَين مُسْتَحْيُون - مُسْتَحْيية مُسْتَحْيية مُسْتَحِيبًا بِنَ سَمَعَقِيبُ كَال مُسْتَحَى مُسْتَعَبَّدًا، مُسْتَعَبَّدًا، مُسْتَحِيبًا في مُسْتَحِيبًا في م مُسْتَحِيبًا بِنَ سَمَعَقِيبُ كَال مُسْتَحَى مُسْتَعَبَّدًا، مُسْتَعَبِي مُسْتَحِيبًا في مُسْتَحِيبًا في مُسْت تَتْخَذِهِ يَتَّان مُنْزَهِ كَاتُ امن علىه وتعريفُكُل ، مُتُوَجُعُو هُمَان مُنْزَوَدُنَ - مُتَزَوّاً * مُتَزَه كان مُنْؤَك كانتُ - ١٠منه

لَسَرْ يُدَاوَ ، لَا يُدَادِي لَا يُدَادِي ، لَنْ يُدَادِي لَنْ يُدَادِي ، لَيُدَادِيَنَ لَيمَدَادَيَنَ ، لَيمذ ادِينَ لَيُدَادَينَ ٱلْام مِسْتُهُ: دَادٍ لِسُكادَهُ لِيُكادِ لِيُنَدَادَ ، دَاوِيَنَّ لِسُكَادَيَنَ ، لِيكَادِيَنَ لِيُكَاذِيَنَ ، لِيك لِيُدَاوَيَنُ وَالْمَتَحْصِينَهُ : لَا تُدَادِ لَا تُذَاوَ ، لَا يُدَادَ ، لَا تُدَاوِيَنَ لَا تُدَاوَيَنَ ، لَا يُدَاوِيَنَ لَا يُدَاوَحَتَ، لَا مُدَادِينُ لَاتُدُادَيْنُ، لَايْذَادِينُ لَا يُدَاوَينُ ٱلنَّوْتُ مِنْهُ: حَدَادَى حُدَادَى حُدَادَيَاتُ س صرف صغير فعل ثُلاثي مزيد فيب الفيقت مفردن ازباب تفضَّل بريحون التَّقبُّوني، صرف صغیر معل لایی مرید سیب سیب از می ماضی میں قبل کچ سب ب قوی ہونا سے علامۃ اس باب کی یہ ہے کہ اس کی ماضی میں قبل کچ سب ب دو میں کام میں مار میں مار میں میں کام میں کام تَقَوْى يَتَقَوْى تَقَوَى مَقَوَى مَتَقَوِّر وَتَقُوْحَرُ مِنْقَوْى يَقَوِّيُ ذَذَاتَ مُتَقَوَّى مَا تَقَوْ مَا تُقُوْتِي لَهُمْ يَتَقَوَّ لَحُرُيْتَقُوْ لَا يَتَقَوِّى لَا يَتَقَوِّى لَنْ يَتَقَوِّى لَدُيْ يَتَقُونِي ل لِينْفُوْمِنْ لَيَنْقُوْمِنْ ٱلْأَمْرُمِنْهُ ٱ تَقَوَّ لِتُتَقَوَّ الْمُتَعَوَّ لِينَقُو مِنْ لِيَنْقُونِنَ ا تَنْقُوْ يَنُ الْيُنْفُوْ يَنْ لِيُتَفَوِّينُ وَالنَّحْ عَنْهُ ؛ لاَ تَتَفَوَّ لاَيْتَقَوَّ لاَيْتَقَوّ لاَيتقوْ لاَيتقوّ بَنْ لاَ تَتَفَوّ بَنْ فَوَيَنَ لَا يُنْعَذَّوْ مِنْ الْمُتَعَوَّينَ الْأُنْتَقَوْيَنْ الْايَتَقَوْيَنَ لِايَتَقَوْيَنَ الْقُرْفِ مِنْهُ، مُتَقَوَّى مُتَقَوَّيَن مرف صغير فعل لأتى مزيف ليفيف مقرون ازباب تفاعل يبوك أكتسا وحي، بإريزار علامَة إسس باب كى يسب كراسكى ماصى ين بالخ حرف بوت بي - تابي الملى ، وُدْلائد کے بعب دالقن مستغيروع مين تآوادرفاء كلمب س تَسَادُى يَسَنَادِى حَسَادِيًّا، فَهُوَ مُتَسَادٍ - وَتُسُوْدِيَ يُتَسَادُى تَسَادُي فَذَالتَ مُتَسَادُي - مَا تَسَادُى مَانْدُوْدِي لَحُرَيَسَنَا وَكُمْ مُتَسَاءُ لَا يَتَسَادُى لَا يُنَسَادُي ، لَنْ يَتَسَا دِى لَنْ يُتَسَادُى ، لِيَتَسَادُينَ لَيسَدادَينَ ، لَيَتَسَادُينُ كِيْتَسَافَيَنْ ٱلْأُمُومِنُهُ: نَسَاذَ لِتُنْسَادُ دِلِيَتُسَادُ لِيُتَسَادُ ، تَسَادَيَنَ لِتُسْسَادَيَنَ ، لِيَتَسَاوَيَنَ لِيُنَسَادُ يَتَ تْسَادَيَنْ لِشُسَاوَيَنْ الْيَتَسَادَيَنْ فِيُتَسَاوَيَنْ وَالنَّجْوَعَنِهُ؛ لا تَشْسَادَ لا تُسْسَادَ الايتسادَ لا يُسْسَادَ ا تَتَسَاوَيَنَ لَاتُنْسَاوَيَنَ ، لَا يَتُسَادَيَنَ لَايُتَسَادَيَنَ ، لَاتَسَادَيَنُ لَاتَسَادَيَنَ الايَسَادَيُن لايتسادَين فلوف منه ، معسادًى متساديان مُسَادًيات -يَعْلَكُالْ مُتَعَومُ فَوَيَا مُتَعَو وَنْ عَتَقَو يَهُ مُتَعَو يَتَانِ مَ ٢٠ وَيَاتُ ١٠ منه مَ وَتَعد وعد الكامِلْ مُتَعَد مُتَعَوَّيًا بِمُتَعَوَّوْنَ مُمَتَعُوّاة مُتَعَوّات مُتَقَوّ إِمَابٍ مُتَقَوّ إِمَتَ الله عَد الله وتصويف الكابل مُتَعَوّ مُعْسَسادًا مُعْسَا و فن - مُعَسّادِيةٌ مُتَسَادِيتُمَانِ مُعْسَا وِيَاسَتُ "مِن عُده وتعريفُ الكابلُه مُسْتَادُى مَسْبَادَيَانِ مُتَسَاوَوْنَ - مُسْبَادَاةُ مُسْبَادَاتَانِ مُسْبَادَيَاتٌ - ١٠ منه

101 نَ تُلَكَى مُجَبَّرُ مُصَاعِفْ ثَلَاتَى إِزِبَابِ أَوَّلَ فَعَلَ يَفْعِلُ بِيقَعِلْ بِجُولِ ٱلَّذِبَ ، کی ہیہے کہ اِسس کی ماضی میں تاین کا ع يں ذَبًّا، فَهُوَذَاتٌ - وَدُتَ بُذَتُ دَتًّا، فَذَا كَ مَدْ بُوْبٌ مِكَاذَبَ مَا ذَبْ مَا ذُ لَوْ يَذُبَّ لَهُ يَدُبِّ لِسَبِهِ سَنْهُ مَسْلَمُ يَذُبُبُ الْوَيْدَبَّ لَوْ يُذُبِّ لَهُ مِذَبَّ لَهُ مُذَبّ تُ لَا كُذُبْتُ ، لَنْ تَذُبَّ لَهُ ثُلُبَ الْسُدُمَّيَّ لَمُدَبِّتِنَّ ، لَبَذَبَّنْ لَبُذَبَّنْ الْآمرمينَهُ ، ذُبّ ذُ ذُبْتُ أَذْسُ بِتُذَبَّ لِتُدَبِّ لِتُذَبُّ لِتُدَبُّ مِنْ لَنَدْ مَنْ الْيَذُبُّ لَيَذُبُّ لِيدُبُث بِلِيدَ لِيُذَبُّ لِيُذْبَبُ ، ذُبَّنَ لِتُدَبَّنَّ ، لِيَذُبِّنَ إِيمُهُ بَنَّ ، ذُبَنُ لِتُذَبَّنُ ، لِيَذُبَّنُ الْيُذَبُّ الْأَعْدُ عَلَهُ لأ تَذُبَ لا تَدُبَ لا تَذُبُّ لا تَذْبُبُ ، لا تُذَبَ لا تُذَبِ لا تُذَبُ لا تُذبَب، لا يَدُبَ لا يَذُبَ لا يَذُ ذ مَبْ ، لَا مِنذَ سَ لَا يُذَبِّ لاَ يُذَبِّبُ ، لَا تَذُبِّنَّ لَا تُذَبِّنَّ ، لَا مَذُبَّنَّ لاَ مُذَبِّنّ تَدُبَنُ لَاتُذَبَّنُ ،لاَ يَذُبَّنُ لاَ يُذَبَّنُ ٱ لظَّرُفٍ مِنْهُ : مَذَبُّ مَذَبَّا نِ مَذَابٌ وَمُؤَيَّتُ كالْلَهُمِ مِدَبَّكُ مِذَبَّانٍ مَدَابٍ وَمُدَيَبٌ - مِدَبَّةٌ مِذَبَتَانٍ مَذَابٌ حَعُدَ يُبَّةٌ -مِدْبَابٌ مِدْ بَآبان مَذَابِيُب ومُدْدِينِتُ دَا فَعَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُدَكَّرُمِنْهُ : اَذَبَّ ادْتَان الْدُلُّونَ اذَابٌ وَأُنَّ يَبْ بْ ، دُفْ تَبَيَان دُبْيَات دُبْبَ وَدُبَيْن . ش إنبات فعل اصى معروف، ذ بَتَ وَبَاذَبُوُا ذَبَتَتْ وَبَتَاذَ مَنْ ثَنَا ذَمَهُ مَن ذَكَتْتَ وَمُعْتَ اذَكَ يُ دَبَيْتِ دَبَيْتُهَا دَبَبْتُكَ ذَبَبْتُكَ دَبَيْنَا ك**ِحْتْ إِنَّبَاتَ فَعَلِ مَصْ مجبولٍ و ذُبَّ تَ** دُبَّا فَجُوْا فَتَتَ دُبَّتَادُ بِبْنَ ذَبِيتَ دُبِبُتْمَا دُبِبُتُو دَبِبُتِي دَبَبْتَمَا دُبِبَتَنَ دُبِبَتْ دَبِينَا بِح**تْ لَعَى فَحل م** ىف، مما ذَبَّ مَا ذَبَّا عَاذَ كُوْ إِمَاذَ نَتْ مَاذَ تَتَا عَا ذَبَ بَنْ مَاذَ بَنْتَ مَا ذَبَيْتُ إِمَاذَ بَسْتُو عَمَّا دَبَنَتُ مَاذَبَنِتْ مَامَاذَ بَبْنَيْ مَاذَبَنِتْ مَاذَبَنِتْ مَاذَبَنِ مَاذَبَتِ مَاذَبَ مَاذَبَ مُ د والجُمُوعُ المُكسَّر ة: ذَيَّةٌ، ذُ بٌ، ذَبُوُ بٌ، آذَبَابٌ، ٢ ا منه

مَا ذُبُوا مَا دُبَّتْ مَا دُبَتْ مَا ذُبِبْ مَا دُبِبْتَ مَا ذُبِبْتَ مَا ذُبِبْتُمَا ذَبِبَتْ مَا ذُبِبْتِ مَا مَا ذُبِبْنَا بِح**تْ إِنْبَات فَعلَ مُصْار عَمعروفَ:** يَذُبُّ يَذُبَّ نِذَبُ تَذُبُ تَذُبُ تَذُبُنَ تَذُبُ تَذُبُ تَدُبُوْنَ تَدْبِينَ تَدُبَانِ تَدْبِينَ أَدُبُ نَدُب**َ حَتْ إِنْهَامَت فَعَلْ مُضَارِ حَجْمِولٍ :** بُذَبَ يُذَبّانِ مُذَبُّوْنَ مُذَبّ تَذَبَّانِ مِدْبَبَىٰ حَدَبَ مَدَبَّانِ مَدَبَوْنَ مَدَبِينَ مُدَبَّنِ مُدْبَبَنَ أَحَبَ مِنَدَبَ مِنَدَبَ مَدَ ۣڽ*ۮ*۪۫ڰؘؚڵٳؘۑۮڹؙۜڗؙڹ؇ؾۮؙڹۘۊؙڹؘڵڗڐٛڹؖڰؘڵٳڹڵٳؾڐٛڹۺؘڬڶڗڐٛڰؚۘڵٳڗؘڎڹۜٵؚڹڵٳؾۮڹۊ۫ؽڵڐڐڋؾؽ۬ڵٳؾۮؖڲٵڹڵٳڗ لَاآدَبُ لَائِذَبُ **بِحِتْ لَفَى فَعَلَّ مُصْارِحَ جَمِولَ:** لَائِيدَ بُلَائِذَبَانِ لَائِذَبُوْنَ لَإِبُّذَبَ لَا يُذَبِّ لَائِذَ بَوْنَ لَا يَدَبَّ لَائِذَ بَوْنَ لَا يَد تَذَبُ لَا تُذَبَّانِ لَاتَذَبُوْنَ لَا تُدَبَّيْنَ لَا تُدَبَّانٍ لَا تُدَبَّيْنَ لَا أُخَبُ لَا حَذَبُ **بِحت لَفَى مَا جَد كَبُن درنعانُ تَقَبَّر** روف: كَنْ يَدُبَّكُنْ يَدُمَّاكُنْ يَدُمَّاكُنْ يَنْدُبُونَا لَنُ تَذُبَّكُنْ تَدُبَّاكُنْ تَدُبُبُنَ كَنْ تَذَبُبَكُن تَذُبُبُوا لَنْ دُبِينَ مَنْ مَدْبَالَنْ مَدْبَبْنَ لَنْ أَدُبَ لَنْ نَدْبَ مِحت لَعْ مَا كَيدَ بَكَنْ در فَعل مُسْتَقْبُل مجول: لَن يُتَذَبَ لَنْ يُحَدِّبًا لَنْ يُحَدِّبُوا لَنْ حُذَبَّ لَنْ تُحَدَّبًا لَنْ يُحَدَّبَ لَنْ تُدَبِّ لَنْ تُدَبَّا لَن تُحَدَّبُوا لَنْ تُحَدَّبُوا لَنْ تُحَدَّبُوا لَنْ تُدَبِّعُوا لَنْ تُحَدَّبُن لَهُ أَدْبَ لَهُ مُحْدَى مُحْتَ نَعْي حَصْبَ مَكْمُ ورفعا مُسْتَقْبِل معروف : لَمُرَيَدُ بَ لَعْرَيَدُ بَ لَغُ لَمْرَيَدُ بَمَا لَمُرْيَدُ بَقُوا لَمُرْتَذُبَ لَمُ تَذَبِ لَمُ مَتَذُبُ لَعُرَقَدُ بَبْ لَقُرَتَدُ بَالْمُرَيذُ بَيْنَ لَعُ تَذُبَ كَعُرَتَدُ بُ لَوْتَذْبَبُ لَعْرَنَدُ بَالَمُ تَذُبُوا لَمُ تَذُبَّ لَمُ تَذُبَّ لَعُرْتَدُ بَبْنِ لَعُرَادُبَ لَعُرَادُبَ لَع لَمُ نَذَبَ لَعَنَدَ بَ لَعَنَدَ بَتَ بَحِتْ لَفَى مَحْتَ بَلَمَ وَفِعَلَ مُسْتَقِبِلَ مَجْهِولَ، لَعُرُيذَ بَ لَعُرُيذَ بَ لَعُرُيذَ بَ كَمُرْبَدُبَبِ كَمْرُدُيًّا لَمْ يُذَبِّوْا لَمُ تُذَبّ كَمُرْتُذَبّ لَعُرْتُذَبّ كَوْتُذَبّ كَعْرُدُ بَبْ كَعْ كَمْ تُذَبُّ كَرْقَدْ بَبِ كَمْ تُذَبّا لَعُرْتُذَبُّوا كَمْ تُذَبّا كَمْ تُذَبّا كَمْ تُدْبَيْنَ كَرْأُذَبّ كَر مَذَبَ لَعَرَنَدَبِ لَعَرَنَدَبَ لَمُ نَدَبَبُ بِحِتْ لَامَ تَاكْبِر بِالوَنَ تَأْكِيرُ تَعْيَالُهُ رَفْعَالُ مُتَعْيَالُ مُوَفَّفٌ: ` نَيَدُبْنَ لَيَدُمُ لتُدْبَنَّ لَبَدُبَنَّ لَبَدُ بِكُنَّانَ لَبَدُ بُعُنَّانَ لَتَذُبُّنَّ لَتَذُبَّنَّ لَتَذُبُنَّ لَتَذُبُّنَ لَت بحت لام ماكيد بالون ماكيد فعيله در فعل مستقبل مجهول: كَيْحَدَّبْنَ مَيْهُ بَآنِ لَيْهُ بَنَّ لَتُعَدَّبْنَ الش كَتُحَدَّبَنَى كَتُبَدِّبًا إِذْ كَتُدَبِّنَ كَتُدَبِّنَ لَتُدَبَّانَ كَتُنَهُ بَيْنَانَ كَامُ بَكَر الذينَ الم خصفرورفعل مستقبل معروب، ليدمينى ليدمين لتشني كتندين التذيب التذين تتذبين لأختبن لك في تتبي محت لام ما يجد جانون ما يحد تخفيفه ورفعل مستقبل مجمول المكتدَبَّنْ لَيُحَدَّ بَنْ لَتُحَدَّبُنْ لَتُدَبُّنُ لَتَهُ بِنْ لَادَ بَنْ لَسُدَبَى بِحِ**تْ امرحاصِرِ معرَوفَ، ذُبَ** ذُبِّ ذُبِ أُذْبُبُ دُبَّا ذُبُواذُبِ دُبَّا ا، بسبن مجمت امرحاصر مجهول: لِتُحَدَّبَ لِسُدَبَ لِسُدَبَ لِسُنَدَ بَدُ لِسُدُ بَبَ لِسُدَ بَالِسُدَ بَعُوْ السَعُدَ لِيسَةَ بَمَا لِسَدْ بَبُنَ **بِحَسَنَ آمرُ عَامَبِ مَعرُوفَ :** لِيسَدُّبَ لِيسَدُّبَ لِيسَدُّ بَسَ لِيسَدُ بَتَا لِيسَدُّ بَعَا

ڹؙۮؙڹۜٳؾۮؙؾؚٳؾڐڎؖڹؙڕؾڐۺڔؙٳؾڐؠٛڹ۫ٳؽڐٛؠٛڹؙٳۮۮؠؾٳۮۮؾٳۮڋ؆۪ٳڐڋؠؿٳڹۮؙڹڗٳؾۮؙؾٳڹڶۯؾڔٳڹۮؿڹ **ڔڬۺٵڡڟٳؠؘ؉ؚڿۄڕڸ؞** لاُذَبَ لِيُذَبَ لِيُذَبَ لِيُذَبَبُ لِيُدَبَّ لِيُدَبَّ لِيُدَبَّوْ لِتُذَبَّ لِتُذَبَّ لِتُذَبِّ لِتُدَبَّ لِيدُبَيْنَ لِأُدَبَّ لِيُذَبِّهُ لَا ذَبّ لِنُدَ بَوَ لِنُدَبَّ لِنُدَبِّ بِحِتْ الرِماص معرف بالون الكر تُقْتِلِه: دُبَنَ دُبَانَ دُبَنَ دُبَانَ أَد بَنْنَانَ بِحِتْ المما م فيجول بالون تاكيد فقيله: يتدبَّن التدبَّكَةِ التدبُّن يتذبَّن يتدبَّن التدبُّكَة التدبيكان بحث امرعا مرموت بالون ماك ڷ۬ڝۛٙڵ؞؞ؚۛڸؽۜۮؙڹؘۜڹٞؖڮٮۮۘؠٵؘٛۊۜۑؾۮؙؿؘڽۜٞڸؾؘۮؙڹۜؽۜٞٳؾڐڎڹؘٵؘڹٙٳؾڎؠ۫ڹٵٛڹٙٳۮڹؾٞٳڹۮڹؾٞ*ۦڮڟڟۄڠٵڡؘٙڛڿ*وڶ؞**ٳۏڬٵڬڋۿؾ** لِيُدَبِّنَ لِيدَ بِنَا لِيدَبَقَ لِتَدَبَّنَ لِتَدَبَّنَ لِتُدَبِّدَةِ لِيدْ بَلِنَانَ لِأُدَبَّنَ لِسُدَبَّتَ لِيد اليدخفيف، أُدَبَّن أُدُبَّن أُدِبِّن بحيت امرحاصر مجهول بالون تأكيد خفيف، المُدَّبِّن أَليَّدُ مَتْ أَ مرْغَامُ معروف المحلِّن مَاكْ يَخْفِض المَدْبَقَ لِيَدَبَنَ لِللَّهُ بَنْ لِلَّذُبَنَ لِللَّهُ بَحمت امرغامُ مجمول بانون ماكير مغيضر: يايسدَيْن يسدَيَّن لِيسدَيَّن لِدُوَيَّن لِدُوَيَّن لِدُوَيَّن مِح<mark>ت بَى حاصر معروف، لا</mark> تَذُبَ لَاتَذُبَ لَاتَذُبُ لاَتَذَبِبُ لا تَذُبُ لاَتَذُبُوا لاَتَذُبُوا لاَتَذُبَ لاَتَذُبُ لَاتَذَبُ بَى مَكْفَر مجبول: ذَبَ لَا تُذَبَ لَا تُذَبَ لَا تُذْبَبَ لَا تُذَبَّ لَا تُذَبَّ وَالَا تُذَبَى لَا تُذَبَا لَا تُذْبَبْنَ بجعت بِنَى عَامَ بَع ذُبَّ لَا يَذُبَّ لَا يَذُبُّ لَا يَذْبُبُ لَا يَدُبَّ لَا يَدُبُوا لَاتَذُبَّ لَاتَذُبَّ لَاتَذُبُّ لاتَذ بُبُ لَاتَذَبَ إَلاَ يَذُبُّ بَنَ لَا تَ لَوَا وَمُتَ لَاً أَوْبِ لَا أَدْمِبُ لَا مَدْمَتَ لَا مَذُبَ لَا مَدُبُ لَا مَدْبُ بَح**يث مِنِي عَامُب مجبول؛** لاَمُذَبَّ ؞ ؖ ڹۮۜڹ؆ۮڲڐۜٞڹۘڰۮؽۮڹؽؚ؆ۮڲۮڹۜٵڒڲۮڹٷٵڵۯؾؙۮڹۘڰ؇ڎڎؾ؆ۮؾؙڐڹۘڰۮؾڎڹۘڹ؆ۮٷڐؠٛٵڵۮڡۣۣڋڹٙڹؽؘٷٙٳڎ لِأَهُ أَوَبَ لَا أَوَبَ لَا أُوْبَبُ لَا مُدَبَّ لا مُدَبِّ لا مُدَبِّ لا مُدَبِّبُ ب**حث بْبِي حاصر معروف بالون تاكير** ى ئىلە: كَتَنَهُ بَنَنَّ لا تَدُبَّا نِ لا تَدَبَنَ لَا تَذُبِنَ لا تَدُبَانِ لا تَدَبَّانِ بِمَتَ مِن مام رَجورول بالون تاكير الم، لا تُذَبَّنَ لا تُذَبَانَ لا تذبَنَ لا تُذَبَّنَ لا تُدَبَّنَ لا تُدَبَّنَانِ لا تُذَبُبُ إِنَ ب رفقت للم: لَا يَذُبَّنَّ لَا يَذُبَّآنَ لَا يَذُبِّنَ لَا تَذُبَّنَ لَا تَذُبَّنَ لَا يَذَبُّنُنَانٍ لَا أَدُبَّنَّ لَا عَدُبَّنَّ كَعَسْط ىنى غائب مجرول بالون ماكيد لفي الديدة، لَا يدَبَّنَّ لَا يدَ بَآنِ لاَ يدَبُّنَّ لا تَدَبَّنَّ لا تَد لأأدَبَنَ لاَ مُذَبَنَ **بحث بني حاصر معروف بالون باكر رخيف،** لاَ تَدُبَّنُ لَا تَدَبَّنُ لَا تَدَبَّن ى حاصر مجهوك بالون تأكير خفيفتر : لاَ تَدَبَّنْ لاَ تَدَبَّنْ لا تَدَبِّنْ بحث بني غائر معروف بالون فيصبُ، لا يَد مَبَن لا يَدُبَنُ لا مَدُبَنُ لا مَدُبَنُ لا مَدُبَنُ بم**ت بني فاسب ججبول بانون ناك**ي مت، لأيدَبَنْ لأيدَبَنْ لأَيدَبَنْ لأَمَدَبَنْ لأَوَبَنْ لأَوَبَنْ لأَوَبَنْ لأَوَبَنْ مُعَنْ مُعَنْ دَابَة دَابَتَانِ ذَابَتَانَ بَح**ت المسمِ فعول: مَدْبُوْبٌ مَدْبُوْبٌ مَدْبُوْبَانِ مَدْبُوْبُونَ مَدْبُوْبَة** مُمَد بُوْبَنَانِ مَدْبُوْبَاتٌ ـ

ادْ غَامًات و می د صیغہ داحد مذکر غائب بجن انجات فعل ماضی معروف - اَصْل میں نَدَ بَتِ بر وُزْنِ نَصَرَتِها - ایک جنس کے د وحرف متحرك ابك كمِمه مي داقع جوت ناقبل أن كامتحرك تما - تو مُصاعف ك قاعده مله كمساعة أول كوساكن كر يطنى مِي مُدعم كرديا- ذَبّ بروُزُنِ ذَلَّ برُكيا مَتِيدَ مُتْ، صَيند واحد مذكر عامّ - بحث إنبات فعل مُضارع معروف - أَصْل بن ید بہ م بروزن یک صورتھا ۔ ایک جنس کے دورف متحرک ایک کم میں واقع ہوتے ماقبل ان کا میسے مدہ ، غیر یا کے تصغیر تفا-توم صاعف كم قاعده مت كمسا تداول كرتركة نقل كرك، البلكودير، اول كاثاني من إدعام مرديا - يَدْتُ بَرُزْن يَصْلُ مُوكيا لللهُ مُبْتُ عيدة واحد مذكر حاصر يجت امر حاضر معروف بديه بناياكيا س تدفيض عيده واحد مذكر حاصر يجث إنبات فعل مُضارع معروف سے - ایس طرح که تآء علامته بمضارع کو دورکر کے آخرکوحالة وفقی کیوجیسے ساکن کرنا چا سبینے الما - مكراجة إع ساكنين في لازم أف كيوج ، () بعض ونت رجيف إلا في الفَتحة أخف المحوكات () بعن كسره وينف مي لاَنَّ السَّسَاكِنَ إِذَاحَتِرَكَ بُحَوَرَكَ بِٱلْكُسُورَة ، بعض عين كلم كي تُوانقة ك مصفقة فيتري (م) بعض تكتَّر إدغام كريت من لاتُدُ أصْلُ يهم تُعَرِّف كغر مَذ كُتَ دغيره من تحكم فَأَتَتْ ، حسفه واحد مُكّر بحث أمم فاعل وأصل من ذاب بروُزْنِ نَاصِط عَلَما ايك جنس ك ودرون تحرك ايك كَمْر بي والع بوت المرأن كاساك مَن الموتما - توشفاعت ك فاعدہ سنہ کے سا تقرا وّل کوساکن کرکے تانی میں مُدَعم کردیا ذاتی بروزنِ فَالَ مُحوكما مُسَدِّج : صيف واحد فكرم بحث اسمُطْرِف - أصَّل بي مَذْبَيْتٌ برقُدْنِ مَنْصَدْرٌ تفا - توحوف ايك جنس كه ايك كلمدين جمع بوت كانتل ساكن غير الأليُّ تھا ۔ تو مُضاحف کے قاعدہ مند ۔ کہ ساتھ پہلے حرف کی حرکتہ ، قبل کو دے کر ، ثانی میں ادغام کردیا ۔ مَذَبَ بولاً ل ہوگیا - کُذا جِذَبِ اسم المرحذَ ابْ - صبنہ جمع بذکر، بحث ایم ظرف - اُحس میں حَذَابِبُ بِرُوزُن حَنَّا حِبورُ بخا- ایک جنس -وتوسف جمع بوسف - ما قبل مدّه نا مدد عقا الومضاعف ك قاعده ملكيسا تد يبطح دب كوساك كريمة وسريراد غا كريد مُدّات فرزن مُقَال عُذَنِ مُنْ يَصِيرُ تَحا - ايك جنس كے دو تردن متوك ايك كلم بيں واقع ہوئے - ما قبل أن كايا ئے تصغير تقلی - تو مُضاعف كے قا ٢ ما عقد ، ا دل کوساکن کر کے ثانی میں مُدغم کردیا مُذَكَبَتُ برؤُنْنِ مُفَيْلَ تَکْلُو ، مُدَينُهُ بنی اچم می خد دامد تونت سبحث اسم تعفيل -من میں جُوبتہ بروُزن نصوری تقا - ایک جنس کے خوجرون ایک کرزمیں دافتے ہوئے ، اول ساکن تقا رنومضاعف کے قاعده مد كما يله ، أول كانها في ميرا دخام كرديا - ذُبَّى بعدُنْن خُلَّى بوليا فَدْسَبْ ، - استُم مُتَخر كُ ألاً وسطر وفي في توجي ا د غام نبی مُواس خام د ۲ : _ مُضاعف ، لا فی مجمّ کرد جرب اصول (تین بابر) سے آنگ ب المصيغة مجبول ، ميغه معردف ك تابع بوكار امنه

صرف صغير فعل تلكين محرد مصاعف إزباب دوم فعل يفع المريحوں القورام بهاكنا-علامة إكسس بابب كالتب كرامسكي لصخاص عين كم فتوح اور مضارع مي محسور بوداسي فَرَّيَضٍ فِوَابًا ، فَهُوَ كَانَ بَرَوَفُنَ يُعْرُهُ فِلَكَمْ ، فَذَالتَ مَعْرُوْنُ - مَاخَتَ حَافَقَ مَا فُرّ لِعَدِيْنَ لَعَرْ يُعْمَى مُ الدَيْفِي لَا يُعَمَدُ ، لَنْ يَتَعْمَ لَنْ يَعْفَى الْبَعْمَ نَ لَيَعْمَ نَ أَلَي الأمرينية: فِرْوَخِوْرِ إِنْحُوْمَ ، لِتُعْتَى لِتُفْتَى لِتُفْرَى، لِيَفِوْرِ لِيَغْتِرِ لِيعُنَى لِيعُتَرَ لِيفُوْرَ الم فِوَنْ لِتُفَوَّنُ الْيَفِقَ، لِيفَرَّىٰ وَالنَّفْحُيْعَنُهُ؛ لَاتَفِنَ لَا تَفِنَ لاتَفَنَّ لاتَّفَنَ لاتُفْرَ كَوَيْفَنَّ لَا يُفَنَّ لَا يُفْرَرْ الا تَفِنَّ نَ لَا تُفَرَّتْ الاَ يَفِزَّتْ لا يُفَرَّنْ اللَّفِن مُسَهُ ، مَفِوْكُمَعِزَّانِ مَفَاتَهُ وَمُفَكِّدُ دَالْالَةُ مِنْهُ، مِفَرَّمِعَزَّانِ مَغَانَهُ وَمُفَيَّذُ مِفْرَة مِغْدَانَانٍ مَعَادِيْرُوَمْمُغَبُّرِيْرٌ وَالْعَلْى التَّغْضِيْلِ الْمُدَكَكُومِنُهُمْ فَوْاكَنِ الْحُوْفَ اكْتُ والْمُؤَنَّتُ مِنْهُ: فَرْى فَرْيَانٍ فُوَيَاتٌ فُرَكْوَ فُرَكْوَ فُرَيْرِي -مرفكبه بحث إنبات فعل ماضى معروف ؛ فَتَرَفَتُوا فَتَرَقَ فَتَرَمَا فَوَدْنَ فَتَرَمَا فَوَرْتَ فَوَدْتَ فَوَدْ تُعَا فَوَنْ تَعْرَفُولُاتٍ فَمَدْتِعُمَا حَرَّهُ ثَنَ حَرَدْتُ حَدَّنَا بِحَ*تَرِ* تَبَا**ت فَعَلْ مَاضَى مَجُولَ؛** نُوَّذُوَ الْحَدَّةِ الْحَرَّةُ الْحَرَثُ فَوَرْبَ خُدَرْتَ فُورْتُ أَقُرْهُ الْحُر فوريت فيرم مما فيرم مُنَّ فيور من فيرم فا مجعث لفي فعل ما صى معروف : مَا فَدَّ مَا فَدَّ الأ بحث فَق فعل ماصى مجبول: مما فُوَما فُوَرًا الا بحث إتبات فعل مُصارع معروف : بَفِرُ يَفِرَّ إذِ يَفِرُ وَذَهُ تَفَرُ تَفَرُ يَفُ_ادْنَ تَفِيَّ تَفِيَّانِ تَفِي**َّدْنَ تَفِرَّ بِيَ تَفِيَّانِ تَغْ**ِيَهُنَ اَفِرُنَفَنَ ^مُحِتَ *إِنْبَات فَعَل مُصَارًع مجهول*: يُفَرَّ يُضَ إِنِّ يُفَرَّ وَنَ تُفَرَّ أَنِي يَقْمَى لَا يَقْمَى نُعْمَ تُفَرَّانِ تُفَرَّ ثُفَرَانِ تُفَرَانِ تُفُرَى أُفَرَ غُفَرَ بِحس**تُ** الفي فعل مُضارع معروف: لدَيَفِرُّ لا يَفِرَّ إن الخر بحت نعى فعل مضارع مجهول: لا يُفَرُّ لَا يُعَرَّ إ بحت نعى تاكيديكن درفعل مُستقبل معروف؛ لَنْ يَفِوَّ لَنْ يَفِوَّا لَنْ يَعِوَّا لَنْ يَفِيُّهُ لَا تَفِمَّ الْنَ لَنْ نَفِعْ لَنُ نَفِي آلَ: تَفِي وَا لَنُ نَفِيرٍ في لَهُ بَفِنَّ الَنَّ تَغُرُدُنَ لَنُ أَخِرَ كَنْ نَفِمَ بحسث نفى كَكِر بَكُنُ وفعل مستقبل مجبول: لَنْ يَعْمَ كَنْ يَعْمَ الَنْ يَعْمَ وَالَنْ تُعْمَ أَنْ تُعْمَ أَنْ تُعْمَ إِلَى يَعْمَ وَن يَفَهُ قُوْلَ لَنْ تُفَيَّ ثَيْ لَنْ تُغْمَرُ اللَّهُ تُفْهَ مِنَ أَخَذَ لَ يَعْدَ مُعَدَّ مِعْنَ جَحْدَ كَمُ ورفع مستقبل معروف ، لَمُ إِيَفِنَ لَمُ يَفِي لَمُرْيَغِي لَهُ لَمُرْيَفِنَ الْعُرْيَغِي وَالْعُرْتَفِنَ لَعُرْتَفِي لَعُرْتَفِي لَعُرْتَفِي لَعُرْتَفِي لَعُرْتَفِي لَعُرْتَفِي لَعُرْتَفِي الْعُرْتَفِي لَعُرْتَفِي الْعُرْتَفِي الْعُرْتَفِي الْعُرْتَفِي الْعُرْتَفِي الْعُرْتَفِي الْ الَمُ تَفْيِ وَ لَعُرْتَفِنَّ إِ لَمُرْتَفِقٌ وَا لَعُرْتَفِيَّ يَ لَعُرْتَفِنَّ الَعُرْتَفِي وَنَ كَعُرًا فِتَر لَدْ نَعْبُ رُبِحِتْ نَعْي حَجْبُ رَكُمْ دَرَفْعَلْ مُسْتَقْبِلْ مِجْهِولْ؛ لَمُرْيُعُمَّ لَمُ يُفَمَّ لَعُر يُفْهَادُ لَعُر يُفَعَيْ

لمو الهجموعُ المُكسَّرةُ: فَوَّةٌ، فُوَّارٌ، فُوَّرٌ، فُوَّرٌ، فُوَّ آءُ، فُوَّانٌ، فِوَّانٌ، فِوَارٌ، فُرُورٌ، أفرارٌ، ٢ ا منه

دُبُفُوَكُمُ تُعُمَّا كُمُرْتُعُمَّا لَمُرْبِعُمَا ذَنْ كَعُرْتُهُمَّ كَمُرْتُعُمَّ كَمُرْتُعُمَّ كُم تُعُمّا كُم تُعُمّا كَمُرْتُعُمّا كُمُرْتُعُمّا كُمُرْتُعُم مُنْ حُدْنُعُمَّ العُرْفُعُمَدُنَ لَعُرْا خُوَّلَعُدْ الحَرِّ لَعُرْا فُوَدْ لَعُرْفُعُمَّ كَعُرْفُقُمَّ لَعُرْفُقُم وتجنت لام ماكير بالون أ لْفِيلِ در مُعل مُسْتَقْبِل معروف، لَبَغِيَّةَ نَا يَفِيَّ أَنِ لَيَفِتَهُ مَا لَتَفِيَّ أَنِّ لَيَغِ دَنَاتِ لَتَفْتَ نَا يَ تَتَخِرُكُنَّ لَتَفِنَّ لَتَفِيَّ إِنِّ لَتَقْرُاذِكَانٍ لَأَخِرَةَ لَنَفِيَةً لَ مُحت لام مَاكيد بالون ماكيد لقيد رفل مستق كَبُول، لَيُفَرِّنَ لَيُفَرَّ أَنَّ لَيغُرُونَ لَتُفَرَّ نَ لَتُفَرَّ أَنَّ لَيُغْمَ رَنَّانٍ لَنَفَرَ ذَكَرَ ل لَتَعْرُ ذَنَابَ لَدُخَرَنَ لَنُعْمَ نَ تَجْمَتْ لامَ تاكيد بالونِ تاكيد خضيفه در نغل مُستقبل معروف، لَيَوْنَ لَيَعَنَّهُ نَ لَتَغِرَّنُ لَتَعَمَّرُنُ لَتَغَرَّنُ لَتَغَرَّنُ لَتَغَرَّنُ لَنَعْرَةً نَ لَنَعْرَةً بح**ت لام ماكير بانون تا يجد عنيفر درم** مُعْسَرُ مجمول: لَيُفَرَّنُ لَيُفَرَّنُ لَتَقَرَّنُ لَتَفَرَّنُ لَتَفَرَّنُ لَتَغَرَّنُ لَتَفَرَّنُ لَنفرت بحس روف : فِجْوَ فِيرْدِ انْبِدِ فِيرَا فِتَوْدْ افِتِهِ فِي لِقُورَ مَن بحث امر **حاصر مجهول :** لِتُفَتَّر لِتُفَعِّر لِتُفَتَّ وَالِبَعَيَّةِ لِتُفَتَّ التَّفَنَّ ذِنَ بِحدث ا مرْعَا بَبِ معروف ؛ لِيَفِقَ لِيَفِتِ لِيَغْ الرليقِرَة اليَفِتَ لِتُفَتَّ وَاللَّهُ لِتَفْرِدُ لِتَغَيَّزًا لِيَنْهَى دَنَ لِأَخِرَ لِأَخِرَ لِأَجْرِدُ لِنَعْمَا لَيَنْفِرِ لِنَفْرِهُ تجعش المرغانب ججول لِيُفْرَدُ لِيُفَرَّا لِيُغَرَّوُا لِتُفَيَّ لِتُغَرَّ لِتُفْرَدُ لِتُفَتَّا لِيُفَرَدُنَ لِأَخَوَ لِأَخَوَ لِنُفَا لِيُ رمعروف بالون تأكيد تفيب له، فِرَّتَ مِسْتَآبَةٍ مِسْتُونَةً مَنِ فمسلع لتفرّد لتفرّد لتفرّ لتفري لتفري لتفري لتفرّ ، أمر حاصر مجهول بالون ناكه ا مرغانب معرف بالون تأكيب تفتيسار، لِيَفِرَّةَ لِيَفِرَّانِ لِيَعَرُّهُ لِتَفَرَّدُ لِنَعْرَ أَلَا **ت امرغائب مجهول بالون ماكيد تقييس له: المُفَتَّ**ذَ لِيُفَتَّانَ لَيفَقَ لِنَعْ لِتُفَرَّآنَ لِيعْمَا دُنَآَةٍ لِأَخَرَةَ لِنُعْرَانَ مَحْتُ المرحا مزمع بالمرغابتيه امرحاصر مجيول بالون تاكيد تحقيقته ويتفترك ليتفرز كتفرز تجعت ن تأكيد مَضيفَه ، لِبَغِرَّة لِيَفِرَّة لِتَفِرَّة لِتَفِرَّة لِدَفِرَة لِنَعِرَة بحث امر عام بعرول بالون لِيفَيَّنَ لِيفَةٍ نُ لِتَفَرَّنُ لِدُفَتَنَ لِينفَرَّنُ لِنِفَرَّنَ لِنِفَرَّنَ لِيفَقَرَنُ لِيفَقَرَنُ خِنَّ الَاتَخِبُ فَا لَدَتَفِيٍّ ثَ لَا تَغِمَّا لَاتَفِ ذَنَ بِح**تْ بَبِي حَاصَر جُهُولَ :** لَاتَفَرَّ لَاتُفَرِّ لاَ تُفَوَّا لاَ تَفَوَى الاَ تَفَرَى لَا تُفَمَّ الاَ تَفْرَدَنَ بِحَتْ بَهِي عَامَبٍ مِعروفٍ : لَا يَفِرَ لَكَيْفِرِ لَا يَفْرِرُ لَا يَفِرَّ لَا يَغِرُّوُا لَاتَفِرَّ لَاتَغِرَّ لَاتَغِمَ لَا تَغِمَّ الَايَفْ دَنَ لَا أَفِرَّ لَا أَفِرَدُ لَانَغِنَ لَانَعْنِ كُلُعُنْ محسب نبي عامتب مجيول دلايفَرَّ لَا يُفَدِّ لَا يُفَرَّ لَا يُفَرَّ لَا يُفَرَّدُ الْا يُفَرُّدُا لَا يُفَرَّدُ الْأَسْفَرَ لَا تُفَرَّدُ لَا يُفَرَّ لاَيفُوَدَنَ لَذَا فَتَ لَذَا فَيَ لَذَا خُوَرُ لَا نُفَوَّ لاَ نُفَوَّ لاَنُفُو*نَ مَجتُبْهِى حاصرمعرو*ف بانونِ ما

لمد ولَدَ مَعِناً ذَ لَا تَغِناً إِذَ لَد تَغِنانَ لَد تَغِنانَ لَا تَغْرَانَ لَا تَقْرِدُوا إِلَى ا فَيْسِلْهِ وَلَا تُفَتَرَةً لَا تُفُتَنَا إِنَّ لَا مُعْمَانًا لَا تُفَمِّرَةً لَا تُفْتَى أَنِي لَا تُفْمَ لُنَاتِ بحث بني غائب معروف ن تأكيب الجيسار، لا يَغِرَّ فَأَ لَدِيغِيَّ أَنَّ لا يَغِيُّ فَا لَدَ عَفِرًا فَي لا تَغِرَّ أَنَّ لا يَغُر النّ بحث بى غائب مجهول بانون تاكير لغيب ، لا يُغَرِّنَ لَد يُعَمَّرُ أَنَّ لَد يُعَمَّ أَنَّ لَد يُعَمَّ أَنَّ لَا ي لَا أَخَوَنَ لَا مَعَوَى جَعَبَ بَهِي حَاصَر معروف بالون تأكير خَفَيضُ الدَّيْفِ لَا تَعْقَقُ لَا تَغْرِي أَن بحث بنى حاصر مجبول باون تاكيذ منيفة لا تُفَتَد لا تُفَتَد تُد تُفَرَّن لَد تُفَرِّن بحس بنى غائب معرف بالون مَالِيهُ مُعْفِيضٌ، لاَ يَفِتَنُ لاَ يَفِتُنُ لَا تَفِتَنُ لَاَ أَفِتَنُ لَا نَفِتَنَ * بحث مَنِي عَامَب مجيول بَالون الجُد خصيف ، لَدَيْفَتَنَ لَدَيْفَتَنَ لَدَيْفَتَنَ لَأَمَنَ لَا أَخَتَنَ لَدَنْفَتَنَ سَحِت أَسِم فَأَعِلْ فَأَدْفَ أَوَا فَأَكْدُ بين في فَاتَرْتَانِ فَاتَرَات محمت المحم مفعول ، مَفْرُ وَدُمَعْنُ وَيَ انْ مُغْمُونُونَ مَعْمُدَة مُون مُعْرُد صرف صغير فعل ثمَّا في مُحَرَّد مُصَاعف ثلاثي ازباب سوم فَعِلْ يَفْعُلُ مِتْعُونَ أَكْمَتُ بَحْقَوْمًا علامته اس باب کی بیرے کرائے ماصی میں عین کلمیت و اور شصال عی صف توح ہوتا ہم مَسَى بَهَنَّى مَتَّا، نَهُوُ مَاسَ - وَمُشَرْمَتِي مُشَا، ذَذَ إِنَّ مُسْبُوْشُ - مَا مَشَ مَا مُشَ لُعُرْبَتَي كُمُ بَعَيْنَ يَمْسَسْ، كَرْيُسَنَّى كَرْيُسَنَّى كَرْيُسْتَ، لَا يَسَقُ لَا يُسَنَّى مَنْ يَسَتَى مَنْ يَسَنَّى كَنْ يَسَنَ لَدُونِهُ، مَتَّ مَتِن إِمْسَنْ النِّسَقَ لِيُعْبَق لِيمَتَنْ المَسَنَّ لِيَمَتِن لِيمَتَنَ لِيمَتَنَ لِيمَتَن لَدُونِينَهُ: مَتَ مَتِن إِمْسَنْ النِّسَقَ لِيعُبَق لِيمَتَنْ المَسَنَّ لِيَمَتِن لِيمَتَنَ لِيمَتَنَ لِيمَ وَاللَّفِي عَنْهُ ؛ لَاتَسَنَ لَاتَسَنَ لَا تَسْبَسُ، لَا تُسَنَّ لَا تُسَيِّ لَا تُسْبَنَى، لَا يَسَنّ لَا يَسَ يَّى لَا يَبْتِي لَا مِسْمَنْ الْأَسْسَى الأَيْسَنَى الأَيْسَنَ لَا يُبَتَنَ الأَتَسَتَى الأَتَسَتَى الأَيسَتَن المَصْتَ الظَّرِفُ مِنْهُ ا مَتِسَمَانِ مَمَانَ وَمُنْتَى وَاللَّهُ مِنْهُ وَمُعَانَ وَمُعَلَينَ - مِعَتَدَةً مِسَمَّانِ مَمَانَ وَمُنْيَةً ردد وريان ومنتقان ومنتقى والانتريز، ومَسَنَ مِسَانِ مَاسَ وَمُعَلِينَ - مِعَتَنَةً مُسَمَّانِ مَمَانَ ومُنيسَة -كَمُنْذِي كَنْ كَانُوْنُ الْعَظِيلِ لَمُذَكَّمَ جُمْ أَسَانِ أَسَوْ المَسَوْنُ إِمَّانَ مَنْ مَنْ مَنْ مُوْتَر كَمُسَيْسِيْنِي كَانُقُلُ الْعَظِيلِ لَمُذَكَّمَ جُمْ أَسَانِ أَسَوْنَ إِمَاسَ دَامَيْنَ وَالْمُوْنَتْ مِنْهُ ، مَسَى مُسَيانِ مُسَيا مُستى ومسيد ك صوف حصيبي بحث إنبات فعل اصى معروف : مسترسمة مستند مستند مستريم مستريم مَسِتَتِ مَسِنتُهَا مَسِيشَةً، مَسِتَتَ مُسِتَنا بَحَتْ فَعَلَ مَاضَى مجول، مُتَ مُسَامِتُو الْمُتَتَ مُسَتَامُ سُ ميدينة مسيستاً مسيستاً مسيستا مسيستاً مسينة مسيسة في مسيستاً بحث من نعل المن مووف: مَا مَتَى مَامَسًا المربحيت نفى فعل ماضى مجهول؛ مَا مُتَ مَا مُتَا المربحت إثبات فعل مُضَارك معروف، يَعَتَّى يَسَتَّانِ يَسَيَّوْنَ مَسَنَّ مَسَّانِ يَسَتَّصَ لَمَسَّ مَسَتَّانِ تَسْتَوْنَ تَسَيِّينَ تَسَتَّانِ مَسْتَنَ المَتَ نَسْنُ سجت إثبات فعل مُضارع مجهول ، يُسَنَّى يُسَتَّانِ يُسَتُونَ تُسَنَّ مُسَتَّانِ يُسْسَسْنَ نُسَتَّانِ بلجو الجُمُوعُ المُكَسَّرةُ: مَسَّةً، مُسَّاسٌ، مُسَّسٌ، مُسَّاءُ، مُسَّاعُ، مُسَانٌ، مِسَاسٌ، مُسُوْسٌ، أمَسَ

َسَتَّوْنَ تُسَبِّنَ تُسَبَّانِ تُسْبَسْنَ ٱسْ نُسَمَّ بَح**ت نَعْى فَعل مُضَارِح معروف**؛ لَا يُسَتَّى لَا يَسَتَّانِ الج نْ**فَى نَعْلِ مُصْارِيعَ مِجهول:** لَامْيَهُ شُوَلَا يُسَتَّانِ اللَّهُ **بَحِتْ نَفَى تَأْيِدِ بَكِنْ دَرَ نُعَلْ سَتَقْبُلْ معروت: نَ**تَ نْ كُنْ تَسْسَاكُ بَيْسَتُواكُنْ تَمْسَ كُنْ تَمْسَاكُوْ يَمْسَينَ كُنْ تَمْسَ كُنْ تَمْسَاكُ تَمْسَوْاكُ تَمُسَيْ كُنْ تَسْتَا اَسَتَى لَنْ تَسْتَى بِحِتْ نَعْنَى مَاكْبِدَ كَمِنْ وَثِعْلَ مُسْتَقْبِلِ مَجْهِولَ: لَنْ يَسْتَ لَن يُسْتَدَا لَ يُسْتَدْ إِلَى تُسَرَّرُ لَنْ تَسْتَا لَنْ يَجْسَسُنُ لَنْ تَسْتَى لَنْ تَسْتَا لَنْ تُسْتَوْا لَنْ تُسْتِي لَنْ تُسْتَا لَنْ تُسْتَنَ لَنْ أَسَنَ لَنْ يَسَ ى**ت نىنى حجَّث كمُرد درنغل مُسْتِقْبِل معروف،** كَقَرَيْتُسَى لَعَرَيْسَيْنِ لَعَرْيَسْسَنْ لَعُرْيَسَتُوا لَسَعْ تْ كَعَرْجَهُسْ لَعَرْجَبْسَكُ كُعُرْبْسَمَّا لَهُ يَعْسَبُ لَعُرْجَبْسَ كَمَ تُعَبِّ كَعَرْجُسْ كَمْ تُسْتَاكُم مَتَّى كَعِنَّهُ أَمَّتِي كَفْراً مُسَتَى كَعْرْ نَمَتَى كَيْرْ نَمَتَتَ كَمْ تَعْتَ**تْ فَيْ تَجْدُ كَمْ دَرْغِلْ مُسْتَقْبِل مُجبول**؛ كَمْ يَنِي لَعْرَبْعَبْسِ لَعَرْبُمَسَا لَعْرُبُمَتُوا لَعْرِ نَبْمَتَ لَعْرَنْمُتَ لَحْرَنُّمْتُ لِعُرْبُمُكُم لمُتَسْسَنُ لَمُرَاسَقَ أُمْسَ عَلَيْهُ مُسْسَ لَهُ نُعْسَى لَهُ نُعَسَى لَهُ مُعْسَسَ كَمَ **حَسَبُ المُولَ مَا كَجِد** لدونعل مستقبل معروف : كَيْسَتَنَّ كَيْسَتَنَّ كَيْسَتَّنَ كَيْسَتَّنَ مَسَتَنَّ مَتَسَتَّ مَتَعَيَّ أَق لَتَسَبَّ لَتَهَتُنَ لَنَهُتِنَ لَتَهَتَآبَ لَنُسْتَصْبَانِ لاَمَتَنَ لَنُسَتَنَ لَنُسَتَنَ بحث لام بالد بالون ما يد تقبل وتعام تقبل م لسُسَان للسبيني تشبيعيني كمُسَتَان لَيُسَسَنان لَشُكَنَّ كَتُمَتُّ لَتُمَتَّ لَتُعَانَ لَتُعَدّ لْنُهُبَتِنَ آيَسُتَآنِ لَتُسْتَشَنَا بِي لَا مُسَتَى لَنُهُمَتَنَ بحد لام المِدالون الكِرفيف درنعل ستقبل معرف لمهنتين كسكت كتمستين كتكشش كتمشن كتمسين لأمتس كنكسي بجعت لام كيد بأون ناكيد مخيف ورفع عصا مجهول اليُنتَنْ لِيَسْنُ لَتُسَتَنْ لَتُسَتَنْ لَتُسْتَنْ لَتُمُتَنْ لَتُمُتَنْ لَتُمْتَنَ لَا مُسَتَنْ لُن لِسَ مَتَتِن إ**مْسَسْ مَ**تَمَا مَتُوُا مَنتِنْ مَتَمَا إ**مْسَسْ بَحِتْ امرحا ضرجَهول؛** لِتُسَتَّ لِتُمَتِّ لِتَهُ بېكىتال**تىت**ۋال**ىمى**تى يىكىتالت*ىكىتىن كچىت امرغا ئىم موق ب</mark>ايكىت لىكىت لىكىتىن* بتبكتى لتبكس لتكشيش لتمشتبا ليغشيشن لأمتش لأمتس لأمشيش لنكتى لنبتس لننشب لمستعس بول؛ لِيُمَتَ لِيمُتَن لِيمُسَسُ لِيمَسَا لِيُمَتَّوا لِتُمَتَّوا لِتُمَتَ لِتُمَتَّ لِتُمَتَّسُ لِتُمَتَّ لِمُ يۇمىق يۇمسىتىن لىنىتى لىنىت لىنىت ئىكىت امرحاص معروف باتون تاكى تىقىلە: مَتَتَنَّ مَتَتَات مَسْنَى مَتِنَى مَتَابَ إِمْسَسْنَانَ مجعث امرحاص مجهول بانون ماكيد فقيله، لِتَمْسَنَ لِتُمَسَنَا لِالمُسُنَّ نَتِنَ لِتُسَبَّانَ لِتُسَسَنَانَ بحث امر عامَت مُعَرُدَف بالون تاكيد لفيسله: لِيُسَتَنَ لِيسَتَنَانِ نى لِيَسَنَّبُ لِبَسَسَنِي لِبَسُسَنِي لِأُمَتَنَ لِنُعَتَنَ بِح**تْ (مرغانَبُ مجهول بالان الم يَقْيلده** لِبُمَتَنَ لِيمُتَنَا وَلِيمُتَنَ لِتُمَتَانَ يَبْنَاذِ لِأُمَتِنَ بِحُنْ مُرحاض مروف بانون الجذيجة في مُتَنْ مَتَنْ مَتَنْ جُفْ مُرحاض مجرول بانون بالكَري في المُتَن مُتَن

14+

بحث امرغانت معروف بانون تاكير عنيف مديبتك أيتشن ليتشن للتكتر لأمتش للمتشق بالمكتر بحث فانب مجرول بالون تاكيد تفيقن مرد يستن ايستن المستن لأستن المستن المستن المستن المستن المحت نهى حام ىن، لاَتَسَنَّ لاَتَسَنَّ لاَتَسُسْ لاَتَسَنَّ الاَتَسَنُوالاَ سَبِيقَ لاَ تَسَيَّدُا لاَ مَسَسَنُ **بحث بهي حاصِ**ر بمول، لا تسسَّ لا تسبِّ لا تُسْسَن لا تُسْسَا لا تُستَو الا تُمَسِّي لا مُسْالة مُسْسَن بحث بني عا مب معرو في لْعَيْمُتَى لَا يَمْتِي لَا يَعْسَبُ لَا يَمْتَدُ لَا بَبُسُوْا لَاتَمْسَنَ لَاتَعْسَتِ لَاتَعْسَتِ لَا أَسْتَ تَوَامْسَسْق لانْسَتْ لانْسَيْق لانْسُتسْ بجس**ْخ يْ عا سُبِ جَجو**ل؛ لايُسَتَّ لايُبَتِّي لايُنْسَدْ لأيُسَتَّ لَايُسَتَّ لَا تُسَتَّى لَا تُسَبِّن لَا تُسْسَسُ لَا تُدَسَّنَا لَا يُسُسَسْنَ لَا أُسَتَّ لَا أُسَبِّن لَا أُسَسَ لَا مُسَتّ لَا مُسَتّ مُ حاصرمعروف بالون تأكيد تقييسله والا تمسَنَّعَ لا تُسَتَّابَة لا تُسَتَّى لا تُسَتِيعً لا تُسَتِيعً لا تُسَتَّعَ محت مَنِي حاصر محبول بانون تاكير تفتيله ؛ لاتُسَتَنَّ لاتُسَتَانِ لاتُسَتَنَ لاتُسَتِنَ لاتُسَتَانِ لاتُسَتَان بحمن مَنْي عائب مُعَروف بآنون ما كي تفتي له، لا يُسَتَنَ لا يُسَتَنَ لا يُسَتَنَ لا يُسَتَنَ لا تُسَتَنَ لا تُسَتَاق ل ىتىنىكاتى كۆتىتىنى لائىتىتى بىخى ئى مى ئى مى مەرك بالون ئاكىدۇلى بىر دى مىتى لايىتىكاتى لايىتىتى لائىتىتى كە ئىتى د مستناي از استناد است بحث شي حاصر معروف بالون ما جد معيفه، لا تمستن لا تمستن لا تمستن لا تمسن المعرف التي مجهول بالون مكير صيفه، لا تسبي لا تمستن لا تشسن بجت بني خاص معروف بالون ما كير صيفه، لا يُستن لا يُ لَا تَسْتَنْ لَا أَسْتَنْ لا مُسَتَّنِ محصن بهي عاسم مجيول بالون بالجب مخيف، لا يُسْتَنْ لا مُسَتَّن لا مُسَتَن بحث المجرفاعل : مَاتَقْ مَاتَدَانِ مَاتَقَة مَاتَقَة مَاتَقَة مَاتَقَة مَاتَقَة مَاتَق التَّبِحث أَكْم مَقْعول ، مَسْرُوش مَسْرُوسًا بِمُسُوسٌ منتوسة مستوستان مستوسات -صرت صغير نعان لأثي مزيد فيهضاعصت ثلاثي ازباب إفيتعال ميحوب الإضبطوار بيقرار جزناء تبيج ترايك جاشب تجينينا - علامة أسس باب كي شيخ كه إسكى مامني ميس یا بخ سرف ہوتے ہی بیٹن اسی، دکوزا مُزیسی شرع میں تمرُّ دسی ادرفار کلمہ کے بعد تام سُعَلَى يَعْسَعُنُ اسْطِرًا مَنْ اللَّهُوَ مُعْسَطُنَ - كَاصْعُلَى يُسْطَنُ احْتَظِرَاتًا اللَّهُ مُذَاتَ مُسْعُلُ ما احْسَطَرَوَالسُّلْ يَضِعَ تَدْيَضُعَ لَدْيَضُعَ لَدْيَضُعُ دُوْمُشْعُكُ لَدْمُصْعُكُمْ لَدْمُصْعُكُمْ لَا يَضْعُكُمُ لَا يُصْعُ لَ ليعشكون أيفنطري المتعتقري أبعثهم فالمعتقري ألأوجلوا فسطرتا إضغل والمتعلى والتفسقل لتعشقن لتفسقر لتفسعر واليفسطسة لِيَصْعَلِنَ لِيَصْعَفِرِدُ لِيعْسَعَلَ لِيُعْسَمَلِ لِيُعْسَمَلَ دُواصْعَلَ كَا لِتُصْعَلَ ذَالِيصْطَلَ ذَلِيع لِيَعْسَطَنُّنْ لِيعْسَطُرَّنْ دَالنَّحْسَتَيْهُ؛ لاَتُعْسَطُرٌ لاَتَعْسَطِي لَا تَصْسَطُرٌ لَاتَّعْسَطُرَ لايُعْسَطُرَ الأيضنطيّ لايضعلي (، لا يُعْسَطر لايضعلر لايضعلر (لاتشعل كَ لاتشعل كَ لامسطر كَ الدَيغ عليَّ لَا يُعْسَطر كَ "

لْعَلَى لا يُصْطَرُّ مَا الْايَصْطَرَّةُ لَا يُضْطَرَّنْ إِلَيْظَوْفُ مِنْهُ ، مُضْطَرَّ إِنْ مُصْطَرًا بِ صرف صغير فعل ثلاثى مزيد في مُضاعف تَلَاثى ارباب إسْ يَصْعَدُ فَعَالَ - يُحول ألد سَتَقَصَلُ مِ قرار یأنا ۔ علامنَذانس آب کی تصبیح که اس کی ماضی میں تیج جب مرف ہو نے بتیں بی تین لی، بین زائد بعنی تشرق میں تہزہ دصلی، دوسری جگہ تین اور سیری جگہ تآر ليُتَقِنُّ إِسْبَقْرُ إِذَاءَ فَهُوَ مُسْتَقِنٌ - قَاسْنَعْنَ كُيْتَقَمُّ إِسْبَقْنَ إِذَا وَخَذَاكَ مُسْتَقَقَ مقالسَتَقَنَّ كَتَقْعَ وَيَسْتَقِنَّ كُمُ يَسْتَغَنُّ كَمُرْبِينَتَغَنَّ (، كُمُ يُسْتَعَنَّ كَمُرْيُسْتَغَنَّ كَعُرْ يُسْتَغَرُّ لأيستقَمَّ ، كُنْ يَسْتَغَرَّ حَرَّ ، لَيَسْتَتَعِرَّ نَّ لَيُسْتَطَرَّ نَّ ، لَيَسْتَقَيَّ نُ لَيُسْتَعَرَّ أَلْا هُوُمِينُهُ ﴿ إِسْتَقِرَ إِسْتَعْ إِسْتَعْ أَن لِتُسْتَعَ لَقَرَّ لِتُسْتَقَمَّ دُولِيَسْتَعَرَّ لِيسْتَعَرَّ بِلِيسْتَقَرَّ بِلِيسْتَقَرَّ لِيسْتَقَرَّ لِيسْتَقَرّ واسْتَقَرّى لِيسْتَقَرّى المُسْتَقَرّ لِيُسْتَنَعَرَكُنَّ السُّنَعْرَنُ لِشُسْتَعَمَّ ثَمَلِيسَتَتَعِرَّنُ لِيسُتَتَعَرَّنُ كَاللَّحُسْتَهُ، لاتستَعْرَ لاتُسْتَعْرَ والشُّعْتَعَرّ لاتُسْتَعْقَ لاتُسْتَعْرُدُ لَايسْتَعْتِ لَابَسْتَعَةٍ لَايستَتَعْ، وْ >لَايسْتَنْفَى لَا يُسْتَعْرَ لايستَتَقْ لَا يَسْتَعَرَّنَّ لَا يُسْتَعَرَّنَّ الدَّسْتَعَرَّنْ لَا يُسْتَعَرَّنْ الأيسَتَعَرَّنْ الطَّرْبُ مِنه ، مشتقر مشتقرَّ اب مُسْتَغَمَّ الله -صرف سغير فعل تُلاثى مزيد في مُصاعف تُلاتى ازباب إنْفِحَالْ مَحول ألا نُسْبَداد ، بند بوا - علامة اس باب کی ہو ہے کہ اسکی ماصنی میں چائج حرف ہوئے ہیں۔ نیز اسی، دُورائد سیسنی متش**وع میں ہمز**ہ دصلی، دوستری خب کہ لوکت إنْسَدَ يَنْسَدُ انْسِدَادًا ، فَهُوَمُسْبَدٌ - وَانْسَدَ يُنْسَدُ ٱنْسِدَادًا، فَذَاكَ مُنْسَدً - مَاانْسَتَكَمَاانُسُكَ لَعُ يَسْبَدَ لَعُ يَسْبَدِ لَعُ يَسْبَدِهُ ، لَعَ يُسْبَدَّ لَعُ يُسْبَدَّ لَهُ مِسْبَدَهُ ، لَا يَسْبَدُ لَا يُسْبَدُ أَنْ يُسْبَدُ بَسُبَدَةَ لَيُسْبَدَّنَّ ، لَيَسْبَدُهُ لَيُسْبَدُهُ ٱلْأَمْرُمِنْهُ ، إِنْسَتَدَا شَتَدْ إِسْبَدِهُ الْتُشْبَدَ لِتُسْبَدِه لْمُسَةَ لِيَسْتَدْ لِيَنْسَدَهُ مِينُسَدَة لِيُنْسَدَة بِيُنْسَدَة ، إِشْسَكَنَّ لِتُسْتَدَنَّ رِلْيَنْسَدَة فَ لِتَسْبَدَنَ ، لِبَنْسَدَن لِيُسْبَدَن وَالنَّحْمِعَنهُ ؛ لاَتَسْبَدَ لاَ تَنْسَدَدَ لاَتَسْبَد دُ، لاتُسْبَدَ لا لَا يَسْبَوْ لَا يَشْبَدِهِ ، لَا يُشْبَدَةَ لَا يُشْبَدَهُ • كَا تَشْبَدَى لَا تُشْبَدًى أَنَّهُ يَشْبَدًى لَا لَا تَسْتَدَنُ لَا تُسْتَدَّنْ ، لَإِيَنْسَدَّنْ لَا يُسْتَدَّنْ ٱلظَّرْفُ مِنْهُ مِكْسَتْكُ مُكْسَدًانِ مُسْتَكَ صرف صغير فعل للافي مزيد فيسب مُضاعف وثلاثي ازماب إفْظَالَ مُتَجَوْل ٱلْإِسْدَادُ ، مددكرنا - قلامة أسب باب في بير مبصك أصنى من جار مسرف تهد له ب. نين صب بي أيك زائد يعب بي مشد وع بن م زه قطعي -

]• مضاعف زياعي صرف صغيفول باع تجترُداز باب أَوْل فَعْلَكُمْ يَحْوِل أَكْسَصْبْهُ حَدَيْهُ كَتْنَ كُلّْ كُمْنَا مِعْل ب کی یہ سے کہ اسلی اصلی میں تیار سرف اصلی ہوتے ہیں یعنیٰ فاریقین کُڈلا ؛ فَهُوُ مُتَعَتَّبِهِمْ المُ رَشَّ مِم السبع اليه بما ديكومواد رُمُفاهف رُباع كالريس رف مغير عل أراع مُجَرّد مهم العين بالتخفيف جلازًا أزباب اوّل، فتَحِلُّكُهُ - بَحُول أَلْطَا حَلْ أَنْ يجيحه إعلامتراس أب كاشبته كارسي مني مي تتاريح وف اصلي يستقرُّ ليني فاد ، فتن أورد ولا م طَاطُ يُمَنَّا طِيُ طَاطَةٍ ، فَهُوْسُطَاطِيٌ - وَعُلُوطِي يُطَاطُ كَلاحاً * ، فَذَاتَ مُعَاكَظُ مَا كلاظً تَعاطُونِي ، ل بِيطابِعُ لَعُرْبِطا حَا الايْعَارِجْ لَا يُطَاطَأُ الَنْ يُطَابِعَ لَنْ يُطَاطُأُ الْيُطَاطِينُ لَيطاطأتَ اليفاطأة ٱلأمرمينة، حَاجِي لِتَعَاطَ ءِلِيمَا إلى لِيطَاطَا ، كَا طِيَنَ لِيتَطَاطُ ثَنَّ ، لِيعَا طِينَ لِيطَاطُنُ ، كَاطِينَ لِتَطَاطُخُ السَّطَا طِينَ لِيُعَاطَبَنُ وَالنَّجْمِينَةِ ؛ لَا تُعَاجِلْ لَانْتَطَاطُا ، لَا يُطَاطِحْ لَا يَعَاطُا ، لا تُطاطِينَ لَا تُطَاطُحَتْنَ لَدَيْحَاطِبَنَّ لَامِيطَاطَتُنَّ ، لَا تُطَاطِبُنْ لَا يُطَاطَأُنْ ، لَدُمُطَاطِبُنُ لَامِيطاطَتُنْ الطَّوْفُ مِنْهُ: مُطاطأ مُتَطَاطُكُنْ مُبَعَلَاطًا في - صرف صغيراز المؤسسة مُسَلَّدً حُوَّ حَدَر مَ مُعَاطًا مَنْ مُتَطَاطًا في - صرف صغيراز المؤسسة مُن الذي محتر من الموق الأرب من الموق المرب المعرف من المرب المستقلم المرب المعرف من المرب المستقلم المرب المعرف من المرب المستقلم المرب المستقلم المرب المستقلم المرب المستقلم المرب المستقلم المرب المستقلم المرب الم وقت أواز نكاكيا علامتدار باب كى يرب كراس كى مامنى من تمارحوف الملى بحق إلى من قار من اوردولا حَوَىٰ يُقَوْقِ فَوْهَا وْ، فَهُومْنَتُوْنٍ - وَقُوْتِي بُقَوَىٰ قَوْتَاةً ، فَدَالْ مُتَوَى مَا فَكُنْ مَا فَكُنْ مَا فَكُنْ مَا فَكُنْ مَا فَكُنْ مَا فَكُنْ مَا فَكُونَ الْمُلْعَدُي المُنْعَدُينَ لَا يُحَوَى المُولَعَوْنَ أَنْ للحكوران إذكار الكويتيج للتفاقيك التقويت الكذائي الاسرمينة ، فحاق بلكون بلكون بلكون المقومة وتقتلها الأمنية وتقوقته فتحفظه المتوكيمة ۣڸؙ۪ڡٙۯڿۣۑؘڹ۬ۑۣڵۯڐٙؿؘ؞ؙۮ^{ٳڟ}ٚؽٵؘۮ؞ڵٲڷڎۯؾؚڵٲڹڎۯؾٛ؇ڸؘڎڗؾ؆ؽڟڗؾ؆ڎڷڐڒۼ؆ڐ؆ڎڷڎڐڲڗڐؽ؆ٞ؞ڷٳۘڲڗڐۣؾ؆ٞڐڲڟڗڲڗ؆ڶڴڒڲڎٵٛ؆ڵڴۯ لاَيْفَوَكَتِنَ الظَّلِينَ ، سُعَوْقَ مُعَرَّفَانِ مُكَوْفَياتَ. مرًف صغير فعل رُباعي مخرَّد البحرف إنَّ ازباب ادَّل، فَعَلَكَه جَعْنُ الْحَدْ حَالَة ، مُصال علامتداس باب كي يسه حراكي ماضي مي جاريج ف إسلى تقت يعني فارين اور دو لا م -ماجنى ماخري الذخيع للأفيع الأفيني لأفيحن ويشيئ لتدخي لااليحل منى علي حمدة 3. فين محلي وطوي لمتلك تملكا 3. قد الاستعلى ليحتجيك فالمعتبي المحروي لهنيغتين الأمروينة ، حرج المتحتى المحتج التحت ، حيجين المحتجين المحتجين المحتجين المتعتبين يعتون المجرز والتحق محذيه الالحتيج الالحتي الالحتجرين الالحتجرين الالحتيت الالجنوب الالجنعين الالجنون لالحتجين لالحتجرين الأي في الطَّادة منه ، منه في متجديكان في في المرف صغيرار التسلك المشرك من مح مد له وَلَعْرِلِيدُ الْكَامِلُ ، مُقَوْقٍ مُقَوْقِين مُقَوْفُونَ مُقَوْفِه مُعْدَقِينًا مُعْوَقِياً مَ ا رله ولغوند الكامل، مُعَدَّلُ مُعَدَيَّل مُعَدَيَّل مُعَدَيَّل مُعَدَين مُعَمَّد مَعَن مُعَمَّد مُعَن مُعَمَّ م مه محفق محمد الما معتقون شيئياً وفي مستاك في من معلون المنظولاتين ملكولاتين ملكولاتين ملكولاتين من م

فات مَصَاد لان مُحرّد مهمذالفار واجوف ادى ازباب أوَّل فَعَلَ يَفْعَلُ حَوَلَ لَأَوْلَ ، ربوع كزا علامة اس باب كي ب الح مان مي من كلمة عنوج اور منادع مي مضموم يواب لَ يَعْوُلُ أَوَلَا بَعُوا كُمُّ حَوَاتُ بُوَالُ أَوْلًا، فَذَاكَ مُتُوْلُ مِقَالِكًا مُقَالِكًا ، كَذِيقُلْ كَذَبُولُ الذيقُولُ الذيقُولُ ، لَنْ يَنْهُولُ لَنْ يُؤَلُّ الْيَوْلَنَ لَيُؤَالَنَّ الْيُؤُلُنَّ لَيْحُالَنْ ٱلْأَمَرُ حِنْهُ الْآلِنِتُخُلُ اليؤُلُ الْمُؤَلَّ الْمُوالَنَّ لِتُعَالَتَ يَتُوْلَنَّ لِيُحَالَنَّ ، أَوْلَنْ لِتُوَالَنْ ولِيَقُوْلُنْ لِيحَالَىٰ وَالنَّهُمُ عَنْهُ ؛ لَاسَتُولْ لَاتُحُولْ ، لا يَسُولُ لَايُحَوْلْ ، مَوْلَنْ لَاتْقَالَى الا مَجْدَلَةِ لَا يُعَالَى الاسْتَقَوْلُنْ لا يُتَحَالَ لا يُعْرَلْنَ الظَّرِف مِنْدَ أَ بعولان مَبْادِلُ وَمُوَيُولُ مِتْوَلَدٌ مِعْوَلَتَانِ مَقَاحِلُ وَمُؤْنِولَةٌ مِنْكَالٌ مِعُوَالًانِ مَقَادِيلُ وَمُوَيْدِينًا وَٱنْعِلُ التَّفْضِيْلِ الْمُدَكِّمُ مِنْهِمُ إِوَلَ أَوَلَانِ أَوَلَانِ أَوَلُوْنَ ٱ وَآَثِلُ وَأَدْيُولُ وَالْمُؤَنَّتُ مِنْهُ أَقْ كَنْ أَوْلَيَّاتِ أوكبات أول و أويلي- (ش مال يُعَوَّل) لملص بوازًا الُ يَعْوَلُ اوْلاً ، نَعُو أَثِلْ - وَإِيْلَ بُوَالُ أَوْلاً ، ذَذَ التَ مَعْوَلُ مَا إِنَّ مَا إِمْلُ ، لَعَ يَعُلْ لَعْرِيوَلُ ، لَا يَعُولُ كَذِيجَالُ، لَنْ يَبْقُولُ لَهُ يُحَوَّالُ، لَيَتُوْلُنَّ لَيُوَالَنَّ ، لَيُخُلُنْ لَيُوَالُنْ ۖ ٱلْأَمُومِنْهُ، أَلْ لِتُوَلْ، لِيَوْلُ لِيُوَلْ اوُلَنَّ لِتُوَالَنَّ وَلِيَقُوْلَنَّ لِيُوَالَنَّ، أَوْلَنْ لِتُوَالَنْ ، لِيَقُوْلَنُ لِيُوَالَنُ وَالنَّهُم يَندُه، لَاتَقُلْ لَاتُولُ ، لَا يَظُلُ لَابُيَوَلُ ، لَا سَتَحْوَلَنَ ۖ لَا يُسُوَالَنَّ ، لَا يَتُوَلَّنَّ ، لَا مَسَتُوْلَنْ لَا مُعَالَنْ ، لَا سَتُحُوَّلُنْ لَا يُعَالَىٰ ٱلْظَلْبُ مِنْهُ مَعَالٌ مَقَالَانٍ مَعَادِلُ وَمُوَمِّلٌ وَالْأَلَةُ مِنْهُ: مِيْوَلْ مِيْوَلَانٍ مَأْدِلُ دَمُوَمِّلْ مِيوَلَة مِيْوَلَتَانِ مَأْجِلُ وموتيلة بمديدوال ميوالان ما ويل وموتيطة وأفعل التفنيد المذكرة منه أول كالانا ولوت ٱ ذَاعِلُ وَمُوَيِّلٌ وَالْمُوْنَتْ مِنْهُ : أَحُولُ أَوْلَيْتَانِ أَوْلَيَّاتُ أَوَلَا قَالُوَيْنَ -

وْالجُمُوعُ المُكسَّرةُ: آلَة، أَوَّالْ، أَوَّلْ، آلْ، أُوَلْ، أَوَلْهُ، أَوَلَاتْ، إِيَّلانْ، إِيَّالْ، أَوُولْ، آوَالْ، ٢ ا منه

فاشد ٢ : بمتره من تواعد مهوز اور واو من تواعد بحف واوى جارى بونظ ادر بعد فر تعارمن قاعده مُقل كوتر جمح بوكى جليم يمكول كراس مي يَقول والے قاعد محور الله في والے قاعد م ير ترجيع ديكى ب - اور جليم ا ودل كراس ين أغول محالس من يَفْوَلُ والم قاعد مكوامَنَ وال قاعد مرجس ديكي معربُقاعدة أداد م، أودل بوليا-صرف صغيرتون نلأني تجرد بهموزالفار واجوف فراوى إزباب سوم فيعل كفيتك بتجوب ألا وكرم فيطرحها هونابه علامتدائب بإب كتسبع كداي كلنى مين عين كلم يحسو ادرعنارغ مدمفتوح بتوابد ادَيَاكُا وَدًا بَعَهُوَ آلِكُ مَوْ إِيدَ يُوَادُ أَوَدًا ، فَذَالْتَ مَوُوْدٌ مَا ادْمَا إِيدَ ، لَمْ يَأْذ كوميتو ذَر لا يأد لا يؤولا لَنْ يَبُّدُكُنْ يَقَادَ لَيَبُّذِنَّ لَيُوَادَنَّ لَيتَأَدَنَ لَيُوَادَنْ لَلْعُوادَنْ الْأَمُومِينَهُ، آذ لِتُوَدْ ، ليتآدُ ليُوَدْ ، ادَنَّ لِيُؤْلَ لِيَالَٰدَنَّ لِيُوَادَنَّ ادَنْ لِتُوَادَنْ لِيَالَٰدَنْ لِيُوَادَنْ وَالنَّهُمَ عَنِهُ ، لَا تَأَذْ لَا تُقَدّ دَلا يَأَدُ لَا يُقَ دُ، لاَ تَأَذَ د، آیاد، ۲ امن لَا تُنْوَا دَنَّ ، لَا يَا أَدَنَّ لَا يُوَادَنَّ ، لَا تَأَدَّنْ لَا يُقَادَنْ ، لَا يَأْدُنْ الطُّوف مِنْهُ ، مَأَدُ مَنا دَانِ مَنادٍ دُ دَمُوَيَّكُ وَالْأَلْرَمِنْهُ : مِتْحَدٌ مِتُوَدًا مَأْدِدُ زَمَوْيُودٌ - مِثْوَدَةٌ مِتُوَدَ مَازِدُ دَمُوَ يُعِدِ لاً ـ مِتُوَاتُ مِتُوَادَانِ مَا وِيْدُ وَمُوَيْهِ بَهُ وَافْعَلُ التَّفْسِيْلِ الْمُذَكَّرُمِينَهُ : اوَدُ أَ وَدَانِ ا وَدُوْنَ أَوَاحِد انْ،ٳؽؘێٵڹ۫؞ٳؽٵڎٵؠۜۅ وَ أَوَ يُودُ وَالْهُوَنَتُ مِنْهُ : أَوْدَى أَوْدَى إِنَّ أَوْدِيَاتُ أَوَدُ قُدْ وَ مُدْيَا جرف صغيرارباب مذكور بالتحقيف التعليل بحاازًا ادْدَبَادُ اوَدًا، فَهُوَ آَثِهُ مُحَوَائِهُ يُعَادُ إَوَدًا فَذَالتُ مَوُوْدٌ حَمَّا إَذْمَالِهُذَ ، لَعُرَبَ دُلعر يُقَدْ ، لَا يَبْأَ دُ لَائِيَةِ هُ ، لَنُ يَأْهُ لَنْ يُحَادَ ، لَيَنْ أَدْنَ لَيُوَادَنَّ ، لَيَنْ أَدْنُ لَيُوَادُنْ أَلُا مُؤْمِنُهُ ؛ أَذْ لِنُوَدْ البَاكَ لِيهُوَهُ اذَتَّ لِتُوَادَنَّ ،لِيَأْدَنَّ لِيُوَادَنَّ ،ادَنْ لِتُوَادَىٰ ،لِيَلْدَنْ لِيُوَادَنْ وَالنَّخْصُعَنُهُ: لَا تَأْدُ لَا تُودُ لَا يَدْأَد 5 لَا يُبِي ٤ ء لَا تَأْدَنَّ لَاتُحَادَنَّ ،لَا يَأْدَنَّ لَايُعَ إِذَنَّ . لَا تَأْدَنُ لَا نُسُوَا ذَنْ الأيفادنْ الظُرْبَى مِنْهُم ، آخمار (مَأَدُ مَأْدًانِ مَأْوِهُ وَهُوَيَدٌ وَالْأَلَةُ مِنْهُ، مِيتَوَةٌ مِيتَوَكَ مِيتَوَدُ وَمُوَيَّدُ - مِيتودة كميتودتانِ مَنْ وِدُ وَمُوَيَّدَةٌ - مِيُوَادٌ مِيُوَادَانِ مَأْوِيُدُ وَمُوَيَّيْهُ وَانْعَلُ التَّفْضِيلُ الْهُذَكَّ مِنْهُ اا وَدُ المعاليات المعالية ال اَوَدُونَ أَوَائِدُ وَأَوَيَكُ وَالْبُؤُنَتِ مِنْهُ، أَدْدِي أَوْدَيَانِ أَوْدِيَا إِنَّ أُوَدٌ وَأُوبَدِي-صرف صَغِرْعِلْ مُلاَّتْي مُحَرَّد مهموالفا وبيوف يائي ازماب دوم فعل يفعول يتجول ألز يجدم: قرى بولاعلامته أس أب كي يسبع كالسي حتى بي عين كلمه فتوح اور مضارع مين محس ن نیک ادَ يَبْشِدُ ٱ يَدًا ، فَهُوَ كَتِدُ وَإِيْدَ يُقَادُ آيَدًا ، فَذَالتَ مَتِّيتِدُ - مَا إَبْدَ ، لَمْ يَشِدُ كَمْ يُقَدْهُ لَا يَتْشِدُ لَا يُعَادُ، لَنْ يَبْيَدُ لَنْ يُتَخَاذَ، لَيَشِيْدَنَّ لَيُوَادَنَّ ، لَيَبْيُدَنَّ لَيُخَادَنُ أَلْأَمْوُمِنْهُ إِذْ لِتُوَدْلِيَبْ مَ ريع لي لِيُوَدُ إِيْدَنَّ لِتُوَادَنَّ لِيَدْيُهُ نَ لَيُوَادَنَّ ، إِيُدَنُ لِتُوَادَنُ ، لِيَذِيسُدُنُ لِيُوَادَنُ وَالنَّعْمِعَنُهُ ؛ لَاتَجْد

والجُمُوعُ المُكسَّرةُ: آدَةٌ،أوَّادٌ،أوَّدٌ،آدٌ،أوُدٌ،أوَدَآءُ مأوُدَانٌ،إيُدَانٌ،إيَادٌ،أوُوُدٌ، آوَادٌ، ٢ امنه

PMM

لَا يُحَقِّدُهُ لَا يَبْدُ لَا يُعَدِّدُهُ لَا يَتْعَادَنَ لَا يَعْدَدُنَّ لَا يَعْدَدُنَّ لَا تَعْدَدُ لَا تُعْذَادَنَ الْمُعَادَنَ ٱلْطَوْفَ مِنْهُ : مَتِينَهُ مَتِينَدَانِ مَا يَدُ وَمُؤَيَّدُ وَالْأَلَةُ مِنْهُ : مِنْيَدٌ مِثْيَدًانِ مَأْيدُ وَمُؤَيَّدُ مِثْبَ دَعْ مِلْيَكَ كَانِ مَا يَدُ وَمُوَ يَدَةٍ * - مِنْيَاةٌ مِنْيَاةً انِ مَا بِيْدُ وَمُحَ يَيْدُ حَافَظُ التَّفْغِيل الْمُذَكِّرُمِنْهُ : ٢ يَ ايَدَانِ إِيدُوْنَا أَوَا ثِدُوا حَدَدُ كَالْمُوَنَّتْ مِنْهُ : أَوْ دِي أَوْدَيْ إِذْهُ مَاتُ أَيدٌ وَأَيبَدى -ب إزباب مذكور بالتخفيف وَالْإِدْعَام جَوَازًا ادَ يَسْتُدُا يُذَاءَنَهُوا يَجُدُ وَإِنْدَ يُوَادُ أَمْدًا، فَذَالتَ مَسْتِيدٌ مَا أَدَمَّا إِنَّذَ العَرْبَيْتِ لُمُرْبَعُودُ الآبَيْتِيهُ لَا يُوَادُ ، لَنْ يَتَبَيْدُ لَنْ يَتُوادَ ، لَيَبْتِيدَ نَا يَوْادَنَ ، لَيَبْعِيدَنَ كَيُوَادَنُ ٱلْأَمُومِنَهُ ؛ إِذْ لِيتُودُ الْيَبْعِنُ لِيُوَدُ ا بِذِنَ لَقُوَادَنَّ البِيَبَيْدَةَ لِيُوَادَنَّ الْذِن لِتُوَادَنُ لِيَبْتِيدَة نُ لِيُوَادَنُ وَالتَّفُ عِننه لَا تَبِعِدْ لَا يُحَدِدُ لاَ يَعِدْ لاَ يُحَدِّدُ ، لَا تَسْبِيُدَنَّ لا يُحَادَنَّ ، لَا يَعِيدُنَّ لا يُحَادَنَّ ، لا تَعْضِيدَ نُ لا تُوَادَ مَتْ لَا يَسْرِيْدُ نَا لَكُنُوا دَى الظَّرْفُ مِنْدُ ، مَنْتِيدُ مَنْتِكَ إِنَّ مَا يِدُ وَمُوَيَّدُ وَالْألَدُ مِنهُ ، مِيتَدُ مِتَّ دَانِ مِراكِيد وموتيدة - مِيدة قرميتك تأبيد مرايد كرموكيد لا - مِيتَاد كم مِيّادان مَا يَبْدُ وَمُوَيَّبْدُ وَأَفْعَلْ التَّفْضِيُّل الْمُدَدَّ كَلِّمِينَهُ: (يَدُانَ الدَوْنَ الدَوْنَ المَوَاتِدُ وَأَوَيَدُ وَالْمُوَنَّتُ مَا مُوَدَّيَان أَوْدَيَان أُوْدَيَات ا بید قرآ میشد ی - فاعد با ،- سمتره مین میمور کے اور آر میں منتشل عین اور مضاعف کے تواعد جاری ہوں سک ني يشيد كي حب سابق مفتسَّل ك قا عده كوم موزك ما عده يرتر حسي وي جائي اكس طرح أ مشيد كم يك أخس من الم ي الم يد تما برَّقامد مبيع ، وموَّبا أ بنيد موا - بعر بر قاعدة أيت فر جوازًا بمزه كوياركر في يدر يره معظم بي -صرفَ صَغِيرُ عَلَى فَكُرُ مُجْرَدُهُ مُوزَالِفا رَواجَوْفَ بِإِنِّي ازْبَابِ سَقٍ فَعِلَ لَفْعَلْ يَحْوِل أَلْهِ مَا شِ، ناأميد مواءعلامتياس باب كي يسب كدايجي على مدعين كلمة تحسو إور مُضارع مد مفتوَّت توابح اسَ بَأَسُ إِيَّاسًا، فَهُوَ إِكْسَى - وَإِنْسَى مِيَاسًا، عَذَاتَ مَتْنِينًا - مَاَّاسَ مَآَاِنِينَ ، لَعْ يَتُسُ لَمُ يُتَحَسُّ، لَا يَأْسُ لَا يُحَاسُ لَنْ يَتَأْسَ لَنْ يَحُوَّاسَ ، لَيَأْسَنَّ لَيُوَاسَنَّ ، لَيَأْسَنُ لَيُؤَاسَنُ أَلْأَمُومِبْ كُ ٱسْ لِتُوَسْ لِيَتَسُ لِيُوَسُ أستنَّ لِنُوَاسَنَّ ، لِيَا أَسَنَّ لِيُوَاسَنَّ ، اسَنْ لِتُوَاسَنْ . وَالنَّجْرِعِنَهُ ؛ لَا خَتَسْ لَا تُوَسْ، لَا يَتَسْ لَا يُوَسْ، لَا مَا سَنَّ لَا تُوَاسَنَّ ، لَا يَا سَنَّ لا يُوَاسَنَّ ، لَا تَا سَنْ لَا يَوْاسَنِ، لَا يَاسَنُ لَا يُقَاسَنُ الظَّرْفُ مِنْهُ ، مُتَاسَ مَنْ سَانِ مَنْ بِسُ وَهُوْ يَسْ وَالْالَةُ مِنْكُ ، مِتْبَسَانِ مَنْ يَسْ وَمُؤْيَتِ مُ مِيسَةٌ مِيمِينَان مَا بِسُ وَمُوَقِيسَةٌ - مِنْيَاسٌ مِنْيَاسَانِ مَأْيِنْسُ وَمُؤَيِّبْتُ وَأَفْعُلُ التَّفْضِيلِ أَمُدَكَّمُ مِنْدَا أَيسَاسَبِ المُسُوْنَ اذَالِسُ وَأَذَلِيسٌ وَالْمُؤْنَتُ مِنْهُ : أَوْسَى ذَرْسَيَا نِ أَيدَسَيَاتُ أَيْسٌ وَإِ فصغراز باب مذكور بالتحفيف فالادغام قوازًا ، وجوب ادغام کی شرط نه یائے جانے کیور س الجُمُوعُ المُكَسَّرِةُ: آسَةٌ،أَيَّاسٌ،أَيَّسٌ، آسٌ،أَوُسٌ،أَيُسَآءُ،أَوُسَانٌ،إِيُسَانٌ،إِيَاسٌ،أَيُوُسٌ، آياسٌ، لا منه

السَّاء فَذَاكَ مُنْشِقُ مَا أَسْ مَا أَيْنَ مَعْرَيْتُ لَوْ يُوَسْ كَلَا يَأْسُ لَا يُوَاسُ كَنْ يَأْسُ لَي تواس فْ ٱلْدَمُومِيْرِ، أَسْ لِتُوَسى لِبَتْشَ لِيُوس أَسَنَّ لِنَو اسَنَّ بِلِيكُسْنَ إِبِو اسَنَّ ما سَ لِتَواسَ بِلِيكُسْنَ الأموس، لأمَّاسَنَّ لانُوْاسَنَّ الآيَاسَ، لَذَيَاسَ، لَامَّاسَ، لاَنُوَاسَ، لَا يَاسَنُ لَامُواسَ، آلظُوْ مربس وَالْأَلَمُ مِنْهُ بِيَسَنَى مِبْسَانِ مَأْبِقُ وَمُوَيِّنُ - مِيْسَةُ مِيْسَتَانِ مَأْ يِسَرُّمُ وَلِيسَةً - مِبْاَصُ مِيَّاسَانِ مِيْسَ د موجد من واقعل الغنية إلى المذكر مع إيران الشوى أوالش وأويس والموتنة ، مع م مرار أوسي أوسيات الس والم يتقام يتسلى مرضغ فبرق لأفي تجردهم والفارونا قص وي ازباب لي القلي الفعل المدور والجرام ن بأب كالمستحديث ما ين عبن كالمفتوح الدر مضاع مين صفرم بو تاسب ٱلأَيْأَلُوْ ٱلْوَالْقُدَا، فَهُوَ إِلَيْ وَلَى يَوْلَى أَنُوا، خَذَاتَ مَنْ لُوَ مَا ٱلْأَمَا أَلِي ، لَمُرَيَأَ لَ كَرُمُونَ إِلاَ يَأْوُلَا يَوْلَى، لَهُ يَّا لُوَكَن يَحْدُني مَنَيَّ لَكُونَ لَيُوْ لَيَنَ مَا يَأْنُونَ لَيُوُلَينَ الْاسُومِنِيةِ ، أَوْلُ لِتُوْلُ ، لِيَأْلُ لِيُوْلَ ، أَوْلُومَتَ لِتُوْ لَبُنَ بَلِيَّا لُوَنَّ لِيُوْ لَبُنَّ أَوْلُونُ لِتُوْ لَيَنَ التِأْلُونَ لِيُؤْلَيْنُ وَالنَّعُيْعِنَهُ ؛ لَا تَأْلُ لَا تُقْلُ ، لَا يَأْ لُو لَا يُعَوَّلَ ، لَا تَا لُوُنَ لَا تُوْلَيْنَ ، لَا يَا لُوُنَ لَا يُوْلَيُنَ ، لَا تَا لُوُنْ لَا تُوْلِيَنْ ، لَا يَا لُون لَا يُوْلَيْنَ ٱلظَّرِي مِنْهُ ، مَا لَى مَا لِيَانِ مَا لَ وَمُوَ يُلِ وَالأَلَةِ مِنْهُ ، مِعْلَى مِثْلَبَانِ مَا لِ وَمُوَ يُل مِشْلاً فَ وَصُلا مَا بِ مَأَلٍ وَمَوَ يَلِيدَكُ - مِثْلًا مَنْ مِنْكُمُ مَا لِي وَمُوَ يَلِي ۖ وَأَنْعَلُ التَّفْضِيلِ الْسُدَ حَضَرُمِيْهُ وَالْحَالَيَ الْمَدَ الكُنُّ ٱحَالِ وَٱحَتِلِ وَالْمُؤَنَّتُ مِنْهُ : ٱلْحَالَيْتِيَانِ إَيْتِيَاتُ ٱلْيَ وَٱبَيْ ا صرف صغيرا زباب مذكور بالتخفيف جحازًا ٱلا يَالُو ٱنْوَا فَهُو إلى وَالْحِبَ يُونَى ٱلْوَا ، فَذَالَتْ مَالُو ﴿ مَا الْامَا آَتِي المَدْ يَالُ لَمُ يُول الديالُو لَا يُوْلَى ، لَنْ تَيَا لُو كَنْ يُوْلَى، دَيَالُونَ كَيُوْلَيَنَ ، دَيَالُونَ كَيوُولَيَنْ ٱلْأَمُومِينَهُ، أولُ لِتُولَ لِيُوْلَ ٱكْلُوَنْ لِنُوْلَكُنَّ ، لِيَالُونَ لِبُوْلَيَنَ ، أَوْلُونَ لِتُوَلَّيَنَ ، نِيَالُونَ لِيُوْلَيَنَ وَالنَّحْصَطَنَهُ ، لَا تَالُ لَإِنَّوْلَ لَا يَا لَ لَا يُوْلَ ، لَا نَا لُوَنَ لَا يُوْلَ يَنَّ ، لَا يَا يُوَنَّ لَا يُوُلَيَنَّ ، لَا تَالُونُ لَا يُؤلنينُ ، لَا يَالُونُ لَا يُولدَيْنُ أَلْظُنِ هُ ينه : مَالَ مَالَدُانِ مَالًا وَمُوَيْلِ وَالْأَلَةُ مِنْهُ : مِيلَ مِيلَانِ مَالٍ وَمُوَيْل - مِنْلا أَمِيلا تَاب مَأْلٍ قَمُوَيْلِيَهُ مُسْتِلاً يُجْعِبُكُمْأَنْ مَأْلِي وَمُوَيْلِي وَمُوَيْلِي وَأَنْعَلُ التَّنْضِيتِيل آلبُ تَصْوُمِنِهُ الخلير المَيَان المُوْنَ ٱ وَالِ قَمْ أُوْيُلِ وَالْمُوْتَبَتُ مِنْهُ: أَنْيُ ٱلْمَيْتِيَانِ ٱلْمَيْتِيَاتِ أَنْ وَالمُ ك والجلوع المكشرة أمَّة، أمَّة مثلاثه، إذ صرف يغرفون لأن تجرد مهمو الفاقن ففل أذباب وم فعلَ يُفْعِلُ مِيْحِونَ الْإِنْدِيانَ الْمَا علامترس باب كى يرب كراسى محد من يس عين المم فتوح ادر مضاع بن محسور بوتا ي أَنَّى يَأْتِنَ إِنَّيْانًا، فَهُوا إِنَّ مَلَاتِي يُوْتِي إِنَّيَانًا، فَذَاكَ مَأْتِي مَا أَنَّى مَا أَتِي ، لَمْ يَأْتِ لَمْ يُؤْتَ ، لَا يُوْق ط تربا بر جرما نے محوج سے ادغام جوازی سے موامنہ مرتب کے تحاسب ہمزہ بر حادث مم جائزاست کما مرتبی سلالا اس

لَنْ يَكُوْىَ لَنْ يُحْوَىٰ، لِيَهُ بِينَ لَيوُ تَيَنَ ، لَيَاتِيَنَ لَيوُ تَبَيْ ٱلْامُومِنْهُ، إِيْتِ لِنُوْتَ لِيكُرْتِ لِيُوْتَ إِيَّبَيْ لِنُوُ تَنِيَنَ ، لِيَا ثُبِتِينَ لِيُوُ تَنَينَ ، إِيْتِينَ لِتُوَ تَبَيْنَ > لِينَا تُوَيَنُ لِيُوُ تَنِينُ وأَلنَّهُ مِنْهُ ، لاَ مَاتُتِ لاَ فَيُ سُبَبُ لَا يَأْتِ لَا يُؤْتُ ، لَا تَأْتُّبَيَّنَ لَا تُوْتَيَنَّ ، لَا يَأْ حِيَّنَّ الدُيْقُ تَنَيَّ ، لا تأثِّ تَيْ ٱلظَلْ فُ مِنْهُ : مَا أَنَّ مَا تَبْبَانِ مَا تِ وَمُوَيْتِ وَالْالَةُ مِنْهُ : مِفْتَى مِنْتَبَانِ مَا بِ وَمُؤَيْتِ - مِنْكَا مِتْتَا تَانِ مَا بَ وَمُوَ تَبْذِيهُ * مِتْتَا الله مِنْتَا مَا فِي مَمَوْ يَبْرِي مَا يَ مُواللَّهُ مَا يَ ا اتَوْنَ إِدَاتٍ وَأُوَيْتٍ وَالْمُوَنَتُ مِنْهُ ، أَشَيْ أَنْدِيَكَانِ أُنْدِيكَاتُ أَتَى وَإِ سَيَّى -صرف صغيرا زباب مذكور بالتخفيف جوازا ٱتْ يَاتِي إِنْسَانًا، فَهُوَاتٍ - رَأْتِي يُوَتَّى إِنَّتَهَا نَا ، فَذَاكَ مَا قِي حَمَّا أَنْي مَا أَقِ الْمُركاتِ لَقُرْفُوْمِتَ ء لَا يَاتِفَ لَا يُوْتَىٰ اللهُ يَاتِيد لَنْ يُوْتَكُ آَبَاتِينَ لَيُوْتَيَنَّ أَلَيْ الدَّيْ الْمُومِنة ، إِيَت لِتُوْت لِيَاتِ لِيُوْتَ ، إِ يُتِبِيَنَّ لِتُوْتَيَنَّ ، لِيَاسَتِينَّ لِيُوْتَيَنَّ ، إِيْتِيَنِ لِنُوْتَيَنْ ، إِيَاتِيَنْ لِبُوْتَيَنْ وَالْتَحْيَعَنَّ لَدْنَابَ لَا مَوْتَنَالاً يَابَ لَا مُعُوْتَ، لَا تَاتِينَ لَا كُوْتَيَنَّ ، لَا يَا تِيَنَّ لَا يُوْتَيَنَّ ، لا مَا تِينَ لا تُوْتَيَنْ ، لأيَا تِين لَامُتِي تَبَنُ النَّظْرِكَ مِذْهُ : مَاتَى مَاتَيَانِ مَانْتِ وَمُوَيْتٍ وَالْأَلَةُ مِنْهُ، مِيْتَى مِبْتَ بَانِ مَعْاتٍ وَمُوَسَّيْ مِيْتَالَا مِيْتَا مَانِ مَعَابٍ وَمُوَيْتِيةٌ مِيتَاً * مِيْتَا مَانِ مَنَاقِهُ وَمُوَيْتِنَ وَانْعُلُ التَّنْجِينِ الْمُذَكَر مَنْهُ الآيَا إِنَّا إِنَّا يَوْ أَوَاتٍ قُوْا وَيُتَّبِ وَالْمُؤَنَّفُ مِنْهُ وَأُمَّتِي اتَّبِيانِ أُثْبَيَات صرف مُجْرِفتان مُدَيْمُ مُجَرَّد مهموزالفارُ وناقص إِنّي ازماب موم فعجل يَعْجَلُ حَجون ٱلْإِرْبِي، إِينَ يَأْدِى آَيًا، فَهُوا إِرْدَةً إِنَّ يَوْدُى أَذْتُنَّا، فَذَالتَ مَأْدِيَّ - مَا آدِي مَا أَرِّي، لَهُ كَأْزَ تَعْمَدُونَهُ، لَا إِذَى لَا يُقَالَى، لَنْ يَتْأَرِّى لَنْ يَتُوُرًى ، لَيَا ثَرَيَنَ لَيُوَرُدَيَّ ، لَيَا ثَرَيَنْ لَيُؤْدَينُ الْأَمْرُجِنْهُ ، إِيْوَلِتُؤْد ليَادَ لِمُوْدٍ، إِيْزَيْنَ لِمُؤْرَيْنَ، لِيَهُمْ يَنْ لِيدُمْ يَنْ، إِيْرَيْنَ لِمُؤْدَيْنَ لِمُؤْدَيْنَ لِي لَا تَأْرَلَا نُوْرَ لَا يَأْزُ لَايُؤْرُ، لَا نَا زُرَيَنَ لَا تُقَوْرَيَنَ، لَا تَأْدَيَنَ لَا يُؤْدَيَنَ ، لا تأ دُبَيْ لا تُقْتِي ، لا تأ دَبَيْ لَابُوُدَيْنُ ٱلْظَلَابُ مِنْهُ : مَارًى مَأْمَاًيَانِ مَا دِقَادَةُ يُوالْالْهُ مِنْهُ : مِثْرَى مِتْرَانِ مَأ دِوْمُؤْسِير مِثْرًا لا يَحْتُوا لأَن مَا إِذَه مُوَتَذِيرِيَةً - مِنْوَا عُرُ مِتْزَاقًا نِ مَنَادِيَّ وَمُوَ يُرِحتُ وانْعُلُ التَفْضِيقُ المُسُذَكُرُمِنَهُ : إذى ادَيَانِ أَبَهُونَ أَوَادٍ وَالْحَدْثِوَالْعِبُوَةَ نَتْ مِنْهُ مَ أَنْ يَكَانُ أَنْ يَتَافَ أَمْ صرت صغيرا زياب مدكور بالتخفيف بحازًا د اين ٿي-د اين ٿي-ارى يالى ى اكن مكار كما فكولى مر قدارى كولى اكن كار مكار فذالت ما برى - ما اكن مكارى ما الى ى ، لكر كان كم يق قليب مرد : قاد بم جانزاست كما مرفى فلا موا من منه والعنوع المعنوة اذ اذ اذ اذى اذى اذ ما اذ باذ باذ باذ اذ ا

لأيَابُى لَأَيُوْلِى ۖ أَنْ يَادِى لَنْ يَوُدِينَ الْيَادَيَنَ لَيُوْدَيِنَ ۖ لَيَادَيَنَ لَيُوْدَيَنَ أَلْا مُرْمِسُهُ ؛ إِيْرَ لِتُوْدَى لِيَا دَلِيُوْدَ ، إِيْرَكِنَّ لِتُوْدَيَنَّ ، لِيَا دَمَنَّ لِيُوْدَيَنَّ ابْدَمِينْ لِنُوْدَيَنْ ، لِيَادَيْ ليُوْدَيَنْ وَالتَّخْشَفْنُهُ : لَا تَازُ لَا تُحْدُدُ ، لَا يَارَ لَا يُوْلُدُ، لَا تَارَيْنَ لَا تُحْرَيْنَ ، لَا يَارَيْنَ لَا يُوْ دَبِينَ ، لَا تَارَيْنَ لَا تَوْرَيْنِ، لَا لَامُوْدَيَنْ ٱلظَّلْمَاتُ مِنْتُهُ، مَا دَى مَا دَيَانٍ مَنْ رِوَمُوَيْرٍ وَالْأَلَهُ مِيبُهُ : مِدْدَي مِدْر - يُزَاقُ مِسْبُرَاتَانِ مَأْرِدَقَمُوَيْسِ يَهُ - مِسْبُرًا * مِسْبُولَةُ إِن كُمَّاءٍ يَ وَجُوَ يَجِيَّ وَأَفْعُلُ التَّفْضِيْلِ ٱلْبُلَذُ مَنْهُ إلَى أَنْ يَمَانُ أَيَرُونَ إِذَا رِحْالُوَيْنِ وَالْمُؤْتَتُ مِنْهُ : أَنْ يَنَا نِ أَنْ يَتَا نِ أَنْ سرف صغيرفعل ثلاثي مجرد مهوزالفائر فيناقص مادئ خلاف قياسس ازباب جهازم فعل تفعل يجون ألا بأعظن انتكار تحرباً معلامتين أس باب كي ذوبين ايك بيركم اسحى ماتنى ا درمُضارع كما عين كلمب الز أَنْ يَأْخُلُ مَا مُ مُعَوّا ب وأن يُوْخَا بَأَمُ مُنْذَات مَأْجِتٌ مَمّا إِن مّا مِن مُعَرّياً ب مَو ي نْ يَأْتِي مَنْ يَكُولْ لَيُنَا بَكُنَّ لَيُودْ جَلَنَّ ، لَيَأْجَبَنْ لَيُوْجَلِي أَلْا مُومِنْهُ ، أيبَ لِتُودب، ليكابَ لِيُؤْب، إيكَنّ لِتُوْبَيَنَّ ، لِيَا مَبَيَّ لِيُوْبَيَنَ ، إِيْبَينَ لِتُؤْسِيَنَ ، لِيَا بَكِنْ لِيُؤْمَيَّنَ وَالتَّفْسِينَهُ ، لاَ تَأْبَ لاَتُقْتُ مَا لَا يَأْتُ لَا يُوْبَ، لَا تَأْبَيْنَ لَا تُحْقَ بَيَنَ ، لَا يَأْ بَيْنَ لَا مُوْبَيَنَ ، لَا تَأْ بَيَنْ لا يُؤْ بَيْن ٱلظَّرْفُ مِنْهُ ، مَا بِي أَنْ مَا مِيكَانِ مَا فِ وَمُوَيَبٍ وَالْإِلَةُ مِنْهُ ، مِنْبَى مِنْبَيَان مَ ب مِثْبَاناً نِحْمَاً بِ وَمُوَ يَبِيه * مِثْبَاً وَمِثْبَاءً مِثْبَاءً إِنَّمَا لِحَدُ وَمُوَ يَبِيَّ وَانْعَلُ التَّفْضِيلِ الْهُدَ حَرُمِنْهُ إِبْي ابْتِيَانِ ابْحَدْنَ أَوَابَ وَأُوَيْبَ وَالْمُؤَنَّتُ مِنْهُ ، رُبْلَى أُبْيَيَانِ أُبْيَيَاتُ أَبْي دَ أ سرف صغيراً زيامب مدكور بالتخفف جوازًا ٱلْ يَابِي إِنَّاءً ، فَهُوا بِ - وَأَبِي يُوَينِ إِنَّاءً ، فَذَاكَ مَا بِنَّ - مَا أَبِي مُلَمُ بِي الْمُرْيَ لَا يَانِ لَا يَقْ نِي اللَّهُ يَانِي لَنْ يَحْوَىٰ ، لَيَّا سَيَّنَ لَيُوْ بَيَّنَ ، لَيَا بَيَنْ لَيُوْ بَيْن لِيَابَ لِيُوْبَ ا يُبَيَنَ كُلُوْ بَيَنَ المَوْ بَيَنَ لِيُوْ بَيَنَ ﴾ إِيَّابَ لِيُوْبَيَنُ الْيُوْ عَنُهُ إِذْ تَابَ لَا تُوْبَ ، لَا يَابَ لَا يُحْتَ ، لَا تَا بَيَنَ لَا تُوْبَيَنَ ، لا يَا بَيَنَ لا يُوْبَ يَن لَدَيَا بَيِنْ لا يُوْبَيْنُ ٱلظِّنْ فُمِنْدُ ، مَابَى مَا بَيَانِ مَرْ بِ وَمُوَيْبٍ وَالْالَدُ مِنْهُ، مِيْبَ مِيْبَ يَابِ مَإْبٍ فَحْمَوَيْبٍ - مِيْبًا لاَمِيْبًا تَانِ مَأْبٍ وَمُوَيْبِيَهُ - مِيْبَاً * مِيْبَاً * مِيْبَاء ماْبِحِتُ وَمُوَيْبِي وَأَنْعَلْ التَّفُضِيُّلِ الْمُذَكِّرُمِنْهُ : (بَلْ أَبَيَانِ أَبَوْنَ أَوَابٍ وَأَوَيْبٍ وَالْمُؤْتَتُ مِنْهُ : أَبْيَانُ أَبْيَيَانُ أَبْيَيَاتُ المي قد المبيني -له تلف تمزه به واد ترم جائز ست كم المر في طللا المت فر له تلف تمزه به واد ترم جائز ست كم المر في طللا المت فر جُمُوعُ المُكسَّرةُ: أباقٌ، أبَّآء، أبَّى، أبَى، أبَي، أبَيَاء، أبْيَان، إبْيَان، إبَاعٌ، أبِيَّ، آبَآء، ٢ ا منه

16.

141 رفصغ بنعل لاتى محرد مهمز الفار ولفيت مقرون ازبا في مفكل كفيتو مريرة والمرج وتحريح جائي بناه تبجرنا علامتد بسر باب كي يدب كدائع جني بن اعين كلمه فتوح ادم فضايع بد مخشو ير ٱلْحِي يَأْتُونُهُ أُوِيًّا، فَهُوَ (يِهِ دَرَايَ يُؤُونُ أَرِقِيًّا، فَذَالَتُ مَأْرُونٌ مَا أَوْى مَآ إِنَّ المَدُيَّ وَلَمْ يُؤُوّ ، لَا يَأْدِقُ لَا يُوَدِّى لَنْ يَأْدِى لَنُ يَتُوُدِى، لَبَا دِيَنَ كَبُوُوَيَنَ ، لَيَأْوِيَنَ كَيُوُوَيَنَ أَلْا مُومِشُهُ ، إيو لِنُفُكَ، لِيَأْوَلِيُوُوَ، الْوِيْنَ لِيُوْوَيْنَ اللَّهُ وَيَنَ الْمُوْوَيَنَ اللَّهُ مِنْ لِيُوْوَيَنَ اللَّهِ وَيَنَ لِيُوْ وَيَنَ الل ِيَأْدِ لَا يُوَدُو ، لَا تَأْدِينَ لَا تُعَقِّدُ مَنْ الا يُأْثِرُ مَنْ لَا يُوَجَدِنَ ، لَا تَأْدِينَ لَا تُع ٱلظَّرْبْ مِنْهُ ، مَأَدَّى مَأُوَيَانِ مَأْرِدٍ وَمَوَيِّي وَالْإِلَهُ مِنْهُمُ ، مِثْوَى مِنْوَيَانِ مَأْرِد وَمُوَيَقِ مِنْقُ لَا مِنْحَاتَانِ مَا إِدْ وَمُوَيْفِ بَةٍ - مِنْوَاعٌ مِنْوَاءً مَانِ مَا فِي وَمُوَيْنِي فَوَانْعَلَ التفتيل المُدَكَر مِنه : اوى اوكان اودن أداير داموي والمؤنَّف منه : أنَّي أيكيان أيَّيات أوَّى دَافَت -صرف صغيراز بأب مدكور بالتخفيف فيالتعليا رتوازا ٱوٰى يَادِى أُوِيَّا، فَهُوَ أَجِرِ دَمَاتٍ مَنْتُوْوَى أُوِيًّا، فَذَاتَ بَمَادِي مُنْ مَا أَخَى مَا إِنَّى المُدْمَا وِلَعَرْبَقِ دَالْمَادِي أوٰى يَادِي أُوِيَّا، فَهُوَ أَجِرِ دَمَاتٍ مِيوُوْى أُوِيًّا، فَذَاتَ بَمَادِي مُنَا أَخْصَ مَا إِنِّي المَدْما لَا يُوْجِع، لَنْ يَادِى لَنْ يُوْدِى ، لَيَادِينَ كَيُوْدَيَنَ ، لَيَادِينَ لَيُوْدَينَ أَلْأَمْرُمِنْ مُ إِلِيو لِيُوْوَ، لِيَادِ لِيُوْدَ إِيْهِ بِنَ لِنُوْدَيْنَ إِيبَادِينَ لِيُوْوَيَنَ الْيُودِينُ لِيُوْدَيْنَ لِيَادِينَ لِيُوْدَيْنَ فَالْتَحْصَنَهُ لَأَمَاد لَا تُوْوَ الْأَيَادِ لَا يُوُدُ المَادِينَ لَا تُوْدَيَنَ الايَادِينَ لَا يُعْدَدِينَ الاتَّادِينِ لا تُوْحَيَنُ الأَكَادِينُ لَا يُوْدِينُ أَلْظَهْ مِنْ مِنْ مُسَوَّحُ ، مَسَاقَى مَسَادَ بَانِ مَسَامُ وَ مُسَوَّ مُسَتَّ ب من ميرى ميوكان ما د د موي بخشي من من د 1115 ومؤبَّسَهُ مِيدًا عَرْ مِنْهُ وَلَا مَا حِي وَمُوَتِينَ وَأَنْعَلُ التَّفْسِيلِ الْمُ ذَكَرُمِنْهُ ما دي ادْيَا فِاحْدُن وَإَيْرِوْا وَيْ دَايُمُوَنَتْ مِنْهُ ، أَتِي أُينَا مَيْكَ أُدْى دَارَتِي رف صبَّغ بزمان الذي مُجرَّد منهمُوالفا مرؤكضا عفن الآني إزماب إقراف تعلَّ يُفَعِلُ يَجُون اللَّهُ منا مَتَةٍ ع إمام تبوا - علامته إس باب كي بير سبي كدام في مان بي عين كلمه فتوح اور مُضات بين صبوم اَمَّرْ يَتَوْمُرْ لِعَامَةً ، تَقُوا مَرْ وَأَهْرِنُوَ مُراحًا مَهُ أَنْذَاكَ مَا مُوْمُ مَا آمَرْ مَا أَحْر لَمْ يَأْهُمْ ، لَمُ يَوْمَ مَ لَمُ يُوَمَ لَهُ يُوْمَ ، لَا يَوْمُ لَا يُقَمْ مَ لَنْ يَوْمَ لَنْ يَوْمَ ، لَن والجُمُوعِ المُحَسِّرةُ (أواقَ،أَوَ آعْ،أَوَى، آوَى، إِنَّى، أَوَيَآءُ، أَيَّانَ ، إِيَّانَ ، إِوَ آعْ، أُو تَ الله دراص منيكوي أوديته قلب مره بدوات ماراست كما مرَّن صلك مار من مله منه منه من ولوى الدفا م جام المراست ١٢ مد للظلمة وري حِيمَة برسبب مبدليتو إوار مرد ، قاعرة سَيت كم جارى درشكر-١٢ منه

مَّنْ ٱلْأَمُومِينَهُ، أُمَّراُ قِرْأَوْمُمْ ، لِنَوْمُ لِتُوَمَّ لِتُوَمَّ لِتُوْمَ لِتُوْمَ إِلَيْ لِبُوَرَمَّ لِيُوَمَمُّ لِيُؤْمَمُ، أَمَّنَّ لِتُوَمَّنَ ، لِبُؤُمَّنَّ لِيؤُمَّنَّ، أَمَنَ لِنُؤُمَّن، إبتؤمَّن لِبُؤمَّنَ وَإِذَ مَسْلَهُ، لَا مَقْهُمَ لَا نُحْدَمَ لا تَأْسُمُ الاتَوَمَ لا تُوَمَّ لا تُوَمَّمُ لا تُوْمَمُ الابْوُمَ لا يُؤم لَا مُؤَمَّ لَا يُوْمَ لَا يُعْمَمُ لَا يُوْمَهُمُ ، لَا نَوْمُ مَنْ لَا تُوْمَنَ ، لَا يُوْمَنَ لَا يُوْمَن يُؤَمَّنُ أَنْقُلُهُ فَا مِنْهُ مَا مَّانُ مَا مُ وَمُؤْيَهُ مُؤْمَّةً وَالْأَلَهُ مِنْهُ ، مُصَفَّر مِتَعَانٍ ما مُ وَمُؤْيَتِ مِنَدً مِشْهَامٌ مِشْهَامًانٍ مَا مِيْهُم وَعُوَ يُجِينُهُ وَأَفْعَلُ النَّفَضِيْرِا لَهُ ذُكُومِنُهُ: مِصَبَّتَانٍ مَا مَ وَمُوَ يُعَدَّهُ لَ حَرُ وَالْثِيْوَنَتُ مِنْهُ وَأُحْتٍ مُعَيَّانِ أُمَّيَّاتُ أُمَعَرُوْ أُمَنِّي اَوَمَ أَوَمَّانِ أَوَمُّونَ إَوَامُ وَأَوَبُ وت صغيرازباب مذكور بالتخفيف تجوازا ٱمَ يَؤُمُّ إِمَّامَتَهُ فَعُوا هُرُّ وَأُمَّرْبُوَمُ إِمَّامَةُ ، فَذَاكَ مَامُوْمٌ - مَّااَ مَرْمَا أَمَّ كُذِيَةُمْ لَعُزَيْهُمْ لَعُ ، لَعَرْبُومَ لَعَرْبُومَ لَعَرْبُومُ لَعَرْبُومَهُ ، لَا يَتُومُ لَا يُومُ مَنْ يَوُمُ لَنْ يَتَوَمَ ، لَيَؤْمَنْ لَع يِنَّهُ: أَمَّ أَجْ أُمُّ أُوْمُتَعْ: لِتُوَمَّ لِنُوَجَّ لِنُوَجَّ لِنُوحَ لِتَوْمَدُهُ لِبَوْجَةَ لِيَ لبومن لبومن آلام ا هُمْ اليوُمَ لِيوُمَ إِيوُمَ لِيُومَهُمُ ، أَ مَنْ إِنَّوْ مَنْ ، إِيدُهُمْنَ إِلَيْهُمْنَ إِيمُومَنَ المتفق ليتومَنَ الميتومَة ، نَعْمِعَهُ ﴾ لَا نَوْمَ لَا تَوْجَ لَاتَّوْمَ كَانَا سُوْ، لَا تُوَمَّ لَا تُوَمَّ لَا تُوَمَّ لَا تُق ، لا يُؤْمَّ لا يُؤْمِّ لا يُوَمَّ لا يُقْ مَمْ ؛ لاَ تُؤْمَّنَ لا تُومَّنَّ ، لاَ يَوُمَّنَّ لاَ يُوَهَ نْ لِدَيْوَمَّنْ ٱلْظَلْمُ فَ مِنْهُ : مَامَ مَا مَتَانِ مَامَ وَمُوَ فِيعَرُ وَالْأَلَة مِنْهُ ، حَب مِيَةً لَهُ مِيمَةً مَا مَ وَمُوَ يُعَدَّة - مِبْهَامٌ مِيهَامَانِ مَا مِيسَعُوَمُوَيَدِيَّة كَرُمِنَهُ ا وَمَا وَمَانِ إِ وَتُوْنَ أَوَآمَ وَأَوْ يُعْرُ وَالْمُؤْتَتَ مِنْهُ ، أَخْلُقَانِ وآفغل التفضيل المدذ م. روالفار ومصاغلاتي ازباب ومفعل يُقْعِلُ مِحْوِلُ الْأَسْانُ ، رونا. کی شب کے اسکی جنی میں عمین کلم مونتو کے اور نَّ يُؤَيُّ آدَدْنَا، فَذَالَتْ مَأْنُوْنُ - مَأَانَ مَآانَ مَآانً ، لَوْ مَتْنَ لَوْ مَدَبِقَ لَمُرَأ لَعْدِيُوَنَ لَعُرْجُوَنِ لَعُرِيقُ مَنْ ، لَا يَبِينُ لَا مُتِقَى مُ لَنْ مَتَقِنَ لَنْ يُقَنَّ ، لَيَكُتَن لَيُوَنَ ٱلْأُمْرُمِيْسُهُ إِنَّ إِنَّا إِيْبِنُ التُوَكِّنَّ إِتُوَكِّنَ إِلَيْوَمُنَنُ الِيَتِنَ لَيَدَيِّنَ إِيكَ مَن إِنَّنَّ لِتُقَوَّنَّنَّ دِلِيَتُيْنَ لِيُحَدِّنَّنَّ النَّقَ لَنَّنْ لِيَتُوْتَنْ لِيُحَدِّنَّ وَالنَّعْمِعَنُهُ وَلَا تَعْنَ لَا تَدْتُو لَاكَ أَسِنْ الاتُوَى ذَا تُوْيَنَ لاَ تُوْيَنَ لاَ يَعْرَضُ الا يَعْرَبَ لا يُوْنَ الا يُوْنَ لا يُوْ

لاَيْوَةَ نَنَّ ، لا يَعِنَّنَّ لا يُؤَنَّنَّ ، لا تَعْتَنَّ لاَنُوُنَّنْ ، لا يَعْتَنَّ لا يُؤَنَّنُ الظّرف مِنْهُ ، مَا يَ وَمُوَيَنَ وَاللَّهُ مِنَهُ، مِتَنْ مِتَنْ مِتَنْ وَمُوَيَنْ وَمُوَيَنْ - مِسْنَةٍ مِسْنَةً مُ يُشْنَانُ مُشْتَانًانِ مَسَةً بِنِينَ وَمُوَدٍينِينٌ وَالْعَلَ التَّفْضِيلِ الْمُدُكَّرُمِنِهُ : أَوَنَ أَو تَانِ أَدَنَقُ بَ إَذَا يُ وَأُوسَنْ عَالَمُهُ نَتْ مِلْهُ، أَنْ أَنْبَيَا بِدَا تَبْبَاحُ أَسَنُ وَأُنَيْنَا-مغيرا زباب مذكور بالتخضف إَنَّ بَسِعِنَّ ٱبْنِيْنًا ، فَهُوَاتَ - وَأَنَّ يُقَانُ أَنِيكَا، فَذَالَ مَا نُوْنُ - مَا إَنَّ مَا أَنَّ ، لَعَرَيَعْ لَمُ لَمْ يَانِنُ ، لَعُرْبُجُنَ لَمُرْبُونَ لَعَرِيقُنَنُ ، لَا يَتِي لَا يُحَوَّنَ كَنْ يَتَمَرُّ كُنْ يَعُونَ ، لَيسِينَ لَيُوَكَّنَّ عِنْنَ لَيُوبَنَّنُ ٱلْأَحْدُمِينَةُ وإِنَّ إِنَّ إِينَانُ ، لِتَوَتَّ لِقُوبٌ لِيُومُنُ السِّبِينَ لِبَعْرِ إِلَيا بَنْ المُوكَ لِيُوَنِّ لِيُؤْمَنْ ، إِنَّنَ لِتُوَمَّنَ ، لِبَيمُ أَنَّ لِيُوَمَّنَ ، إِمَنْ لِتُوَمَّنُ ، لِيَسَمُكُنُ لِيُوَمَنَ وَالنَّحُ مَعْنُهُ الأ ى كَد سَبِيْ لَا مَاسِنْ ، لِا لَمُوَتَ لَا تُقُوْنِ لاَ تَقُوْنَى مَلَا يَبْرُدَ لَد يَسِيُ لَا يَا سِنُ ، لَا يُقَتَ لَا يُحَقِي لَا يَا لاَنَبِينَى لَا تُحَوِّثَنَّ ، لَا يَعِنَّنَّ لاَيُوبَنَّ ، لَا تَصِنَّ لَاتُوبَنَّ لَا يَشِكُنُ لَأَ يُوبَن آ للجاف مِنْه ؛ مَعْرِينًا شِيمَانِ مَانَ وَمُوَيَنٌ وَالْالَةُ مِنْهُ: حِسَانٌ مِيتَنَّانِ مَانَ وَمُوَيَّنٌ - مِبَتَّحِهُ مِيتَنانِ مَا وَيَنْتَهُ مِينَا نَكْمِينَا لَانِ مَا نِنِي كَهُ وَمُوَيْنِ بِينَ وَابْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُذَكَّر مِنْهُ واكْ أَدْنَاب ادَنَوْنَ أَوَاسَتٍ دَا وَيُسْ بِحُ وَالْمُؤْنَثُ مِنْهُ ، أَنَّ أُنَّيْكَانِ إِنَّيْ مَنْ قُوْأُ مَنْ ل لآلي تجرّد مرالغا، دمينا حيث ثلاثي ازباب سوم فتيل تبغل يتحد ألْظُلُ، دانتوں كاخترب تبونا عَلامتر اس باب كي تسبيك ي محين كليك اور تفسل مع يونا بح ٱنْ يَأْلُ ٱللَّهُ مُعُوّاتًا ودانًا يُوَلَّ ٱللهُ مَذَاتَ مَأْلَوُلُ مَا آنَّ مَّالُنَّ لَعُرَانًا لَهُ ل لَعُرِيقَ لَكُرُيقَ لَكُرُيقُلُ ، لَا كَانَ لَابْيَنَ لَهُ نَتَهُ لَن يَتَلَ كَنْ يُحَانَ ، لَيَتَكَنَ لَيؤُكَن ، لَيَكُمُنُ لَيُوَتَنُ لْدَمْرُمِيْهُ (إَنَّ إِنَّ إِنَّكُنُ لِتُوَلَّ لِتُوَلَّ لِيَعَ لَنَّ بِيَ أَنَّ لِيَأَلُّ لِيعَوَّلَ لِيعَانَ لِنُوَتَنَّ ، لِيَّهُ لَنَّ لِيُوَتَلَنَّ ، أَلَنْ لِتُوَكَّنْ ، لِيَهُ لَنْ لِيوْتَنْ وَالنَّجْ حَذْهُ ؛ لا تألُّ لأَنَّا لَكُ لَدَ تُتَوَلَّ لَا تَتَوَلَّ لَا يَتُوْلُلْ ، لَا يَأْلَ لَا يَأْلُلْ ، لَا يُقَ لَ لَا يُقَلِّ لَا يُقُولُلْ ، لَا تُلْقُلْ لَكُ لَا يُقَالَنَ ، لَا يَأْ لَنْ لِا تَقَالَنْ ، لَا يَأْتَنُ لَا يُقَالَنُ أَنْظُوْفُ مِنْهُ عَمَدًا لَهُ مَأْلُهُ وَمُقَلَّكُمُ وَالْآلَةُ لَهُ ؛ مِصَلَّ مِصَلَّ مِعَدَدُنِ مَا أَنْ وَمُؤْتُنُ لا مِشَكَة مِعَدَّ إِنَّمَا أَنْ وَمُوَ يُدَدّ م فَلَا لا مَا لِيُلُ وَمُوَ يَلِيكُ وَأَخْطُ التَّفْضِيلِ الْمُدَ كَتْسِنُهُ ؛ أَوَلَّ أَ وَلَّانِ أَوْلُونَ أَوَالُ وَأُوَيكُ وَالْمُؤْتَبُ دُسُ ٱلى أَيَّيَانِ ٱتَّيَاتُ ٱلْاطْوَالْبُعْلَ

28 مدكور بالتحقيق يتجوازا ٱللَّهُ نَهْوَ إِنَّ - وَٱنَّ يُوَلُّ ٱللَّهُ، نَذَالتَ مَا مُؤَلُّ مَا ٱنَّ مَّا أَنَّ مَدَيَأً لَّ فرياً لل فرياً للهُ كَالُ حرُقُوَلٌ لَعَرْبُوَلُ لَعُرْمُوْلُ لَا يَأْلُ لَا يُجَلُّ مِنَهُ يَا لَ لَنُ يَجُولُ ، لَيَا مَنْ لَيو لَنَ ، لَيَا لَنْ ذَبُولَنَ الْمُسُ مِنْهُ: إَنَّ أَلْإِنَّكُلْ، لِتُوَلَّ لِتُوَلَّ لِنُوَلَلْ ، لِيَأَلَّ لِيَأَلَّ لِيَالَ ، لِيُوَلَّ لِيُوَلّ لِيُوَلَ الْمُؤْلَلْ، الْمُؤْلَنْ، إِنَّ لِيُوَتَنَّ أَلَنْ لِتُوَكَّنْ لِيَهُ لَنْ لِيوُكَنْ دَ النَّحْمَضَةِ: لَا تَآلَ لَا تَأْلُ الْأَسَالُ الدُنول لا تُوَلا لَّدْ يَأْنَ لَا يَأْلُ لَا يَا لُلُ الدَّيُوَلُ لَا يُوَلُ الدينَةُ لَنْ تَدْتُكُنَ لَا تُوَلَّنَ الأيانَ لَا يُوتَنَ الأَتُوبَ لَنْ لَا يُوَلَّنْ ٱلْظُرْبَ مِسْلًا؛ مَهُ لَا مَهُ لَا مِنْ لَهُ وَمُوَيَّنَ ۖ وَالْالَةُ مِسْلُهُ، مِيتل مِيكُونِ مَرْ لَ يتكتتان ملأ <u>بکالا میش</u>سلا 7 د ے ذمہ آپ ومُوَتَّلِينًا كَانُعْنُ التَّفْضِيُّ الْمُنَكُرُمِتْ ؛ أَوَلْ آَدُ لَأَنِ أَوَتَوْ ذَاوَانَ وَأَوْسَ يستَهُ: أَنَّى إِنَّيَانِ أُنَّيَاتُ أَلَلُ قُرَّ إِلَيْهِ لى مجرّد مثال ادى مهموز لعين از ويشب كداسك ملتى من وبالكركمة ورح وباز ا، نَبِعُوذًا بِمَدْ - دَوْمِنَهُ بَوْ آَدُ جَاءًا الْدَاكَ حَوْمُ وَدُسمًا وَقَدَ حَادُ مُعْدَ بَعْرَ يُوْأَذْ ٱلَّابَيْبِ لَالِيقُ أَدُّ الَّنْ يَتَعِبْ لَنَ يَتُوْءَدَ الْيَدِيدَ لَا لَيُوْءَدَنَّ الْيَسْعِدَنَ لَيوْءَدَنَ الْمُعْمِنُهُ، إِذ لْالْيُوْءَدُ ادَنَّ لِتُوْءَدَنَّ الْبَسْبَدَةَ لِيُوْءَدَنَّ إِدَنْ لِتُوْءَدَنُ لِبَوْءَدَنْ وَلِلتَّحْ عَنَهُ ؛ لَا تَبْتُ لَا تُوْتِدُ ، لَا يَجِدُ لَا يُوْءَ ﴿ ، لَا تَبْعِهُ نَ لَا تُنْفِ دَدَنَّ ، لَا يَعِدَ كَ لا يُفتر ذ لَا تَبْعِدَن لَاتُحْتَدُنْ الْآيَسِيةِ نُ لَايْنُ أَدَنْ ٱلْظُلْرِفَ مِبْهُ عَامَهُمْ مُوْتِحِدٌ مَوْتِحِدًانِ مَوَاتِحِد كمؤيْتِحَدً وَالْأَلَةُ مِنْهُ مِنْسَمَدُ مَنْعَدَانِ مَوَاكِدُ وَمُوَبْعِدًا مِنْهَمَدَةٍ مِنْتَعَدَ نَانِ مَوَاكِدُ وَمُوَبْهِ سُدة ﴿ ربَيْنَ كَنِيْتَعْدَا مَوَادِينِ ذَكَرُهُ وَمُوَيَسِينَةٍ أَنْعَلُ النَّفْضِينَ الْمُعَدَّكَ مِنْهُ، أَقْلُهُ أَوْمَدَانِ أَوْمَدُونَ أَوَاعِدُوا وَمِدْ الخ الخ وَالْمُوَنَّنَتُ سِنْهُ : وَوَدُدى وَرُدْدَيَانِ وَرُدَدَيَاتَ مُودَد - وَوَدَيْ يَدِي -ومذكور بالتتغذيف فجالتتخلبا بنجازا رمَادَ أَذَ مَا إِنَّهُ الْعُرْبَيْهِ لَعُرْبَعُهُ وَأَدْ يَسِعُدُوا ذَا، فَقُوداً بَعْدُ - كَإِنَّهَدَ يُوَدُ وَإِذًا، مَذَاكَ مُوقَدُ لَا يَبْصِدُ لَا يُوَدِّ، لَنْ يَتَسِدُ لَنْ يُوَدِّ ، لَبَسَبُدَ لَ لَيُوَدَنَّ ، لَيَسَبُدُنْ لَيُؤدَنْ أَلْأَمْرُوسُهُ : إِذَ لِتُوَدَّ ، ب ب ب لِيَعْدُدُ لِيُوَدْ الدِينَ لِيُرْدَنَّ المَسْرَدَنَّ المُتَوَدَنَّ المُتَوَدَنَ الْتُودِينُ المَسْتَع يه رالي مر لَاتَبِعَدْ لَا تُوَدْ ، لَا يَعِدْ لَا يُتَدَدْ ، لَا تَبْعَدَنَّ لَا تُوَدَّنَّ ، لَا يَعْدَنَّ لَا يُودَنَّ ، لَا تَعْدَدُنَّ لا تُودَدُنَّ . . رَ الْجُمُوعَ الْمُكَسَّرةُ: وَأَدَةً، وُلَّادً، وُعُدَّ، وَقُدَ، وُعَدَاءَ، وُؤْدَانٌ، وِلَدًانٌ، وِلَادٌ، وُؤُودٌ، اوْ لادً، ٢ ا منه

مَوَاتِبُ وَمُوَيَّدِ بِمَدْ مِيَابٌ مِيَابًا فِي مَوَاكِيْبٌ وَمُوَيَّدِيُ وَانْعَلُ النَّفْضِيْلِ الْمُدَكَر ٱڎۜٱيَّفِ دَامَةُ يَّبَّ قَالَمَةُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَبَادَةً بِيَانَ ٱلْحَرَبَيَاتُ أَوَتَبَ صرف صغير عن مُكَان مُجَرَّد مثال باتى ومهم والعين از إب يوم فيجل لفيض يحور اليامي، · الآميد يونا-علامة إس باب كي يسب كدايجي على مين عين كلمة تحسور ادر مُضارع مين مفتوح برياج يَبْسَنَ بَنْكُسُ كَأْسًا، فَعُبُو يَكْذُسُنُ حَدَيْتِسَ بُوْءَمْ كَأْسًا، خَذَاتَ مَبْوُوْسٌ - مَا يَثِسَ مَا يُثِينَ ، كَرْ يُنْشَ لَمُرْفُوْسَ ، لا يَبْتِسُ لأيود من ، لَن يَعْضُ لَنْ يَوْد سَ ، لَيَعْشَنَّ لَيو مَنْ ، لِيَعْشَنُ المودسَ الأمرينه ، إيش لِتُوْءَسْ ، لِيَبَكْشُ لِيُوْمَسْ ، إِيْنَسَنَّ لِيُوْدَسَنَّ ، لِبَيْتَسَنَّ لِيُوْمَسَنَّ ، إِينَسَنْ بِلَدْ عَنَّهُ ؛ لا تَيْشَى لا تُوْآسَ، لا يُعَيَّسَ لَا يَوْآسْ، لا تَيْتَسَنَّ لا تُوْآسَنَّ ، لا يَيْتَسَنَّ لا يُؤ لَا يُنْيَشَنُ لَا يُؤْمَسَنُ ٱلْظُوْفُ مِدْهُ ، مَيْثِسْنَ مَيْثِسَانِ مَيَا يَسَمُ وَمُيَيْشِنُ وَالألَة مِنْهُ ، مَيْتَنَ مَيْتَسَابِ مَيَاَتِسُ وَمُعَيَّثِينًا - مِيْنَتِسَةً مِيْنَسَتَانِ مَيَاتِسُ وَمُيَيَتِوْسَةً - مِيْنَا مَا مِيْنَا سَانِ مَيَا بِكُسُ وَمُبَنَّبُتُ وَٱفْعَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُذَكِّرُمِنْهُ، ٱيْنَسَ ٱيْتَسَانِ ٱيْنَسَوْنَ آيَا بَشَى وَ أَيْنَكِسُ وَالْمُوْتَتُ مِنْهُ، يَوْسَى يُؤْسَبَانِ يُوْسَيَاتْ يُوْسَ زَيْدَ يُسَاد سرف صغيرا زياب مذكور بالتخفيف بجوازا يَتَّكِسَ يَتَسَقَّ يَاسًا، فَهُوَ يَآتِشٌ رَوَقِيلِسَ فِجُوَسٌ بَاسًا لَذَالتَ مَيَّوْشٌ - مَا يَلْيس مَا يُشِن ، لَعُرَيَكِس لَعُرْكُوس ، لَا يَبَسِى لَا يُوَسَى ، لَنْ يَبَيسَ لَنْ يَجُوَسَ ، لَيَبَسَنَ كَيُوُسَنَّ ، لَيَبَسَنْ كَيُوْسَنْ أَلْا مُؤمنِنَهُ • يَسْ بِتُوَسْ بَيَسَنْ بِبُوَسَ ، يَسَبَّنَ لِتُوَسَنَّ ، لِيَكِيسَنَّ لِبُوَسَنَّ ، يَسَنُ لِتُوَسَنُ ، لِيَكِسَنُ لِبُوَسَنُ مَالتَكُمُ عَنْهُ ؛ لاَ تَكِسُ الأُوْتَ لَا يَنِيعِ لَا يُوَسَّ ، لَا تَيْسَنَّ لَا نُوَسَنَّ ، لَا يَنِيسَنَّ لَا يُوَسَنَّ ، لَا تَيْسَنُ لا يُوَسَنُ مِنْهُ، مَيسَنُ مَيسَانِ مَبَآتِسُ وَمُيَبَسٌ وَالْإِلَهُ مِنْهُ ، مِيسَنُ مِيسَانِ مَيَآتِسُ وَمُيَيَسٌ - مِيسَهُ يَبْتَانِ مَيَا يُسِحُ وَمُيَدِّسَةٌ ، مِيَا سَ مِبَاسَانٍ مَيَآبِيْسُ وَمُيَوْبِسُنٌ وَانْعَلْ التَّفَوْيَل المُذَكّرمُونَة اكَس آيسان ٱ يَسْتَوْنَ ٱ يَا يَشَى وَا يُبَسَّى وَالْهُمُ نَتْفُ مِنْهُ ؛ يُوْسَى يُوْسَبَا بِ يُرْسَبَا هِ يُوْسَ وُيُوبَ و صرب صغيرفعل ثلاقي تجرد مهمورالعيب فنماقص ادى زباب اقرل نعل يفعل ميجوب الشباكوم متسوكركما ما - عُلامہ بکس باب کی سے کہ ایک کی ماضی میں عین کام مفتوح ادر کرمندائے میں صور آ سايستوديد والمفرساي بروسي يسامى موارد والمفري بالمستود ماسا ماسير المدين والمور لَا بَبِيهِ وَلَا يُسْتَأَى ، لَنْ يَسْتُودَ لَنْ يُسْتَكَى، لَيَسْتُونَ لَيُسْتُا بَتَ ، لَيَسْتُودَنَ لَيُسْتَأَيْنَ الْأَمْرِبِينَهُ ، أَسْ لِيَن إِيدَنْ كُلُسَ مَ الشُوْدَةُ لِنُسْنَا يَنْ السَنَوُدَةَ لِسُنَا يَنْ ، اسْتُودَن التَّسْتَا يَنْ ، لِيسْتُودَن السَّحْمَن ما لي والجُمُوعُ المُكسَّرةُ: يَأْسَةُ،....الخ ٢ / منهُ والجُمُوعُ المُكسَّرةُ: سُاةً،....الغ ٢ / منه

-144

ڴڐڨڰڒؾؙڞڔٞڵٳڽؚؽؙۘڵٳۑؿ؉ۘڒؾۜڎۅۘڮڹٞڵٳٛۺٵۘڽؘٚ،ڵٳۜۑۺۅؙۊڹؘۘ؆ؽۺٲۑۜڹٞۥڵڐۺٷۘۯڹ۫ڵٳؿ۫ۺٲؖؽڹۦڐۮۺٷۯڹ ڵٳؽۺٲۑۜؽٵڶڟٚڔػؙ؞؞ؚ*ۮ؋؞*ۺؾٛػۺؽٳڹ مَسَاجٍ وَمُسَبِي ٥ وَالْالَةُ مِنْهُ، مِسْيَ مِسْيَانٍ مَسَاءٍ وَمُسَنَى - مِسْلَةٌ مِسْطَانٍ مَسَاجٍ وَمُسَبِينِيةً - مِسْلَةً مِسْلَاتِ مُسَاءً فِي ومُسَيْنَ وَأَنْوَلَكَتَبْعُ الْمُذَكِّمُ مُعْمَةُ مُتَعَانِ أَسْتَوْنَ أَسَامٍ وَأَسْتَى وَوَالْمُؤَنَّتُ مِنْهُ سَبْعَى سَيْحُ بَبِيانِ سُوْيَيًا تُ سُتُوًى وَسُوَ حِتْ مرف صغيرا زباب مذكور بالتحفيق جَوازًا سَأْيُسُوْسَادًا · فَهُوْسَاً جَ - وَسَبِّيَ يُسَادًا · فَذَالَ مُسَوَّدَ مَاسَاتُمَا سَبِّيَ كَرْبَسُ كَرْبَسُ كَرْبَسُ لَا يَسُولُ بَسُولُ بَسُولُ بَسُونُ كَيْسَيَنَّ، كَيْسَيِّنْ الْمُسْيَنْ الْكُمْرُمِنْهِمْ مَكْلِشُ لِيُسْ لِيُسَى سُوّنَ لِتُسَيّنَ، لِيسَوْنَ لِيسُبَنّ ، لِيسُوْنَ لِيسُبَنُ وَالنَّلْمُ حُدْهِ، لَاتَنُو كَوْتُسَىءُ لَابَسُ لَاتُسُونَ لَانْسُونَ أَلاَيْسُونَ لَاسْبَيْ الْانْسُونَ لَانْسَانُ ، لَابَسُونَ لأيسكن ألقلزف مِنْد، مَسَى مَسْيَانٍ مَسَابُو دَّصَبِّي وَإِلالَة مِنْم، مِسَّى مِسَيَّانِ مَسَاًةٍ وَمُسَبِّي -مِسَاةٌ مِسَانًا نِ مَسَاءٍ وَمُسَيِّبَيَةٍ - مِسَا فَحُمِسَاءَتِ مُسَاقَةٍ وَمُسَيَّةٍ فَا تَعْظُلُهُ فَيَشَا الْمُدَحَدُمِنْدُ: أَسْ إَسْبَانٍ إَسَوْنَ أَسَادٍ وَأَسْبَى كَالْمُوَنَتُ مِنْهُ : مَيْتُولِ سُوْيَكَانِ سُوْيَكَ سُوَى رب صغيرتعل مُكَاثِي مُجَرَّد مهموُ العياقِ باقتص بإني إز بابٍ ومُغلُ كَفِيعِكُ يَحُونِ الصَّبَّةِ مِي ب - بیسجے کار واز نکالنا - علامة ایمس باب کی جسے کاسکی جانی میں عین کام فتوح اور سام میں اور ا صَلَى يُضْرِينٌ صَبِينًا ، فَهُوُصَارٍ - وَصَبِّي يَصْلَى صَبْيَةًا ، فَذَالَتَ مَصَبِّينٌ - مَاصَلَى مَاصُبْي ، لَوْبَيض ولُرْبِيضٍ الْد المُصْرِي لَا يُصْلَى ، لَنْ يَصْبِى لَنْ يُصَلَى ، لَيَصَبِّينَ لَيصَاً يَنَّ ، لَيَصَبِّينَ لَيصَا يَن الْأَمَرُمِينَهُ الصَّرِيقَ ي لِيَصْ ءِ لِيصُرْ ، إِصْبِيَنَ لِتُصْلاً يَنَ ، لِيَصَبْبَنَ لِيُصْلاً يَنْ الصَبْبَيْ لِتُصْلاً يَنُ ، لِيصَبْبَنَ لِيُصْلاً يَنْ وَالنَّفَى عَنْهُ لَاتَعَنُ وَ لَاتَّصْ وَ الْايَصْ وَلَايَعْنَى مَ الْاتَصْتِينَ لَا تُصْآَيَنَ الاَيَضِيمَ لَا لَدُسْآيَنَ ، لاتفتين لاتُصارَبُ، لَا يَصْبِينَ لَا يُصَابَينُ ٱلظَّرْفُ مِنْهُ ، مَصْبَى مَصْبَ كَانِ مَصَادٍ وَمُصَيْبِي وَإِلَّا لَةُ مِنْهُ ، مِعْتَ مِصْبَ كَانِ مَصَابَةٍ وَ مُصَبِيحٌ - مِصْابُهُ مِصْانُانٍ مَصَابَةٍ وَمُصَيْئِيةٍ - مِصْارَمُ مِصْاءً أَنَّ مَصَارَفٍ ومُقَيْبِي وَأَنْعَلُ النُفْخِيْلِ لَمُذَكِرُ مِنْهُ بَاحْتَى آصْتَيَانِ ٱصْتَوْنَ اصْلَهِ وَاحْتَى وَالْمُؤْنَيْتِ مِنْهُ، حَوْلَي مؤتيتان مؤمَّدات حَتَى وَعُوْ يَنْ صرف صغيرازماب مكور بالتخفيف تجازا صَلَّى يَعِبْي صَبِّيًا وَفَكُوْصَابَرٍ - دَصْبُيَّ يُصى حَثِيًّا ، فَذَ السَّ حَصِيُّ - حَاصَلْ ي حاصُري ، كَريص كَريص، لاَ يُصِيّ لَدْيُصَى الَنْ يَصِيُّ لَنْ يَصَى لَيُصَيِّنْ لَيُعْسَيَّنَ الْيَصِينُ لَيُصَيِّنُ أَلْا مُوْمِنْدُ: حس لِتُصُ لِيعِي لِينس ، جسبينَ سَيَنَ لِيَعِينَ لِيُصَيِّنُ ، مِبِينُ لِتُصَيَنُ ، لِيَعِينُ لِيصَيَنُ وَالنَّحْرُ حَنَّهُ ؛ لَا تَصِ لَا تُصَ تُعْسِيَنَ لَا تُصَيَّنَ لَا يَعْسِيَنَ لَايُعْسَيُنَ ، لَا تَصِينُ لَا تُصْبَنُ ، لَا يَصِينَ لَا يُصَيَنُ الْقُلْنُ فُ مِنْهُ ، مَصْبَعَيْكِ مَعَنَّاءٍ وَمُصَيِّي وَالْأَلَةُ مِنْهُ ؛ حِصَّى مِصَيَّا بِنَمَصَاءٍ وَمُصَيِّى - حِصَّاة مُصَاتًا بِ مصَالَةٍ وَمُعِيَّية بِمُعَسّاً و وحكامان مَصَابِي وَمُصَيِّيني دَانعُلُ التَّنفِيني المَلْ حَرَّبِنَهُ : اصى احَبَانِ أصون أَصَابَه دَامَتِي والمُوَتَتُ مِنْهُ ، صُوَيْ صُوْتَبَانِ مُوْتَبَانِ مُوْتَبَانِ وَالْمُوَ

رف صغيرُ عل نلاق محرَّد مهموًالعين ناقص إتي إزباب جهارٍم فَعَلَ يَفْعَلُ بِيحِي ٱلمدَّ أَسْمَى، دحكودينا. علامتیں ایس باب کی کاد ہیں ابکٹ یہ کہ ایس کی کا صحب اور مصارع میں عین کلم ، آلو ٢٠ يَدْ مَن يَدْ مَى دَرُياً مَنْهُوراً مِنْ مَدَى دَأْياً، فَذَاتَ مَدْ فِي مَا مَ مُ مَا مُرْقِي ، كمر يَدْ عكم مُدْرَة ، لا يَدْطِى لايد أي مَن يَد أي مَدْ يَ مَا مَ فَي يَدْ أَي لَبَدْ نَكِنَ لَيُدْتَكِنُ لَيَدْتَكِنُ لَيُدْتَكِنُ ٱلْأَمُومِنِهُ وَادْءَ لِتَدْءَ لِيَدْتَرُ فَيَنَ لِيدْتَكِنَ لِيدْتَكِنَ لَيدُتَكِنَ لَيد لِيَدْنَيْنَ لِبُدْمَلِينُ وَاللَّحْيُ عَنْدُمُ لَاتَدْءَ لَا تُدْعَ لَائِدْ وَلَائِدْ مَ لَاتَدْ تَعَيَّ لَا تُدْ تَعَيَّ لَا تُدْعَيْنَ لَا يُدْءَيَّنَ لَا يُدْعَيْنُ لا يُعْدَعُ بِعَدْمَا يَنْ لا يُعْدُ لَا يُدْعَبَنُ ٱلظَّفِرُفُ مِنْهُ : مَذَاتًمَ مَدْعَيَانٍ مَدَابٍ وَمَدَى حِ وَالْإِلَةَ مِنْهُ: مِذْتَ يَ مَذَا يَانِ مَذَابَي مَدَابَة مِنْهُ : مَذَا يَ مَدَابَة مِدْتُ مَدْعَيَان كَلُمُدَيْنِيَةٌ مِدْآً مِنْ مِدْآتُهِ مِنْ مَدَاتُهِ مُومَدَيْتُنَقَ وَأَنْعَلُ التَّفْغِيتِلِ الْمُذَكَنُ مِنْهُ : إذا ما دُمَّانِ أدْمَوْنَ أدْاتُو وَأَدْ تَحْسَطُ دَ أَ يَدْى دَابًا نَهُوُدَابَهِ وَ دُقِي يُدْى دَايًا . خَذَاتَ مَدِي مُ مَا دَ أَ مَادُ بِيُ ، لَهُ يَذَ لَو لَنْ يَكْدِى البَدَيَنَّ كَيْكَ بَنَّ البَدَيَنْ لَيُدَيِّنْ أَلْا مُوْمِنِهُمْ وَ لِنَّدَ إِيدَ لِيد دَيَنْ لِتُدَيَنْ ولِبَتَدَيَنْ لِيمُدَيَنْ وَالنَّحْصُعَنْهُ: لَا تَذَكَ لَا تُدَيَّ لَا يَدَيَّ لَا يُدَيَّ لُولايُن لا تَذَيَنْ لَا تُذَيِّنْ الَايَةِ بَنْ لَا يُدَيِّنْ ٱلظَّرْفُ مِنْهُ : مَذَكَ مَدَيَّانِ مَدَاً ﴿ وَمُدَيِّ وَالْالَةُ مِنْهُ: مِدَّى مِدَيَّانِ مَدَامٍ وَمَدَيٍّ - مِدَاةٌ مِدَاتًانِ مَدَامٍ وَمُدَيِّينَةٌ - مِدَامٌ مِدَامَنٍ مَدَافٍ مُدَيِّينً ومُدبِّينً وأنعس مَنْضِيْلِ الْمُذَكَرُ مِنْهُ : آدى ادْيَانِ آدَوْنَ أَدَاءَ وَأُدْيَ وَالْمُؤَتَّتُ مِنْهُ: كُوْلِي دُوْيَكَان مُوْيَكَانٌ دُوْ ي بْ ثُلَانْ تَجَرُدُ مُهُو العين ما قص إلى ازباب جمار م فعَلَ تَفْعَلُ يَجْلُ الدَّقْرَيَةَ ، ت یں ایک باب کی دو ہیں ایک یہ کہ اسلی ماضی میں آلز مَرْأَى يَرْى مُ ذَيَّةٌ ، فَلُهُوَ مَ آَيَرِ - وَمُ مِتَى يُوْى مُ وُ يَةٌ ، فَذَالتَ مَوْدِ بِي مُا مُ بِي مامُ بِي ، لَمْ يَوَ لَعُرْبُهِ، لَامُو لَا يُرْى الْنُ يَكْرِى الْمَدْيَوْنِ الْيَوْمَنَ الْمُوْمَنَ ، الْيَوْمَنْ الْيُوْمَنْ الْدُمُومِنْهُ ، تم إنترا ليز ليز مرين إنراين، لِيَرَيِّنَ لِيُرَيِّنَ لِيُرَيِّنُ مَا يَدُيُّنُ لِيَدَيُّنُ لِيُدَيِّنُ وَالنَّقْصَعَهُ الْآتُو لِأَتُنْ لَا يَز لا يُرَادُ لا يُرَادُ لا يُرَادُ لا يُرابُنُ لاَ يَرَبَّنُ لَا يُحَدِّيَنَ لَا تَرَيَنُ لَا تُوَيَنُ ، لَا يَوَمَنُ لَا مِنَ يَنُ الْظُلْمِ فَ مِنْهُ ، مَوْا كَانِ مَوَا يَكُن مَوْا يَ وَالْالَهُ مِنْهُ: مِزْلَى مِزْلَا يَانِ مَوَارِدُوْ مُوَى بِهِ - مِوْلَى مَوَا يَجْمِعُهُ مَانِ مَوَا يَ وَمُو مَنَامٍ مَ وَمُوَ يَبْرِي وَأَنْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُسَدَّكُمُ مِنْهُ ؛ {تَمَ أَنْ مَ ذَيَانِ أَمُ عَوْنَ آماً إِذَه وَأَمَ فَي دِوَالْمُؤْتَتُ بىنە ، ئۇ يا ئۇ يىكان ئە ۋىكات ئە ۋى قە ئۇ يا ي ع المكسوة: ذلاةاخ معل دُمّاة الح-برامنه ملسو بمزه......اخ تما مرق من الله تبرسوب مُدليف داداز امزه، قاعده سيد جاري

مرف صغيرازياب مذكور بالتحفيف جوازًا

مرن ڪرير

بحبث إنثاث فعل ماصى معروف: ترأى تردّيًا ترأ فاترة في ما أنام أين مرة يت ترة يشكر اند فريرة أيستر مَ إِنْهُمَا مَ أَ يَتْنَ مَ أَيْنَا مَ مَعْتُ أَبْنَا مَ مِعْتُ الْمُعَامَ فَعَلْ مَاضَى مَجُول: مُ وِيَ مُ وَلَا مُ وَلَيْتُ مُ وَيَتَامُ دِينَ مرمينية مرد يسمام ويتشعر مردينة مريدينها مرديني مرايو يكن مرء ييت مردينا محسف فعل اصى معروف، مسّا تالى مَا مَ أَ يَا مَا مَ أَوْلَمَا مَ أَتْ مَا مَ أَ مَنْ مَا مَ أَيْنَ مَا مَ أَيْتُ مَا مَ أَيْسُهُمَا مَا وَأَيْ مارة أيت مادّة ينا بحت نفى فعل ماضى جبول: مَا دُرِي مَا مُرِيا مَا مُرَدًا مَا دُرِيَتْ مَا دُرِيتًا مَا دُرِيتًا مَارُوبَتْ مَادُونِيْسُمَا دُونِيْسُوْمَادُونِتِ مَادُونِيْسَمَا مَادُونِيتَنَ مَادُونِتْ مَادُونِيَ كَادُونِي معروف، الكراي يُركان يُوَدِّنْ تَوْى تَرْبَانِ يَرْبَنْ تَوْى تَرْبَانِ نَرُوْنَ تَرَبِّي تَرَبِّي تَرْبَي أَدْى مَلْ أملى تموى بحث تفي تعل تمضارع معروف، لايرى لايَدْيَانِ لايَدَوْنَ لاتَدْعَانِ لاتَدْعَانِ لايَدْيْنَ لاتَرْعَان كُدْ تَدْمَانِ لَا تُوَوْنَ لَا تُوَيْنِ لَا تُدْرِينِ لَا تَدَيْنَ لَأَ أَمْ لَا يَرْدَان بحست تفى فعل مُضارع مجهول، لأمر له يُركان كَوْمَيْرَدْنَ لَا تُوَى لَا تُوَيَانِ لَا يُوَيْنَ لَامُونِي لَا يُوَيْنَ لَا يُوْنُي لَا يُوْيَانِ لَا تُوَي لَكُنْ دِنْعَامُ مُسْتَقْبِلِمُعَرُوفٍ؛ لَنْ يُؤْي لَنْ يَوْدَيْ لَنْ يَتَوَقَّا لَنْ تَزْمَى لَنْ تَزي لَنْ يَوَيْنَ لَنْ تَزْي لَنْ تَتَقَالُ لَنْ تَوَدْ الْنُ مُوَى كُنْ تَوَيّا كُنْ مُرْبِي كُنْ أَمَاى كُنْ خُرَى بَحْتُ فِنْ بَكْمِدِكُنْ دَرْضِ مُسْتَقِل مجبول، لَنُ يُرْ لَّهُ يُوَكُا لَنْ يَوَدُّا لَنْ تُوَى لَنْ تُوَكَا لَى يُوَيْنَ كَنْ تُوَى لَنْ تَوَكَا لَنْ تَوَقَا لَنْ تُوك اً الما من مُتَلى مجعت لغى مجت بالم در فعل مُستقبل معروف، لَعَرَبَرُ لَعَرَبَرُهَا لَعَرْبَرَدَ المُرْتَر لَع

مديد والجعُوع المُكسّرة: دُلَّاةاخ مثل دُعَاةان . ٢ ا منظم قلب حمزه المن كعامونى ص ٢٢ أكم ترسيب تبد ليتوامزه، قامده مدجارى تعد ٢٠ المند مر

يَرَيْنَ كَدْنُوَكَمْ تَوَيَا لَعُرْتُوَدًا لَعُرْتَوَى لَعَرْتَوَيْ لَعُرْتَوَيْنَ لَعُرْارُ لَعُرْنُو مِحت نفى تَجْدَبُهُ ودفع مجهول: أَمْرَيْوَ أَمْرَيْدُيْ لَمُ يُؤُو إِلَمْ نُوَ لَعُرْ تُوَيَا لَعُرْ بَرَيْنَ لَعُرْ نُولَعُ تُوبَا لَقُ تُرْضَ لَقَرْأَمَ لَعُرْشُ بحث لامٍ ماكيد بالون ماكيد تقيل در فعل مستقبل معروف، لَيَرَيَّ لَيَرَوَقَ ِلَكَرَيْنَ نُتَرَيَّانَ لَيَرَيْنَانِ لُتَرِيَّنَ لَتَرَيَّنَ لَتَرَيَّنَ لَتَرَوُنَ لَتَرَيْنَ لَتَرَيْنَ لَت تاكيد بانون تأكيد تعييله درفعل مستقبل مجبول؛ لَيُرَيَّنَّ لَيُرْبَأَةِ لَيُرَوَّنَّ بَيْرَيَّنَ لَتُرْبَعَ بَذَر لَثُرُكَآِ لَنُوكُتَ لَتُرْبِنَ لَعُرَيَآَنِ لَتُرَبَّكُمَ لَا مَ يَنَّ لَعُرَيَتَ لَعُونَيَنَ **مُحْتَ لامَ المُدر الون اكْبِدخْفِيفْر ورُفَكَ تَقْبُ** ، ذِ لَيُرْبَنْ نَبَرُونْ نُتَرَيْنَ نَتَرَيْنَ لَتَرَدُنْ لَتَرَدُنْ لَتَرَيِنَ لَاَ لَا يَنْ لَنَزُينُ **بحت لام اكبدبانون تأك**ر خصِيفَه درفعا مُستَفْتِل مجبول؛ لَيُرَيَّنَ لَيُرَوِّنَ لَتَرَيِّنَ لَتَرَيَّنَ لَتَرَيِّنَ لَتَرَيِّنَ لَتَرَي ر *معروف ، تردَيَا تُرَوَّا مَ* تَى مَايَا مَ يَنْ سِمَعَتْ المر **حاصر مجبول :** لِبَحْدَ لِعُدَدًا لِتَرْتَ لِلُوْ ف ا مرحامت محروف : لِيَدَ لِيَرَيَّا لِيَرَوُ التَّرَ لِتَرَيَّ لِيَرَيْنَ لَامَ لِنَرَ بَحَت ا مرحات مجهول لِبُرُ لِيُرُكَا لِبُرُدًا لِتُرَبِّدُيَا لِيُرَيَّنَ لِأُمَ لِلْأُ **بِحتْ امرحا ضِرمجوف بِالوْن مَاكِيرتقيسلہ :** تركَيْنَ مُكَانِّت ىردىنَّ مَ بِنَّ مَرِيَّاتِ مَ يُنَاّنِ بحت امرحا صرمجهول بالون ماكَبِدْلِقَتِ له، لِتُرَيَّنَ لِتُرَيَّ لِتُروُنَّ لِتُرَيَّ نُرَبَّانِ لِبُرُيْنَا يَ **بحت امرغا سُب مُعروفُ بالون تأكير تُعَيْب له ،** لِيَدَيَنَ لِيَرَكَآيَ لَيُدُونَ لِتَدَيَسُ دَيَابَة بِيَدَيْنَابَ لِآرَيَنَ لِنُدَبَنَ بحت امرغان مجهول باون الميد تقصيب، لِيُرَبَّ لَعُرَيَا فِي لِيَدُون لِعَرِينَ لِبُورَيَانَ لِمُدَينَانَ الرُّرَينَ لِمُرَينَ محت امر حاصر معروف بالون ما يذهيف، وماين او في ماين بحت امر حاصر مجهول بانون ماكيد محفيظه: التُرَيَّنُ التُدَدُنُ التَّرَيِنُ محت امر خاتب معروف بانون تاكي خفيف، لِيَرَيَّنُ لِيَزَوُنَ لِتَدَيَنُ لِآمَايَنَ لِعَدَيْنَ بِحَتْ امرغاسَ مجهول بانون تكيد تعيفه، ريُدَيَن لِيُرَدُ لِتُوَيَنُ لِامَ يَنْ لِنُرَيِّنْ بِح**تْ نِبِي حاصرمعروف،** لَا تَوَكَرُنُوا لَا تَوَى لَاتَوَى لَاتَوَيْ بَحَتْ بِج حاصر جمول ؛ لائن لا تُن يَا لا تُوَوْآ لا تُرى لا تُرَى لا تُرَيْ لا تُن يْن بحث بني عام معروف ؛ لا يُروا الَاتَوَ لَا تُزُبّا لاَ يَرَيْنَ لَاَ آ مَا لَا نَرَ بحمث بَنِي نِجا مَب مجبول، لاَ يُوَ لَا يُوَا لا يُرَدّن لا تُوا لا يُوَيّنَ لَا أَمّ كَدُ مُنَ بحت بنى حاصر معروف بالون تأكيد تعيله، لأتو يَنْ لاتر مَانٍ لا تودُقَ لاتر بينَ لاتر باي لاتر حت نبى حاصر مجهول بالوَّنِ تاكيد تعيب له: لا تُرَيَنَ لا تُرَيَانَ لا تُرُونَ لا تُرُبِينَ لا تُرَيانَ لا تُوسَنَابَ محستُ ننى عائب معروف بانون ماكيد ثقب ار، لاتدينَ لا يَدَنَّا بِ الدَيدَةِ لَا تَدَيَّا بِ الدَيدَةِ لَا تَدَيّا لا تد لاَ نَرَيَنَ بَحت بَهَى عَامَب مجهول بِالَوْن تَاكِيد تُقْتِب مدة تَدْمِدَيَنَ لَدَيْدَ مَانَ لَدُيرُونَ لَأَنور مَنْ لَا تُور يَآتِ لَا يُرَيِّنَانِ لَا أَسَرَيْنَ لَا نُوَيَنَ بَحِتْ مَنْ حاصر محروف بالون ناكيد خينه، وَلا تَدَيَّنَ لَا تَدَدِين بحث تَب

ول الون اكيد محفيف، لأتركي لأتوح الكثرين بحث بني عاتب معروف بالون اكيد معيف الأريد يَدِيرُونَ لَاتَرْبَيْ لَاآً بَيْ لَانَدَيْنُ بحث بني عامَب مجهول بالون تأكيد خفيف، لا يُدَمَّي لَا يُوُنُ لَأَ لاَمَةٍ بَنْ لا مُدَينٌ بحت المسم فاعل، سَآدِ مَنَا بِقَانِ سَنَا مُونَ سَاءِ يَهُ مَنَ آءِ يَثَانِ سَ أومان بحث الم فعول مَرِيٍّ مَرِيَّانٍ مَرِيَّوْنُ مَرِيَّةً صرف صغير فعل ثلاثي مزيدة يرم والعين ، ناقص مائي التخفيف بحوازًا أرباب لِفْعَالَ مِحُونَ الْإِدْمَاءُ فَأَ دكما با-علامة أس إب كى يوت ترك كم احنى بين جاز حسب دف مرديت إن بالكن المل ايكِ زائد - يعسنى مثروع بين تمّ زه تطوح -ٱبٰى يُوِى إِذَاءَةُ ، فَهُوَعُرٍ، وَارْمَاى يُولى إِرَاءَةَةً ، فَذَالتَ عُوَى - مَا آبَاى مَا أُرْمَى، لَعَ فَركومِن لاَ يُوِیْ لَا يُرْی الْهُ يُبُوى لَنْ يُوَى ، لَيُويَنَّ لَيُرَيَّنَّ لَيُرَيِّنَّ لَيُرِيُّ لَيُرَيّ لِهُرَ، أَن يَنْ لِلُوَيَنَ ، لِيُرِيَنَ لِبُرُيَنَ ، أَ دِينُ لِنُوَيَنُ ، لِيُدِينُ لِيُوَيَنُ وَالتَّفى عَنْهُ وَلَاتُولَا يُولَا يُرُلُّ لَد توبَيْ لَا تُوبَيْ الأيويَيْ الأيويَيْ الأثرييَ لَا تُوبَيْ لا تُوبَيْ الأيويَيْ الأيريَ المَقْرَيَ المَقْ صرف ڪپير بحث إتبات فعل ماصى معروف: ألماى أمَّاكَا أمَّاكَ أمَّكَ أمَّ عَنْ أمَّ مِنْ أمَّ يُبْ أمَّ يُبْ أَمَا يُسْتَمَا أَ دَيْسَتْعَا مَيْتَ اَ مَ يَشْهَا أَمَا يَتُنَا أَمَا يَنَا بحث اتباتٍ فعل ما حنى مجهول: أَ مات أَ ماكا أَمُوا أَ مائينا أمانيا أَم اي فيت اي يتما اي يتشفر اي يت أي يتما أي يتن أي يتن أي يت أي ينا بحث نفى فعل اصى معروف : مَا إلى مَادَرُكَامَا دَوْامَا أَرَتْ مَّا أَرَيْنَ مَّا أَرَيْنَ مَّا أَرَيْتَ مَا أَرَيْتُهُمَا مَّا أَرَيْتُ مُالَح مَا أَيَ يَنَا بِحِتْ فَعْي فعل ماضى مجرول ، مَا أَيرى مَا أَيرا مَا مَا أَيرا مَنْ أَنْهِ عَامًا أَيرا يَنْ مَا أولي مَن مَا أوريت مَا دِينَهُمَا مَا أُدِينَهُ مِنَا أُرِيْتِ مَا أُرُيْتَهُمَا مَا أَحِدِينَ مَا أُدِينَ مَا أُدِينَا بحث المُبات فعل مُسارع معرو يرِنِي يُوِيَانِ مِرُونَ نَبِرِي يُوَيَانِ مِونَيْ تَوْيَ تَوَيَ تَوَيَ تَوَيَانِ مُرُونَ تَرُبُي تُويانِ تُويَنَ أُمِدِي نَبُوتُ الْمَات لَا يُوِيَ لَدِيْرِيَانِ لَا يُوُوْنَ لَا يَرِي لَا يُرِيانِ لَا يُوِيْنَ لَا يَوْدِينَ لَا يَوْعَانِ لَا تُوعان لَا تُوْجَنُ لَا تُوْجَنُ لَا أَمَنْ لا يُوَيْ فَاللَّهُ عَالَهُ فَا الْحَدَيْ فَا اللَّهُ عَالَهُ عَ نفى كغل مُصار مجمول، لا بري الدينيان لا ترف لا شرى لا شرى لا يون لا شرى لا شرى لا شري الدينية لا شري لا شري الا شري لا أن ال كالم محت لقى ماكيد بكن در معبل معروف وكن يُوِي كَنْ يُوْمَا كَنْ يُوْمَا كَنْ يُوْمَا كَنْ يُوْمَا كَنْ يُوْمَا كَ يُوْمَا كَنْ بْعُ لَدُبْنِيَا لَنَدِيْنِ أَنَ أَبْهَ عَالَ فَرْعَ مَعَتْ لَقَى مَا كُتِ تَكْنُ له إيماءته ٢ ومصدر أصل من إذ مجاري برؤزن إفغال تقا - بمقاعدة ريد الحوص، إنها موجها بيمريقاعدة يُسَلُّ بمزة تأثيري حركت ماقبل كودير بمزوكوديا، يجربقاهد إقباطة بمزء مذوفه بحرموض أعزين الصنتج كربرهادي، إس آء تاج بروز بالفاعك لابوكيا به اوينه

عسلا الرمصدر مرجر فيد بجز الثقابة وينا ينجد كونتش والمنتحرك درآ خرش درآ رند دجوبا يكرلغة ومالية شاذ انداد و

درفعل مُسْتَقْبِل مجرول، لَنْ يُمَاي لَنْ يَحْدَيَا لَنْ يَتَرَدُوا لَنْ تُرْي لَنْ مُرْمَا لَنْ يَجرون لَنْ مُراي لَنْ تُرَوّ كَنْ تَوَى كَنْ تُوَكَّيا كُنْ تَوْمِنَ كَنْ أَمَان كَنْ تُرَدِّى **بحت لَفَى حَجَد بَكَمُ درفعا مُسْتَقْبِل معروف،** لَمُرْبُدِ لَعُرْبُر لَّرْ يَرُوْ الْمُنْكُولُكُ تُوبا لَمُ يُونَنَ لَكُرْتُكُو كَعُرْتُوبالْعُرْتُودُ الْعُرْبُونَي لَكُرْ يُوبا لَك فى حجتُ بَكُمُ در فعل مُسْتَقْبِل مجهول: لَدَّيْرَ لَدْ مُدَيَّدً مَا لَعَرْ مُدَوَّا ، لَهُ مُدَوَّ لَغُر مُدَنّ كَوْ تُوَى كَوْ نُوَمَّا لَحُرْثُونُي كَوْأَى كَوْنُو بحث لام ماكيد بالون ماكيد تقيله ورفعا مستقل • : لَيُعِينَ لَيُرِبَقِنَ لَيُدُنَّ لَتُوَمِنَ لَتُرِمَانَ لَيُرِينَانَ لَتُرِينَ لَتُرِينَ لَتُرِيانَ لَتُرِينَان لَدُ يَنَّ لَبُرِينَ بحت لامٍ ماكيد بالون ماكيدتقيله ورفغل مستقبل مجهول: لَيُدَيَّ لَيُرَبِّذِ لَيُرَفِّهُ لَتُربّ لَتُرَبِينَ لَيُرَينَانَ لَتُرَبِينَ لَتُرَبِينَ لَتُرَدُنَ لَتُرَمِينَ لَتُرَبِينَ لَتُرَبِينَانِ لَأُمَا يَنَ لَتُربَينَ **بحد الم البر مالون** ليد خفيف ورفعا مستقبل معروف : لَيُدِينَ لَيُوْنَ لَتُرِينَ لَيُوْنَ لَتُرِينَ لَتُرِينَ لَتُرِينَ لَكُرِينَ بَ بر **بالون ما بر رضيفه در نعل مشتقبل مجبول :** لَيُرَيَّنُ لَيُرَدُّنُ لَتَرَيَّنُ لَتَرَيَّنُ لَتَرُونُ لَتَرَيِّنُ لَ لَّهُ بَيْنُ **بحث امرحاصْرمعروف :** أَرِّهَ بَهُلااً مُوْلااً مِنْ أَحِدْيَا أَمِنْ المِي أَمِينَ **بحث امرحاصْر مجهول :** لِسَرْد لِتُوَيَا لِتُوَدُّا لِتُوَى لِتُوَيَا لِتُوْنِيَ بِح**ت امرِ فَا تَبِ مُعرِوْت: لِيُ**دِلْيُومَا لِيُونُ لِتُولاً بِ مَرْسِجِتْ امرْعَاسَ مجهول؛ لِيُزَلِيُّدَيَّا لِيُوَوَّا لِتُوَلِيَّدُيْا لِيُدَنِّيَ لِأَمَ لِلْدَبحث امر جاجنر معروف **بالوَنْ تَقْتِبِ لَهِ ،** أَبِرِيَنَّ أَبِرِيَّانَ آَبُرَةَ أَبِرِيَّانَ أَبِرِيَّانَ أَبِرِينَانِ **بِحنت امرحاصر مجهول بانوَنْ تُقْتِبَ كَه**ر: لتُوَيَنَ لِتُوَيَنَ لِتُوَمَنَ لِتُوَدَّنَ لِتُوَيِّنَ بِتُرَيَّةَ لِتُوَيْنَانَ بَحُتَ المرغا تَبْعروف بالون أليدته لم ليريز ليرياً ب لِيُرُنَّ لِتُوِيَنَّ لِتُوبِيَّةِ لِيُرِيَّيَّةٍ لِأَبِرِينَّ لِنُدِينَ بِحت امرغا سُ مجبول بالزن تأكيد تقييله و ليرينَّ لِبُريَاتِ لِعَدَق لِعُمَنِيَنَ لِيُومَكِنِ لِمُدَينَاتٍ لِأَمَايَنَ لِمُدَينَ بحدث امر *حاصر معروف بالون الميد خصيف،* أرمان أرمان محت ماصر مجهول بالون ماكيد تعنيفر: ليُرْبَنُ لِتُرَدُّنُ لِتُدَيِنَ بِحَتْ المرغانَبِ معروف بالون ماكيد عيفر: ليُرَ ليُرْنُ لِتَرِينُ لِأُدِينَ لِبُدِينُ محت امرغانت مجبول بالون باكيد مفيضة لِبُرُينَ لِمُرْهُنَ لِعُرَينَ لِأُمَ ين لِنُون بحث منى حاصر معروف : لَا يُولَدُ يُومًا لَا تُعْدَدُ الأَثْمِرِي لَا يُومُنَ بَحِمتُ مِنْ حاصر مجهول الأُتُوكَة لامُدَوْ الْأَمَرَى لَا تَرَيْ الْمُرْبِي بح**ت بنى غائب معروف : لَا يُ**يدِ لَا يُدِوَ الْاتَر لَا يَرْبِي لَا يُدِينِ كَا اً بِ لَدُنْبَرِ بِحِ**تْ بَهِي غِامَتِ مَجْهُولٍ، لَا مُ**يَرَلَا مُدَمَّا لَا مُتَرَدُ الَاشَرَ لَا تَثْرَ يَا لَا مُدَنْبَ مَنْ حاصر معروف بالإن ماكير لقيل ، لَدَيْرِيَنَ لَا تُوِيَانَ لَا تُوكَ لَا تُوكَ لَا تُبِينَ لَدَيْرِيَانَ لَا تُرب لجمول بالوَنِ مَاكِيدَتَقِيلَه، لَا تُوَيَّيَّ لَا تُوَيَّيَ لَا تُوَيَّنِ لَا تُوَدَّةُ لَا تُوَيَنَ لَا تُوَي بانون ناكيد لقبيله : لا مَوِيَنَ لَا يُويَانِ لَا يُوتُ لَا يُوتُ لَا يُويَنَ لَا يُويَانَ لَا يُدِينَانِ لَا أي يَنَ لَا نُرِينَ بَحْت مَى عَامَب

بول بالون تأكيد تُقيب بدا لائيزيَّة لائيزيَّاتِ لا يُزَوُنَ لا تُوَيَّنَ لَا تُوَيَّنَ لَا الْيُرْتِيَنَاتِ لا أَمَ يَنَ لَا نُوَيَنَ كُمتُ نېنى حاصر معروف يالون تاكيد تعنيف، لائو يَنْ لائون لائون لائون جمت بنى حاصر مجهول بانون تاكتر عن لأكرينُ لا مُدَوَنَ لا مُدَيِنَ محِتْ مَنْ عا مُرْ مُعروف بالون ماكيدهيف، لا مُرِينُ لا يُدُن لا مُويَن لا أُم لَا نُوَيَنْ بحص بمي عامَب مجهول بالون ماكيد حقيقه، لا يُرَدُّنُ لَا يُرَدُّنُ لَا تُرَيَنُ لَا أُمَ يَنُ لَا نُوكَنَ بحص ر فاعل: مُرد مُوركان مُودٌ نَ مُوركة مُوركان مُوركات محت المسم مفعول: مُرَّى مُدَكان مُدَوْت مُوَاقًا مُرْاتَانٍ مُوَيَاتٌ . **صرف صغرفعان ثلاثي تجرَّد** لفيف مفروق وبهز العين ازبار جم تعل يقجل يجون ألواتي : وعدة كزما يتلامة إس باب كي شيب كمراسي ماصني بيس عين كلمه فتتوخ ا در تصارع بني محسور بردما بحر ۮ٣۬ى يَبِيْ وَ٢ُ يَا، فَعُوْدَا بِحِوْدٌ بْنِي بُيْ لَيْ الْحَدَالَةَ مَوْءِيَ ٢ مَادَلُى مَادُ بْتَى ، لَعُرَ لَا يُقَوِّع ، كَنْ يَبْبِى لَنْ يُحْوَاكُ ، لَيَدْبِيَنَّ كَبُو أَيَنَّ ، لَيَشِيَّنْ لَوْآَيَنْ ٱلْأمُومِنْهُ: ﴿ لِنَّوْآَ ، لِيَتَّى لِيُوْآَ ، إِينَ لِنُوْآَ يَنَّ ، لِيَسْتَيَنَّ لِيُوَا يَنَّ، إِينُ لِتُوْآَ يَنْ ، لِيَسْتِيَنْ لِيُوَا يَنْ دَالتَّفْسِعَنهُ ؛ لا تَى لاَتُوْءَ لا يَهُ لا يُوْءَ ، لَا تَع لَا تُوْآَيَنَّ ، لَا يَسْتِينَّ لَا يُوُآ يَنَّ ، لَا تَرْمِينُ لَا تُوْآَيَنُ ، لَا يَسْيَنُ لَا يُوْآَ يَنُ الظّمٰ فَ مِنْهُ : مَوْ أَسى مَوْتِيْيَانِ مَوَاً عِ قَرْمُوَى وَالْالَةُ مِنْهُ: مِيْتَأَكْ مِيْتَهِانِ مَوَاءٍ تَرْمُوَى و- بِينَا فَيْرَمِينَا مَانِ مَوَاءٍ قَمُو بَيْنِيةً مِينَا تَرْبَعِينَا وَا مَوَاً بِينَ وَمُوَ يَصْبَى حَالَهُ فَالشَّفْضِيُّلِ الْمُدُكَّرُ مِنْهُ : اوْمَ مَادَأَ يَانِ أَوْ أَدْنَ ادَآ بِهُ ذَا بَعَقْ خَلْهُ عَلَى الْمُعَدَّنَ مِنْهُ : وَوَلَي مَوْلاً بِينَ مَوْلاً بِينَ مَوْلاً بِينَ دُوْبَيَانٍ وُوْ يَبَاتُ وُوْ كَارُ دُوَ صرت صغيرازباب مذكور بالتخفيف تجازا وَأَنْ يَبْنِي وَإِيَّا وَلَهُوَوَالْمِ - وَلَاتَي يَوْحُبٍ وَايًّا ، فَذَاكَ مَوِيٌّ ، مَا دَبُّ مَ مَّا إِيَّ ، لَمُرْيَعً لَوَ يُوَ، لَا يَبِى لَأُبِطْ بَنْ يَبِي أَنْ يَبْ ، لَيَسِينَ لَيُوَيَنَ ، لَيَسِينَ لَيُوَيَنَ الْأَمْرَمِينَهِ ؛ لِإِ ل لِيَعِينُ لِيُوَيَنْ دَاللَّهُ مَعْدُ، لَا تَتَى لاتُق الاي المَن المَن المُتَعَينُ لا تُوَيَنَ لا يُع يَن الم له قلب بمزه بدوآة بم جائزاست كما مرنى حكلا المامند لله برسبي مبتدايترواد از مزو، فاعدة سيدر جارى ندشد المنه لله قلب ممزه بدهاد بْحُكْرَاست كمامرْ في صلك ١٢مندك أَذَا ذُنَ اصل مِن أَوْ أَيُون تَعَابُقا عَدَهُ قَالَ أُورُ بِالْتَعَا رَسَاكَتِينَ أَوْ أَوْن بَوْكِيا - ١٢مندهُ وَتَعْلِينُهُ الكلل إيحاليًا إيخاليًا إيتَتْ إيتَنا إيْنَ إيْتَ إيْسَمَا إيشَعَرَا بْتِ إِيْتَعَمَا إِنْ يَتَى إِيْتُ عَلَيْن

ٱلْظَنْ فِي مِنْهُ: مَوَى مَوَسَانٍ مُوَاءٍ وَمُوَتِي وَالْأَلَةُ مِنْهُ: مِينًا مِينَانٍ مَوَاعٍ وَ مُوَيِّيتُ مِينَاءٌ مِيَادَانٍ مَوَادِي وَمُوَيِّتِي وَأَفْعَلُ التَيْفَضِيْلِ الْمُذَكَرُ مِنْهُ: أدى أدَيَانِ أدون أوارد وَ ٱدَيِّيَ وَالْمُوَنِّثُ مِنْهُ ، أَذْ كَا دُيْبَيَانِ أَوْبِيَاتٌ أَوْكَيْ لَكُ أُوْلَى مِ فأتصد لا ١٠ إحت ٢٠ من مجبول أخس من وتيت تما - بقاعدة أعد ، أتيت برا ، بعربقا عدة أيست أُيف بُوا، بحركة عدة بين إفت بوا يجر بقاعده فربّ إتى بوكيا-صرف صغيرفتل ثلاق بحرد مثال واومي فبهمو اللام ازمايت ومفجل يفعل يتحون ألمه تناء وكرى كالبغيرو فسير وروكرنا علامتذابس باب كي يتب كراسي ماصى من عن كلم يحسو اورّصار عام عوت توايج قَرْبَى يَوْنَا أَوْ مَالَاً، فَهُو وَتَبْقى مرْ - وَوُشِينى يُوْنَا كُوْنَا مَرْ الْ مَوْتُقَرّ - مَا وَنِعْ مَا وَتَعْتَى المُوبَةِ شَا لَحَرِيدٍ ثَاثُ الآيَوْ ثَاثُ لايُوْ ثُاثُ لَنْ يَوْ ثَأَكُنْ يَوْ ثَأَ مَنْ يَوْ ثَأَنَّ لَيوُ ثَأَنَّ اليو لِتُوَثَّلُ لِيَوَثَلُ لِيُوَثَلُ وإِيْثَاثَ لِيتُوَثَلُنَّ وَلِيَوْثَلُنَّ لِيُوَثَّلُ لَيُوثَلُنُ لِيتوثَلُن ليتوثَلُن إِنائَ عَسَبُهُ : لَا تَوْتُقُ أَنَهُ لَا يُوْتَا كُمُ يُؤْتَا . لا يَوْتَا أَ. لا يَوْتَا أَنَ لا يُوْتَانَ أَلا يوثانَ لا يوثانَ الايوتان الايوتان الا يَوْتَأْنُ لَا مُوْتَأَنْ ٱلظَّرُفُ مِنْدُ، مَوْتِي مَوْتِفَانِ مَوَارَى وَمُوَيْتِي وَمُوَيْتِي وَالْالَةُ مِنه: مِيتَأَ مِيشَا مَ مَوَا تَعْتُ وموتشري مينا محديثا مان موافرى وموتيلي فرمو يلي ويشام ويشادان موافي وموييني مرد المعلم التغييل الْمُذَكَّرُمِنْهُ : أَوْثُلُ أَوْثُلُ أَوْثُلُونَ أَوَانِي وَأَدَ يَتَّبِي وَالْمُوَنَّتُ وَالْمُوَنَتُ مِنْهُ : وُتْتَى دُنْتَيَانِ وُنْأَيَّامَتُ وَ ثُلَّ وَ و تُلَيْم -بصغيرا زباب مذكور بالتخفيف ججازًا وَتَنِي يَوْ ثُلُ وَتُمَاحٌ ، فَهُوَ وَتُبَيُّ حَدا فِي يَوْ تُلَهُ وَنَاءً ، فَذَاتَ مَوْتُوسٌ مَا وَتَبِي مَا أَثِي ، لَهُ يَوْ ثَا لَوْ يُوْتًا، لَا يَوْ ثَاثُ لَا يُوْثَلُهُ، بَنْ يَوْثَلُ كَنْ يُوْثَلُهُ، لَيَوْثَلُ نَ يُوْثَلُ نَ يُوْثَلُنْ الْأَمُومِنْهُ ؛ إِيْنَا لِتُوْتَلَ بِيَوْ لِيُوَنَّا المُتَأَثَّ لِتُوْنَأَ ثَالِيَوْنَأَتَ لِيُوْنَا ثَ إِينَانَ المُتَوْنَا أَنْ المُوَنَّانَ المُوَنَ لَا يَوْ ثَا لَا يُوْ ثَا ، لَا تَوْ ثَأَ ثَا لَا تُوْ ثَأَتَ ، لَا يَوْ ثَأَ ثَ لَا يُوْ ثَأَ ثَنَ الأَبُو ثَابَ الله عَدْ الله عَد مَوَا تِبْحُ وَمُوَ يُتْبِي حَالَا لَهُ مِنْهُ ، مِيْتَ مَوْيَتَ أَنِ مَوَا تَبِي حَمَوَ يُتْبِي - مِيْتَا كَمْ مِيْتَا أَنَا بِ مَوَاتِنَى وَمُوَ يَثِي لَهُ سلى قلب تمزه به داويجا مُزاست كما مَرٍّ في صلك ١٢ من م الما اصل من أ وَأَوْن تما الح ١٢ منه - ت بسبب مُبْدليت وآقد از بمزه قاعدة سَبِيدة جارى رشد ٢٢ مذ - كمان من قاعدة أدادٍم مجر بعلم كما ٢٢ من م صحوالجُمُوعُ المُكسَّرةُ:وَثَأَةٌ،وُثَآءٌ،وُثَأَّ،وَثَلُّ،وَثُلًا،وُثُوَّ،وُثُمَاتَ، وِثُمَانَّ، وِثَآءٌ، وَثُوَءٌ، آوُثَآءٌ، ٢ ، مِنه

180 مِيْنَامَ مِيْنَاءَ إِن مَوَا ثِنِي وَمُوَ يَثِينَ أَوَا نُعِلُ التَّفَضِيلِ الْمَدَذَكَرُمِنْهُ : أَ وَثَالَن أَوْ ثَالُونَ أَ وَاتِنِى وَأُوَيَّنِي وَالْمُوَنَتُ مِنْهُ وَالْمُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا اللَّهُ الْأَوَّ الْتَقْتُ -مرف صغير ض ثلاثي مجرّد مثال داوي ومهمو اللّام ازباب جبارم فعل يفعل يرجب لونبين سرين اروي المريني المريني ب باب کی دُر میں اولے یہ کہ وَبُأْ يُبَأُ وَبُنَّ أُبُرُ وَبَيْنِي حَدَدُ بِنَى يُؤْمَا كُوباً ، فَذَاكَ مَوْبُوَ اللَّهُ مَا وَبِينَ المُعَينَ المُعَدِّينَةُ المُعْدَةِ أَمْ الدَّيَبَةُ لَامِوْمَةُ مُ لَنْ يَتَبَا لَنْ يَتَوْمَةُ مَ لِيَبَةً نَا لَمُوْمَةً ثَمَّ لَيَبَةً ثَالَةُ مُوْمَةً مُ أَلْدَمُو مِنْهُ ، مَهُ إِنَّهُ وَبَهُ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مُوَمَةً مُ اللَّهُ مَا أَنْ يَعُوْمَةً مُ أَنَّ اللَّهُ مُوْمَةً مُ اللَّهُ مُو مَا أَن ا لِتُوْبَأَنَّ ، لِبَبَآنَ لِيُوْبَأَنَّ ، بِأَنْ لِتُوْبَآنَ ، لِبَبَآنُ لِيُوْبَأَنْ وَالنَّفِي حَنَّهُ ؛ لَا تُبَأْ لَا تُوْبَأَ، لَا يَبَ لَا يُوْبَأَ، لَاتَبَكَنَ لَاتُوْبَةَنَ أَذَهِ بِبَةًنَّ لَا يُقْبَلَنَّ ، لَا تَبَةً نُ لَاتُحْبَةُ نُ مِدْ بِحُ مَوْ بِعُ مُ مَوَا بِنَّى وَمُوَ يْبِبِى ۖ وَالْأَلَةُ مِنْهُ ، مِيْبَأَ مِيْبَأَ نِ مَوَا بِنَى وَمُوَ يُبِتَى – مِيْبَأَ لَا مِيْبَةً ثَانِ مَوَا بِنَى وَمُوَ يُبِيّعَهُ حِيْبَا حَرَّ مِبْبَاحَانِ مَوَابِلَيْ تَحْمَوُ يُبَنِي حُرَانَعَلُ القَنْسِيْلِ الْمُذَكِّرُ مِنْهُ : أَوْ بَأْنِ أَوْ بَأْذِ أَوْ الْحَى طَأْوَيْعِ وَالْمُوْنَتُ مِنْهُ: دَبْتَىٰ وُبْنَيْهَا لِي وُبْشَيَاتَ وَبَهُ وَجُهُ لَعَ وَبَلْحَى -مرف صغير إزباب مذكور بالتخفيف بتوازا-وَبَأَيَبَ أَوَبَّهِ فَهُوَ وَبِتَّى حِرًا بِي يُوْبَهُ وَبَّا فَذَاكَ مَوْبُوكُ مَا وَبَأَمَّا أَنِي ، لَوْ يَبَا لَوْيُوْبَا ، لَا يَبَ لَا يُوْبَعُ لَنْ يَبَا لَنْ يُوْبَا، لَبَانَ لَيُوْبَانَ المُدَانَ لَيُوْبَانَ لَدُوْبَانَ الْأَمُومِنِهُ، مَا لِتُوْبا المَدار المَوْبا بَأَنَ لِتُوْبَا حَد ِلِبَبَأَنَّ لِيُوْبَأَنَّ · بَأَنْ لِتُوْبَأَنَ ، لِيَبَبَأَنْ لِيُوْبَأَنْ وَالنَّ**وْمِعَنَهُ،** لَاتَبَا لَاتُحْكَا، لَا يَبَا لَا يُحْوَبَا، لَا تَبَا أَنْ لَاتُوْبَأَنَّ، لَا يَبَثَّنَ لَايُؤْبَأَنَّ، لَاتَبَتَنَ لَاتُوْبَتَنَ الأَيِّبَتَنَ لَا يُعْذِبُكُنُ الظُّنُ في مِنْهُ ، هَوُ مِنْ هُوْ بِيَابِ مَوَا بِني وَمُوَ يُبِي وَالْالَةُ مِنْهُ : مِيْبَا مُعْبَاتُن مَوَابِي وَمُوَ يَدِي - مِيْبَاً فَ مِنْبَا تَانِ مَوَابِي وَمُوَيْبِيَهُ مِهْبَاً * بِيْبَاً * أَنِ مَوَا بِيٌّ وَمُوَ يَبِينٌ وَٱنْعَلُ النَّفْضِيْلِ الْمُدَكُرُ مِنهُ ؛ آدْ بَأْ أَدْ بَأْنِ آ وَ بَأْ فَنْ أَوَا جَحُ وَاحْدَبِينَ وَالْمُوْرَبَ مِنْهُ وَأَنِي أَبْيَانِ أَبْيَاتُ إِبَاحًا مَهُ أَبْنَا حرف مغير فعل تلاق مُحَرَّد مثال أوى ومهز الله ازباب تتجم فعل يَقُول جَون الوصاء في فظيف سَ باب کی ہی ہے کہ ایک ماضی در مضالت میں عین کلم مضموم ہوتا ہے رسين بروما يعلامترابس وَصُبَحَ يَوْصُلُ وَحَنَّاءَ لَا الْهُوَ وَحِنَّى مُرْ حَدَدُ عَنِيَ يُوْحَنَّا وَحُضّاً وَحُضّاً وَأُ لَدْ يَوْضَلُهُ لَا يَوْضُوُ لَا يُحْضَلُ اللهُ يَوْضُو كَنْ يُؤْضَلْ لَيَوْضُونَ لَيوْضَلَ لَا مَدْ يوفُون ليو لِتُوضَلْ البَرْضُةِ لِيُوضَلْ الدُصْوَنَ لِتُوَجَعَ نَا البَوْصُوَنَ لِيُوْضَلْنَ الْدُصْوَنُ لِتُوضا فَ البِيوُ <u>َوَالنَّهُمْ عِنْهُ ؛ لَا تَوْضُوُ لَا تُوْضُلُ ، لَا يَوْضُوُ لَا يُحْضَلُ الاَتَنْ ضُوَّنَ لَا يُوْضَلَنَ ، لا يَوْضُوُنَ لَا يُوْمَنَ أَنَّ</u> لله والجُعُوعُ المُكَسَرةُ وَبَأَةً اللَّحَ كَذَارُ صَأَةً اللَّحَ مثل قَوَأَةً ... الْحَ ٢ مے قلب تیمزہ برواؤ اہم جانزا

لاَ تَوْضُوْنُ لَا تُوْضَأَنْ ، لاَ يَوْضُوْنُ لَا يُوْضَأَنْ الْظَرِنُ مِنْهُ ، مَوْضِي مَوْ خِتَّانِ مَوَاضِي كَ مُوَ يَضِي كَ الْإِلَهُ	
المينة؛ مِيَضا مِيضاً فِ مَوَاضِحًا وَمُوَيضِعٌ مَعِيضاً؟ مِيضاً؟ مِيضاً تأن مَوَاضِحُ ومُو يُضِعُهُ م ميضاً ومضاغات	
ال مَوَاضِيْ مُحَوَمُوَ يُضِيْحُ ذَائَعَلَ التَفْضِيْلِ الْمُذَكَّرُمِينَةَ ، أَوْضَأْ أَوْضَانِ أَذِضَا قُوْنَ أَ ذَاصَتْ مَ أُوَنَصَتْ ذَ	
المُوَتَنْ مِسْهُ : وُضَاًى وَضَاً يَأْنِ وَصَلَّ يَاتُ وَصَلَّ أَوَ وَصَلَّ وَ وَصَلَّ الْمُوتَنَتُ م	
صرف صغيرازياب مدكور بالتغنيف جوازا	
وَصُو يَوْضُو وَضَاءَةٌ ، فَهُو دَمِنِي - وَأَحِنِي يُوْضَاً وَضَاءَةٌ ، فَذَالَتَ مَوْضُوّ - مَا دَصُوماً أَحِنى ، لَعُرَبَوْضُوْ	
المُ يُؤْمَنُهُ الدَيْوَ صُوْ لَا يُوْصَلْ أَنْ يَوْصُو لَنْ يَوْصُو أَنْ يَوْصُونَ لَيُوْصُونَ لَيُوصُونَ لَيو	
أَقْصَنُوْ لِتَقَدْضُهِ لِيُوْصُوْ لِيقُوْضَاء أَفُرْضُوَنَّ لِتَوْضَأَنَّ ، لِيوْضُونَ لِيوْضُونَ أَوْضُونَ لِتَوْضَانَ المُوصَدَدِي	
الْيَوْضُكُنْ وَالْنَصْحُصْعُنَكُ ؛ لَا تَوْصُوُ لَا تَوْصُولَا يَوْصُو لَا يُوْصُو لَا يُوْصُونَ لا مُوصَانَ ، لا سَوْصُونَ لا يُوصُونَ لا يُوصُلُنَّ	
التوضونُ لا تَقْضَانُ ، لا يَغْضُونَ لَا يُوضُكُنُ الْظُمَانُ مِنْهُ؛ مَوْضِي مُوضيكُ مُوصيلُ مَوَاضٍ ومُويضي والدارمة،	
مِيصًا مِيصًانِ مُوَاصِيًا وَمُوَيضِي بِمِيصًاةٌ مِيصًا مَانِ مُوَاضِي وَمُويضِيهُ مِفْضًا مُ مُصَاءان مواض م	
ومُوَيْضِيٌ وَانْعَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُذَكَرُمِنِهُ: أَدْضَا ٱوْضَانُ أَوْضَا مُنَ أَوْاضِي حَامَة يَضَى وَالْمُوَنَتُ مِنْهُ :	
トレート ション・ション しんしょう しんしょ しんしょ	
صرف صغيرُ علاقٌ تُحرِّدا جوف أدى فهم اللَّام إزماب أوَّل فَعَلَ يَفْعِلْ مِدْمَانَ أَلْبُهُ عَرْدَا و	ļ
علامتراسس باب کی ہوہے کہ اسکی جانی مانی میں علن کا مقتور اور مضامات میں جانو کر جانا ہے۔ آماد یک میں ایک کہ دیکھ میں مانی مانی میں علن کا مقتور اور مضامات میں صفوق ہوتا ہے۔	
ومرجع الموقع بملكو بالإصليق فيستعد يباغ لبوغر، هذات مبتوع - ما يَاع ما يبي مر، لمُرتسة لمد كماً، لا كمة ولأنسا في	
لَّنْ يَبْعُوُهُ لَنْ يَبْعُوْمُ مَنَ لَيُبْعَدُوْمَ نَ لَيُبْعَدُوْ مَنْ لَيُبَاءَنَ الْأَمُو مِنْهُ وَ بَقُوْ مريب بتي رويس بتي رويس بي من	
مُعَمَّدُ المُعَمَّدُينَ المُبْبَاءَينَ، بُوْمَدُنُ لِبُهَاءَنَ ، لِيَسْبُوْءَنْ لِيُبَامَةِ نُ وَالنَّفْ صَنْدُ لَأَسْبُوُ لَدَيْبَاتُهُ لَا يَسِبُوْ	ì
لايتبا / لا تبوُّ مَنْ لا تباءَنْ ، لا يَبُوْمَنْ لاَ يُبَاءَنْ، لَا تَبُوَّدُنِ لَا تَبَابُرَةٍ ، لَا يبوّر في لا تباءن الظرومية،	' !
مُبَاعٌ مُبَاءًا فِي مُبَادِي حَمْبَيْنٌ وَالإِلَّهُ مِنْهُ وَمِبْوَلٌ مِبْوَءَانِ مَبَادِي وَمُبَاءَ مُ ومتأكّ منذا كان مراجع ا	•
يُعْبِيكُونُهُ - مِبْوَا عَرْ مِبْوَاءًانْ مَبَا وَيُ مُوَصَيْدُونُ مُوَ وَأَنْعَلُ التَّفْضِا إِلَى كُرُم فِي م بِهِ إِنَّ مَبَادِينَ إِنَّ إِنَّ الْمُعْتَقَا الْمُعْتَقَا الْمُنْ	9
بَادِيُ حَالَة بَيْدِي حَدَد أَلْمُؤَنَثُ مِنْهُ مَوْلَى بُوَرِيمَانِ بُوَرِيَاتٌ مُوَاتُ وَبُوَنِينَا	f
صرف صغرازياب مذكور بالتخفذه فوالتعليا بجرابي	
لَمَة يُبُوْمُ بَقُلُ مُعَدَّكَما مِدَعَثَ مُتَامِ مُواً ، فَذَاكَ مُعَمَّ مَانَاتَهُ مَا يَوْمِي أَه رَبِعَهُ ومِن بُرَبِعْ وا	ł
يُبَاع ، لَنْ يَبَوْءَ لَنْ يُبَاءً ، لِيَبُونَ لَيُبَاءَنَ ، لَيَبُونَ لَيُبَاءَنُ الْامُرُمِنَة ، مُوَ لِنَبا، لِيبُو يَنْ	ý
	_

لِنُبَاءَنَّ الِيبُوَنَّ لِمُبَاءَنَّ بَوَنْ لِتُبَاءَنْ البَبُونُ لِمُبَاءَنُ وَاللَّحْ عَنَّهُ : لَا تَبُو لَا يُبَاء لَا تَبُونَ لَا تُبَادَنَ ، لَا يَبُونَ لَا يُبَآءَتَ ، لَا تَبُونَ لَا تُبَاءَنُ ، لا يَبُونَ لا يُبَاءَنُ الظَّرف مِنْهُ : مَبَاءً مَبَاءً ا مَبَادِي وَمُبَيِّعٌ وَالدَّلَةُ مِبْدَةٌ مِبْوَلٍ مَبَادِي وَمُبَيِّي مِبْوَدَةٌ وَبُوَدَتَانِ مَبَاءِي وَمُبَيِيةً مِبْوَاءً مِبْوَاءً نِبُودَ وَمُبَيِّينَ وَاقْل لتَعْشِينُ اللَّذُكْرُمِنِهُ: ٱبْوَ ٱبْوَءَانِ ٱبْوَدَى آبَادِينَ وَأَبْتِنِي وَالْمُوَنَتْ مِنْهُ، بُوي بُوَيات بُوَرات بُوء وَ تَوْبَق في م ف صغير فعل ثلاثة محرّد اجرف ادى ديهمو اللّام إزماب موم فعل يقتحل سيّحوں ألدَّ وَعُرْبِهما مِوْ س باب کی بیا سب کراسی ماضی میں عبن کا میکسور ا ور مصارع میں مفست وج ہو السب دَاءَ يَذَاءُ دَوْدٌ ، فَهُوَدَار - وَدِي وَ يُذَاءَ دَوْد ، فَذَاكَ مَدُوْدٌ - مَا دَاءَ مَا وَى ، لَغ يَدَ أَ لَعُر يُدَ أَ لَا يَدَاءُ لَا يُذَاء ، لَنْ يَدَدَاءَ لَنْ يُدَاءَ ، لَيَدَاءَنَّ لَيُدَاءَنَّ لَيُدَاءَنَّ لَيُدَاءَنُ لَيُد المِدَةُ، دَاءَنَّ لِتُذَاءَنَّ بِيدَاءَنَّ لِيدَاءَنَّ ، دَاءَنْ لِتُدَاءَنُ ، لِيَدَاءَنُ لِيُدَاءَنُ والتَّهُ عَنَهُ؛ لَاحْدَا لَدَ تُدَا مَا لَا يَدَأُ لَا يُدَا أَ ، لَا تَذَاءَتَ لَا تُدَاءَتَ ، لَا يَدَاءَنَ لَا يُدَاءَنَ لَا تَدَاءَنُ لَا تُدَاءَنُ لَا يُدَاءَنَ لَا مِيْدَاءَنْ أَنْظُرُ ثُونَهُ : مَذَائَحَ مَدَاءً إِنْ مَدَادِئُ وَمُدَيِّفٌ وَالْالَةُ مِنْهُ : مِدْدَعَ مذفتانِ مَلَادِئ وُمُدَيْعِينٌ مِدْدَءَةٌ مِدْدَاً مَانٍ مَدَادِي وَمُدَيْوِتَةٌ - مِدْوَاً * مِدْدَاً عَانِ مَدَادِي مُؤمَدُيْقِي خُ وَٱنْعَلَّ التَّفْضِيْلِ الْهُذَكُّ مِنْهُ ، أَدْوَا أَ أَدْوَعَانِ اذْوَا أَذْوَا أَوْنَ آَدَادِي كُ وَأُدَيْدِي وَالْهُوَنَتَ مُسَنَّهُ، دولى دُوْمَ يَانٍ دُوْمَ يَاتَ دُومَ أَيَاتَ دُوراً وَدُونِيتِي -مرف صغيراز باب ندكور بالتخفيف التعليل تحاذأ دَاءَ يَدَاءُ دَوًا فَهُوَ دَاءٍ وَ وَيْءَ يُدَاءُ دَوَّا فَذَاكَ مَدُوَّ مَا دَاءُ مَا فِي مَ، لَعُ يَذَا لُعُ لَذَا الأَلَاعُ لَائِيدًا مِ ، لَنْ تَبَدَاءَ لَنْ يُجْدَاءَ ، لَيدُدَاءَنَّ لَيُسْتَدَاءَنَّ ، لَيدَدَاءَنْ لَيُنُدَاءَنْ الْأمومينَهُ: مَا لِسُدَدَ ا، لِيَدَا لِيُدَا ، دَاءَنَّ لِتُدَاءَنَ ، لِيَدَاءَنَ لِيمَاءَنَ مَا يَنَ الْمُدَاءَنُ لِتُدَاءَنُ الْيُدَا ، لِيدَاءَنُ لَيُدَاءَنُ وَالنَّبْيُ عَنْهُ ; لَا تَعَا لَا تُدَا لَا يَدَا لَا يُدًا، لَا تَذَاءَكُ لَا تُذَاءَنَّ ، لَا يَدَاءَنَّ لَا يُدَاءَنَّ ، لَا تَذَاءَنُ لَا يَذَاءَنُ لَا يُدَاءَنُ النَّظَرْفُ مِنْهُ : حَدَاً عَزَحَدَا عَانٍ حَدَا وِيَّ وَمُدَيِّتُ وَالْالَةُ مِنْهُ ، مِسَدُوعُ مِدْوَءَانِ مَدَاوِي وَمُدَبِّتِي مِدْوَا تَا مُبْدُوا تَانٍ مَدَادِي وَمُدَبِّيَّيةً مِدْوَا مَرْ مِدْ عَدَادِيٌّ وَمُدَيِّينٌ وَانْعَلْ التَّفْضِيْلِ الْعُدَكَرُ مِنْهُ: ادْوَا كَدْوَعَانِ أَدْوَ أَوْنَ أَدَادِي وَا دَيت وَالْمُوَنَفَ مِنْهُ: دُدْى دُوَيَانِ دُوَيَاتٌ دُوَاتٌ دُوَاتُ وَيَ والْجُمُوعُ المُكَسَّرةُ: دَاءَةٌ، الخ مثل قَالَةٌ الخ ۲ آ منه

لْ لَاتِي جُرَدابونِ ماتى ومبرز اللام ارباب معل يَفْعِلُ يُحُولُ لَهُ يَدْهُمُ مِ ل ماب کی ہیے کہ اسکی ماضی میں عین کلم مقتوح ا در مضاع میں تحد دیوار جَاءَ يَجِيعُ مَجِينًا نَفُوْجَاءٍ - وَجِنْ مَ يُجَاءُ مُجَيَّكًا ، فَذَاكَ عَجِنْي مُرَّ مَاجَاءَ مَا جِني لا ، لَهُ يَجِني لَمُ يُجَا لَا يَجِي وَلا يُجَاء م الَّنْ يَجِبَى مَ لَنْ يَجَاء ، لَيَجَيْدَنَنَّ لَيُبَجَاء تَ ، لَيَجِيشُ لَيها أَنْ الأمومين ، جي لِتُجَاء لِيَجِيُ لِيُجَاءُ جَيْبَتَنَّ لِتُجَاءَتَ لِيَجَدِّينَنَّ لِيُجَاءَتَ جَيَّتَنُ لِبُجَاءَنُ ، لِيَجَيْنُ لِيُجَاءَنُ وَالتَّعُرُ حِسَبُ كَدْ تَجِيُّ لَا تُجَأْء لَا يَجِيُّ لَا يُجَاُّ لَا تَجَيُّ ثَنَّ لَا تُجَاَّدُنَّ ، لَا يَجِينُهُنُّ لَا يُبَازُنَّ ، لَا تَجِيبُ ثَنْ لَا تُجَاءَنُ لَا يَجْذِبْكُنُ لَا يُجَاءَنُ ، ٱنظَرْفُ مِنْهُ ، مَجِيَى مُجَيْعًانٍ مَجَايِي وَمُجَبِّقٌ وَالْإِلَةُ مِنْهُ ، مِجْيَس مِجْيُطْانِ مَبْعا يِنْ وَمُجَدِّئٌ - مِجْدَاً * مُجْدَياً تَانِ مَجَا بِئُ وَ مُبَجِّرِ مَدْ اللهُ ع جيَاً ان مَجَايَنُ حَمَجَتَهَى حَوَا نَعْلُ التَّفْنِينِيلِ الْمُدُكَرُ مِنْكُ ؛ أَجْيَا كَاجْيَا أَجْيَا أَجْيَا خُذَا لَعُذَنَتُ مِنْهُ : مُحْدَّا مَا مُحَدَّةَ بَاتَ جَيَتًا ذَّ جَيَتُ حَيَّةً مَ مَنْ مَدَرَد مَا تَحَقَيْفَ مَحْدَاً وَالْدُرُعَامُ وَتَحْرُبُ جَاحَ يَجِعَى مُبَدِينًا فَهُوَ حَارُكُمْ وَجَبَّى وَيُجَاحُ مَجْيِنًا فَذَاتَ مَجِتَى مَاجَاً وَ مَاجِنَى وَ، لَهُ يَجِي لَهُ يُجَاء لَا يَجِني عُرَلًا يُبْجَاءُ ، لَنْ تَجَبّى مَدَلَنْ يَجاءَ ، لَيَجَيْبُ لَيُجَاءَنَ ، لَيُجَاءَنَ أَلُامُومِهُ ، جِي لِتُجاً اللَهِ لَيَجاً المُحَادَةُ التَجَاءَةُ المَدَي المَجَاءَةُ لَيُجَاءَةً مَ يَن لِتُجَاءَةُ المَحَاةُ وَالنَّفَى عَنَّهُ : لَا تَجِي لَا تَجاً ، لَا يُجَى لَا يُجَاء لَا تَجايَنَ لَا تَجاءَنَ ، لَا يَجنينُ لا يُجَاءَتَ ولا تَجَعينُ لا يُجَاءَنُ لَدِيجِينُ لَدَيْجَاءَنْ ٱلظُّرُفُ مِنْهُ : مَسِج مَجِيمَانِ مِبَجَابِهِ فَ مَجَيِّي حَالَالَة مِنْهُ : مِجْياً مُعْبَان مَجَا يَبِي وَ مَجَيِّي مُ مِجْياً * مُجْمَياً تَأْنِ مَجَابِتُ وَمُجَيِّيهُ * مِجْمَا وَ مُجَيَّا مَ ٱفَعَلَ التَّفْضِيلِ المُدَكَرُمِنِهُ: ٱجْمَيَا ٱجْمَيَا أَجْيَا أَجْمَا مِنْ وَمُجَيِّي وَمُجَيِّي كَ مَحْوَيَاتٌ مُحَيَّاً وَتَجْبَيَتْ . مرن ڪير سحت إثبات فعل اصفى معروف ، جماعة بماع المود ابحاً فرد ابكاً عن جماع من جدت جدة ما يعشمر جنت جنتما بندي جدي جديما **بحث إثبات فعل ماصى مجهول ، جِنَى** جَنَبَ إِجَنَا مُحَافًا جِينَة مُوَاجِعَة م جِينَتْ الحِنْ حِنْتَ حِنْبَهَا حِنْتُمْ حِنْتِ حِنْهُما حِنْتُ تَحِنْتُ حِنْتَ جِنْتَ جِنْتَ مِحْنَا ، محت نفى فعل ما صَى معروف : مَاجَاً مَاجَاً مَاجَاً الله مجعث فعل ماصى مجهول ، مَا جَيَنَهُ مَاجِيَتُ الله مجمع إثبات فعل مُضارع مون ؽڿؚؿؚؿؙؽؽڿؚؽؽڵڮٳؽڿؿؗؽۯڹ تؘڿؚؽؗؽ تَجِيْنُ تَجِيْنُمَانِ يَجِعُنُ تَجِيْنُ تَجِينُ مَعِينَانِ تَجِينُون تَبِجِينُ مرحم في مراود بناير اول ، اد غام ندشد المن والجنوع المكترة جاءة

أجبنى أجديثي محت إثبات فعل مضائر مجهول ، يُجَاء مُجَابَون مُجَارَ وَنَجَاء مُوَنَ مُجَاء وَ مُجَاء إِذَ كُمَ فَ بُجَاء تجاءً إن نُجاءً في نُبِعادٍ في نُبَعادٍ إن تُجَنَّ أَجَاء نُبَعَاء بحت في فعل مُضاكٍ معروف الأيبي يحد لا يَجِدِّ كَانِ الله بحث تعنى قعل مُصارً جمهول؛ لا يُجَاءلا يُجَاءً إن الله بحث تفى تاكيد تبكن در فعل مُسْتقبر ى**حروف؛** لَنُ يَجْيَنِي لَنُ يَجِينُكُا لَنُ يَجْيِنُهُوُا لَنْ تَجْيَنِي كَنْ تَجِينَتَا لَنْ يَجِينُ لَنْ تَجْيَنُكُ لَنْ تَجْيَنُوا لَمُ تَجِعَيْنِيُ لَنُ نَجِبَنَالَ ثَيَعِنُ لَنُ أَجِيَى لَنُ نَجِيَنَى لَنُ نَجِينَى كَمُصِتْفَى كَلِيدِ *مَبْلُنُ وَثِعَلْ مُسْتَقْبِلُ مُجْبُول ا* لَن يُتَعَالَمُ لَم يُجَابَ إِنَّ يُجَاءِ وَالِّن تُجَاءَلُنُ شَجَاءَ إِنَّ يُجَتَى لَنْ يُجَاءَلُنُ تُبَاءَ إِنَّ تُجَاءُ والَّنُ تُتَجَاءَى لَنْ تُجَاءَ إِنَّ تَبْجَلْنَ لَنُ أَبْمَاً مَنَ نُجَبًا بح**ت نعى تجدر بمُ درض مستقبل مروف ،** لَعَرَبَجَتْ لَعَرَبَجَتْ المريجَة بُعَيْضِي كُمْرَجِينًا لَعَبَدِينَ كُمُنْجَينًا لَعَرَجَينًا لَعَرَجَينُوا الْمُرْجَينُ لَعُرَجَتُ لَعُرَاجَتْ لَعُرَجَتْ بحت لفي تجذر كمرد وتعل **شقبل مجهول ا**لَدْ يُجَاّ لَمْ يُبْجَاءَ الْمُدْيَبْجَا مُوْالَدُرْبَجَا لَمُدْ تَجَاءَ لَدُيْجَةً فَي كَمُرْتَجَا لَمُدْ يَجَاءً الْدُنْجَةِ الْمُرْتَجَا كَدْ يُجَازِى لَدُنْبَاءًا لَدُنُجَنْ لَدُابَةً لَدُنْبَةً بحف لام ما كم رافون ما كي رافون ما كي رافون د لَيهجَيْتَ لَيجَيْتَانَ لَيجِينَكُنَ لَتَجَيَّتَنَ لَتَجَيَّتُنَ لَتَجَيَّتُنَانَ لَيَجِنْنَانَ لَتَجَيِّتُنَ لَتَجَيْتُ لَتَجَيْتُ لَتَجَيْتُ لَنَجَيْنَاتِ لَنَجَتْنَاتِ لَدَجِينَ لَنَجِينَ لَنَجِينَ بَعَتْ لَام مَا كَير ما فَلَانَ مَا يُعَد الفي الفي ال لِيُحَامَانِ لِيُجَاءُ ثَ لَتُجَاءً ثَ لَبْجَاءً إِنْ لَيُجَدِّنَانَ لَتَجَاءَ نَ لَتُجَاءً فِ لَتُجَاءً فَ لَتُجَاءً ا لأُسَادَى لَنْهُ المَاعَة ي بحت لام ما كبد بالون ما كبر خفيف وفعل شيت فبل معروف ، ليَجِيدَ أَنْ لِيَجَدُ لَتَجِينُ لَنَجِيَةَ لَتَجِيَةُ لَتَجَيَنُ لَدَجِينُ لَا حِينُ لَكَبِينَ اللَّهِ لَهُ الْحِدْمَ الْحِدْمَ الْحِدْمَ الْحِدْمَ الْحِدْمَ الْحَدْمَ الْحَدْمُ الْحَد كَيْجَاءِنْ لَتُجَاءِنْ لَتُجَاءَنْ لَتُجَاءِنْ لَتُجَاءِنْ لَتُجَاءَنْ لَنُجَاءَنْ لَنُجَاءَنْ كَبُح**ت إمرحا ضرمعروف: حِتْى جِيْبَ** جَيْتُوا حِيَثِنى جَيمُنَا حِنْ مجت امرحا هرمجهول؛ لِتُجاً لِتُجاً التُجاء (التُجَاءَ) في لِتُجَاءً المتُجنُ بحت غائب معروف، ليتجعّ ليتجيننا ليرجين أوالتجن كالتجين البَعِثْنَ لاَمِنْ لِنَبِيّ بمحت امرُعاس مجمول، لي ليُسَبَّاءًا لِبُبَمَامِوْا لِنَجَاءً لِيَجَنُ لِلْحَارُ لِنَجَاءً لَمُعَنَّ الْمُحَتَ المرحاض معروف بالوُن ما في لأُقبِلِيه، جعيدي جَيْنَات جِيْنُ جِيْنَ جَيْنَا وَجَيْنَا وَجَيْنَا وَ جَعْنَا وَ جَعْنَا وَ جَعْنَا وَ جَعْدَ الْمُحَاجَة وَ الْمُجَاءَ فَ لِنَجَاءِتَ لِنَجَاءَتَ لِتَحَمَّنَاتِ محث امرغائب معروف بالون تاكير تقيله، لِيَجِيثَنَ لِيَجِيَتَ المَيَجِينَ لِتَجِيْنَةَ لِتَجِيْقَاتِ لِيَجِسْنَا بِ لِتَجْيَعُنَّ لِنَجْيَعُنَ بَحِ**ت امرْعَا سُبِ مجرول بألون تاكيرتْقيل،** لِيُجَاءَتَ رليُجَامَاتَنِ لِيُجَاء تَ لِنُجَاء تَ لِنُجَاء آتِ لِيُجَنَنَاتِ لِمُعَاء تَ لِنُجَاء تَ لِنُجَاء تَ المُح**دث امرحاض معروف بالون الجيد** خفيفر، جَبْتَنْ جَبْتُنُ جَيْتِ مجمت امرحاضرجهول بانون أكيرهنبغر، لِنَجَاءَتْ لِتُجَاءِ نُ لِنُجَاءَ فَ لِتُجَا امرغائب معروف بالون ما يدر خفيفر ، ليتجينين كيتبينين ليتبقي في ليتبينين لينبينين مسحت امرغائب مجر

بالون الجيزخيف، (لمُجَاَّءَنْ لِبُعِمَاً مُنْ لِنُجَاً بَنْ لِلْسَبَّاءَنْ لِنُبَعَادَ نَ مِح**تُ بَي ماضرموف،** لَا تَجِنُ لَانَجَيْنُهُ لَا تَجَبَّبُهُ لَا تَجَيِّبُ كَالَاتِجَةُنُ **بحث بْبِي حاضرْمجهول ؛** لَا تُبَجَآ لَا تُجَامَ الاتُجَاءَ وَالا تُبْجَاءَ كَالدَّبُجَاءَ أَنَّ بح**تُ بَي** غامت معروف ، لا يَبِي لا يَبِيتُ تَالَد يَبِعَيْتُوا لَدَ يَبِعَنْ لا تَبِعِنْ الدَّبَعِنْ مَا تَلَ أَجِنُ لا يَج لَدِيجَةُ لَا يُجَاء لا يُجَاءَ وَالدَّبُعَةُ لَا تُجَاء لا يُجَثَن لَا أَجَة لا نُجَة بمحت من حاضرمعروف بالون الميذعبار ولا يجيبن لَا نَجِينُنَانَ لَا يَجْيَنُنُنَ لَا فَجَينُنَ لَا نَبِينَا فِي لَا تَجِمُنَا فِ محسن مِن حاضر مجهول بالأن الميدنقيل، الا تُجَاعَت لدَيْجَاءَتِنَ لَا تُجَاءَمُنَ لا تُجَاءِتَ لَا نُجَاءَ آنَ لا نُجَعْنَاتِ تَجْتُ نَبَى عَامَ مَعروف بالون الجد لفيله ولا يحيش لَا يَجَفِينُنَا لَا بَجِيهُمُ لَا تَجِينُنَ لَا تَجِينُنَاتَ لَا يَجِشُنَانَ لَا أَجِينُنَا لَا جُينُ لَا أَج **ڷقبل،** لا يُجَاءِنَ لا يُجَاءَانَ لا يُجَاءِنَ لَا تُجَاءَنَ لَا تُجَاءَ آنَ لَا يُجُدُّانَ لا يُجَاءَنَ **بُحِتْ بِي كُومِ وِ** بالون الجد حفيفه و لديني من لا تبعين أن لا تجيب مجعث من حاص مجهول بالون الحيد محيط و لا تُجاين لا تُعَلَّقُ . لايخار بر محدث بمي خاص مع من بالوان ما كريز عفيفه : لا يَجْدَنُنُ لَا يَجْدِينُ لَا يَجْدِنُ لَا أَجْدِنُ لَا ي بالون المي ومعيض وكذيجاً من لأيجاً من لانتجاءت لذامجاً من لا يجاءن محمث أمم فاعل بجاء جاءيان بجاء فن جَاءِيَةُ جَارِيَتَانِ جَاشِيَاتٌ بحث المجمفعول: مَجِيْتٌ مَجِيْتُانِ مَجِيْتُوْن مَجِيْتُهُ مَبِيْتَانِ مَجِيْتَاتٌ -صرف كبير بالتقنيف بوازًا م **بحث إثبات محل اصى معروف :** تَحَاكَة بَعَاتوا بَجَانَة وَوَاجَاً وَنَ جَاءَتَا بِعِنْ جِينَتَ جِينَتَ الجِينَتُ مُتحِينَتَ جِينَتُهُما جِيْتُنَّ جِيْتُ جِبْنَا مجمعت إثبات فعل ماصى مجهول، جِينَتْ بِيَبْتُ الْجِينُوُ الْحِيْتَةُ جِينَتْ المِينَ جِيتَ حِينَتُ الْحِينَةُ جِيْتِ جِيْتُ اَحِمَتْنَ جِيْتُ جِيْتُ بِحِيث لَفَى عَل ماصى مروف ، مَاجَآء مَا جَاءً الد محت لغى فعل ضى مجهول ، مَاجِيْتَى مَاجِيْتَا ال**رُجِعتْ إِنْبَات فَعلَمُصَارِع معرُون**ٍ ، يَبِى يَبِيّانِ يَجُوْنَ تَبِق نَجِيَانِ يَجْيَنَ تَبِى يَجْيَانِ تَجُوُّنَ تَجِعِيْنُ تَجِعِيَّانِ تَجِيْنَ آ بِنْ نَبِى بِحَسْتُ **الْبَاتَ تُعَلَّمُصْلُ عَجْبُولَ :** يُبَعَآءُ يُبَعَآءَ يُبَجَآءُ وُنَ تُجَابِرُه يُجَاءِان يُبْجَان تُجَاءٍ ثُبَجَاءًان تُبْجَاءً وْنُ نُبْجَا رَبْنُ تُجَاءًانِ تُبَجَانُ أُبُبَاءٍ نُجَاءً مُعرف في لَا يَبِيَّ لَا يَجْبَانِ إِنَّهِ مُ**جِمِتْ فَعْنُ مُصْلُبً مَجْبُولَ ، لَ**دُبُبَجَاً مِ لَا يُبَعَانِ الد**م جدتُ فَنْ نَاحَيدُ تَكُنُ دَفْتُ مُتَعْبَل** معروف ۽ لَنْ يَجِيَ لَنْ يَجِيَالَنْ تَيَجُوْ لَكِنْ تَجْيَ لَنْ تَجْيَالُنَ يَجِعِينَ لَنُ يَجْيَ لَنُ يَجْيَا لَن تَجِيْنُ أَنَى أَنِي مَنْ أَجِي مُحِتْ لَعْي مَاجَبِدَتُكُنُ درفعل مُستقبل مجهول وكَنْ يُجَاء لَنْ يُجاء النَ يُجَاع النَ يُجَاع مُ لَنْ تَبْعَاً دَالَنُ يُجَاذَ لَنْ نُبْجَاع لَنْ نُبَجَاءٍ لَنْ يُجَارِهُ وَاكَنْ تُجَاء إِنْ تُبَجَاء إِنَ تُبْجَاء لِمُ تُبْجَاء ك**ِمسَ لَقُ تَجُدُ** بَكُمُ ورُقُعَلَمُ يُسْتَقْبُ لِمُعْرِف، لَمُهَدِّينِي لَمُرْبَعِينَا لَمُرْبَعُوْ الْمُرْبَحِينَ لَمُ تَبْحِينَ لَمُ تَبْحِي الْمُرْبَحُوْ الْمُرْبَحُقُ الْمُرْبَحُوْ الْمُواتَحُوْ الْمُواتَحُوْ الْمُواتَحُوْ الْمُواتَحُوْ الْمُواتَحُوْ الْمُواتَحُوْ الْمُواتَح كَمُ تَجْتِالَدُ تَبِينَ كَدُابِيْ نَدْنَبِي بحت نَعْى تَجُدُ كَمُ وَفُولَ مُسْتَقْبِلِ مَهول، لَعْ يُجَاءَ المُدْيَجَاءَ وَالدُنْتَحَسَ

.

مرف صغير خل تكلَّثى يجرَّدا جون بإني وميمو اللَّام إزباب موم جل لفعك يجوب المستنسبية : بحامينا علامتر أس بأب تي يب كراسي مان بين عين كلم محسور اور مضارع بين فتوح موابح المَاءَ يَشْأَمُ مُسْيَنْتُكَ ، فَعُوَ شَاءٍ - وَشِيءَ يُشَاءُ مَشِيْطُةُ ، فَذَاكَ مَشِي مُ مَاشَاء مَا شِحْ ، لَه يَشَا كَوْ يُشَاء الْايَشَاءُ لَايَشَاءُ ، لَنْ يَشَاءَ لَنْ يُشَاءَ ، لَيَشَاءَ نَ لَيُشَاءَةً ، لِيَشَاءَهُ لَيُشَاءَنُ لَيشأ لِيُشَاءُ شَاءَةَ لِتُشَاءَةً ولِيَسَاءَةً لِيُسَاءَةً ، شَاءَةُ لِتُشَاءَةُ ، لِيَشَاءَهُ لِيُشَاءَة والتَغْري لَايَشَأُ كَلَيْشَاُ ، لَا تَشَاءَنَ لَا تُسْتَاءَنَ ، لَا يَشَاءَنَ لَا يُشْآءَنَّ ، لَا تَسْتَاءَنِ لا يُشَاءَنُ لا يُشَاءَدُ الظُمْنُ مِسْلَامٌ مَشَاءً مَشَاءًانٍ مَشَابِى وَمُسَبِّي وَالْأَلَةُ مِسْهُ ، مِسْبَأَ مِسْبَانٍ مَشَا يِ وَمُسَبِّي مِسْبَا مِشْهَاً تَنَانِ مَشَا حِثُ وَمُشَيِّبَهُ * مِشْيَاً * مِشْيَاءًا نِ مَشَابَتِنِي وَمُسَبِّبِي مُوَافَعُلُ التّفضِيلِ الْمُدَكِّنِ مِنْهُ ؛ إِنَّهُ ٱشْيَاكَ ٱنْسَيَا وَنَ ٱسْابِهِ بِي وَأُسْيَتِنْ وَالْهُوَنَتْ مِنْهُمُ: شُوَّدَى مُسُوَّءَ إِنِ شُوْمَ كَا مَتُ شَيَا وَسَيْبَيْ مرف صغيراز باب مذكور بالتخفيف تجوازا والادغام وسحرما شَائَرَ يَشَادُ مَشِينَةٌ ، فَهُوَشَاءٍ رَوَشَيْءَ بَشَاءٍ مَشِينَةٌ ، فَذَالتَ مَشِيٌّ - مَا شَاءَ مَا شِقْ ءَ ، لَهُ يَشَا لَعُ يُمَتَّا ، لَا يَسْلَامُ لَا يُسْلَامُ ، لَنْ يَسْلَامُ لَنْ يَسْلَاءَ ، لِيَسْلَاءَنَ لَيُسْلَحَنَّ ، لَيَسْلَحَنْ لَيُسْلَحَنْ لَيُسْلَحُن الْمُعُمِينَهُ ، شَالِتُسْلَاء لِيَسْنَا لِيُسْنَاء شَاءَةٌ لِتُشَاءَةٌ بِلِيَسْآءَةٌ لِيُشَآءَةٌ سَآءَهُ لِتُشْاءَهُ بِلِشَاءَةُ لِيشَآءة والتَّخْصُعُنَهُ: لَدَ تَشَا لَا تُشَاءلَا يَشَاء لَا يُشَاء لَا تُشَاءَنَّ الْايُشَاءَنَّ الْايُشَاءَةَ ، لَا تُشَاءَنُ لَا تُشاء لآبساً مَن الظَرِفُ مِنهُ ، مَشَاعَ مَسْاعَان مَسَّامِتْ وَمُسَبِّي وَالْآلَة مِنهُ مِنْهَا مُسْبَاتُ مَسْلِي وَمُسَبِّي مِسْبَا وَمِسْبَاتُن حَنَّابِينُ وَمُنْعِبَهُ مِسْبَاً * مِشْبَاً ؟ إن حَسَابِينٌ وَمُسَبِّينٍ وَإِنْعَلْ الفَضَيْلِ الْمُذَكَّرَمِنهُ : اَسَبَاً ` اَسَبَارَتْ اَسْبَارُدُنَ اَسَابِينُ دَرُبِي وَالْمُوْبِيَّةُ مِنْهُ، شَوْى شَوْيَانِ سُوَيَاتُ شَياً وَمُسْيَيْ. صرف يحبير بحت إتراب يحل فصى معروف : حَاةَ حَاةَ احَاءَ وَاحَاءَ مَا اللَّهُ وَاحْدَا عَتْ مَا اللَّهِ مُنْ اللُّهُ مُن أَشِتُنُ مَشْتُنُ شِنْهَا محمت إثبات فعل مَثْم مجبول المَبْني مَنْ يَعْلَمُ مَجبول المَبْني مَنْ مَدْ المَدْ مُنْ مَدْ المَدْ مُ شفان يشتر بشدي من مع مع من معروف : مالماً عمالماً عمالماً عا الرجعت لفى على مع مجول ومايت ما يستبق ما

فالمتابل بستاج والمتادل التافي فلتان فالتادان التاءمين فكتر الإخان المتندف المات المحد التي المحدر في ذراف من شا لَ يُقَالَن يُقَالُمُوانَ مُسَلَّمُ لَهُ عَظَيْ لَاحْتَبْهِ لا عَنْهُمُ وَعَقَلَهِ وَعَقَلَهُمُ وَعَقَلَهُم وَ ولون مستترم موف ، كان ما الدينة الدينة الدائلة الدينة في تدانية الدينة الدينة الدينة والتقلي في تشار في السغر تشاء لَدْ تَتَعَبَّنُ لَعُرَّشًا لَعُرْنَشًا * ... بحت نفى تجرَّرتِكُمْ وليل مستقبل مجول : لَعُرِيشًا كَعُر يَشًا أَلَفَ يُسَيَّدُهُ كَدْنُشَأْ كَمُرْتُشَاءًا كَرُيْشُانَ كَرُنْشَأْ كَرُنْشَاءُالَدُنْشَاءُ فَإِكَدَ تُشَاءًى كَرُنُشَاءً لكَرُنشأ كَعَنْشَا بَحَعْ لامِ الجيرانون الجد**ثقيد وفعل مُسْتِعْبِل معروف ؛** لَيَسَاعَرَ تَلَيَسَاءَانَ لَيَسَاءَتَ لَتَشَاءَتَ لَتَشَاءَانِ لِيَسْتَنَا المتق لتُسْلَاءات تشقادة لتشاري لتشاءات لتشفنات لاَسْاءت تَدَعَان كم عد المع الجد بالون تاكيد الممتعقبل مجهول، لَيْشَتَاءَنَّ لَمُتَاءَاتِ لَمُشَاءَتَ لَتَشَاءَنَ لَتَشَاءَانَ لَمُشْتَاتِ مَشَاءً كتشاءن لتشاءان لتشعنان لأشاءت كمشاءن محت لام ماجير بانون ناكير خيفه وتعلم تنغب اَيَشَاءَهُ لَعِسَاءَهُ لَتَشَاءَةُ لَتَشَاءَةُ لَتَشَاءَهُ لَتَفَاجِنُ لَتَنَفَاءِهُ لَاَشَاءَتُ لَنَشَرَة مُ لمستقبل مجهول وكيشابحنة كيشابحن تتشاءن كتشاءن كتشكاءن كتشكاءن كتشاءن كأشاءن كمشابن ينام المرمع وف : شَا حُياءًا شَاء واشَاء ي شَادًا شَتْنَ بحت مرحا حرجهول : لِنشأ لِنشأ ما لِتَشَاء والنشأة بحراشي من من من مرض دليشار ليستداء إلياشا مروالتشا لمستشاع اليشَنْ لاَسْتَ لِسَنَةَ محت من من من المشارية من المسترالي لم من ذمن لأها لمنه فبح**ت أمرحا ضرم وفيا ولنا كي دفيل**م، شابينَ شاعًاتٍ هُمَا حِنَّ شَاعَتَ شَيامًاتٍ لمُنْزَات مجمت امرحا ضرمجهو ل بانون تاكير لقيله ، التُسَاء تَ التُسَاء آنَ لِتُسَمَّا مِنْ لِنُسْتَا عِنَّ لِتُسْتَاء امرتكائب معروف بانون ما يحد لنقيله ولينشآء تَن لِيَشَاءَ مَنْ لِيُشَاء مَنَ لِيُسَاء مَنَ لِنَتَ الْعَ إِنَيْنَا يَرَانَ لِيَسْفُنَاةٍ لِاَسَّاءَةَ لِيُسَاءًة لَهُ بحدث المرغامُب مجهول بانون ما كجد تعبيد فأمت ليتقليه فأله لِيُشَاءَتَ لِتُشَاءَتِ لِيُسْفِنَاتِ لِأُسْمَاءَتَ لِنُسَاءَتَ بَحسف امرحاص معروف بالول المجرز عبده، شاءَ ن شَاَءَنْ شَاَءِة بَج**متُ امرحا خرجهول بالون تاكي**ر خفيفرد لِنُشَاً مَنْ لِتُسَمَّاً مِنْ لِتُشَاَعِنُ **بِحسْ المرخائ**ب **وف بالون ما كينز تغيفر،** لِيُشَاءَنُ لِيسَاً مِنْ لِتَشَاّ مِنْ لِاَسَّاءَنْ لِنَشَاءَنْ **بَحدث امرغانب مجهول** بانون تاكير زمين در ليستكرن ليسُكَرون ليسُكَرون لِأَسْكَرت لِأَسْكَرَت لِنَسْكَاءَت مح**ت بنى حاصر معروف ، ل**أَسْسَلُ لَاتَشَاَعَا لَكُتَعَا يُحِوَالاَتَشَاءِ يُحَلَّ تَشَاءَ الدَيَّشَةُنُ بحمث بني حاضرمجهل الأتُشَكَاءُ لَانْشَكَاءَ لَا لَانْشَاً بِىٰلَانْشَاْ بَالاَتُشَمَّىٰ بَحِ**تْ بَبِي عَامَبُ مِعرِف ؛** لَايَشَا لَأَيْسَشَامَا لَايَشَا مُحْا لَاحَشَانَا لَايَسَتَنْ لَاَاسًا بِرَلَانَسًاءَ بِح**تْ بَبِي عَامَبٍ مجبول ؛** لَا يُسَرَّ لَايُسَنَّاءالَايسَاً هُ وَالَاسَنَا ٱ لايشَتْنَ لَدَا سَا لَا نَسَا لَا نَسَا لَ بحث بنى ما مرموف بالون ما يرتقيله ، لا تَسَاءَتَ لا تَسَاءَ الذ الم

لاَ يَسَاء بَ لاَ يَسَاءًا بِ لاَ تَسَمَّنُ فِي محت مَنْهِي حاصر مجهول بالون ما كيد لِقَيل ، لاَ تُسَاءً بَ تَ لاتشاً من لا تشاءت لا تشاءات لا تشفنات تجمت في عامب معروف ما لون ما يد لقيله و لا يتشاءت لَايَشَاءَ آقَ لَا يَتَمَاء تَ لَانْشَاء تَ لَانْشَاء آقَ لَا يَدَ مُنَاآنَ لَا اَسْكَاتَ لَا نَشَاء تَ لا نَشَاء تَ لا مَسْكَم مُعَلَى لا بالون ماكيدهيل ولايشاءتَ لايشابكن لايشاءت لا تشاءت لا تشاءت لا تشاءات لايشف آت لايش ماءت لانشاءت لانشايت بحبت منهى حاضرمعروف بانون تاكية خفيضه ولاشتاء فلاتشاء ف لانتشاء ف كجعت منبى حاضرتهول بانون تاكيد ففيغه ولأستاءن لاتشاءن لاتستاءن بحسث نبى فاتب مروف بانون الجدخفيف لا يَسَنُبَاً مِن لَكَيَسْكَمُون لَاحْسُبَاءَنُ لَادَاسُكَةِنْ لَاحْسَنَاً وَن مجمع**تْ مِبْبِي فَاسَبِ مجبول بِانون مَاكِيرَ خَيفٍ لَ**لَبْشَاءَةِ لَايُسْنَاءُنُ لَا تُشْنَاءَنُ لَكُامُشَاءَنَ لَائْشَاءَةَ **بَحِمَتْ أَتِمِ مِسْ إَعْلَ:** سَنَاءَ مِنْنَاءَيَانِ شَاَءُونَ شَاَءً يَدْ شَاَءِيَتَانِ شَاَ تِهَاتُ *بحسن المجمعُول* ، مَشِيْعَ مَشِيْتُكانِ مَشِيْنُوْنَ مَسْيَعَة مُسْيَكَتَانَ شَيْنَكُ موف حجب يربالتخفيف جوازًا بحت إنات فعل المنى موف ، شاء شاء الله مود الشاء مود الماء من شاءً ما سيد في شد من شد بِشِيْتُو شِيْتِ شِيْتِياً مِثْيَتُ شِيْتُ سِيْتُ المحت واتْبات فعل مامنى مجهول ، سِيدى شِيدًى شِيدًا شِيتَتَ مِيْشْنَا مِنْيَنَ مَعْدَمَة مَعْدَمَة مَدْيَمَة مَنْ مَنْتَكَمْ مَدْيَنَة مَدْيَنَة مَدْيَدَة مَدْيَدة مَدْيَك محيث نفى فعل مامنى مجرول ، مَاسَيْتِينَ مَا شِيْفَ الله سمحت إنبان فعل مُصَارً معروب ، يَسَاتَ بَيَشَاً عَانِ يَسْلَمُ وَيَ مَشَاءَ مِعْدَانٍ مَشَاءون تَشَاءِ فِن مَسْلَءٍ فِن مَسْلَعَانِ مَشَاءَ مِنْشَاءُ مُعَلَّ **مُعَلَّ مُجول** ؞ ؽۺٛٵٙ*؋*۪ۑڹۧٛ؆ڹۣ؋۪ۺؙٵۛٷؽ؆ؿۺٵٙٷۺؙٵؘٵڹۣؠؙۺؙٵ؆ڎۺٛٵٛٷڗؙۺٵٛػٳڹ؋ۺٵٙ؋ٷۑٵۺٛٵٙٷۣ؆ۺٵٷٳڹڎۺٵؽٳ · محت يفى على محبر المح معروف : لا يَشَاء الا يَشَاء الا الله بحث فعى فعل مضارح مي ولا ، لا يُشَاء الأيشاء ال محت فعى ما كَيد بكن در ط مُستقبل معروف، تن يَسْاء مَن يَسْاء الن يَسْاء دُوا مَن تَسْاء دُوا مُن تَشَاء مُوا مُ كِنْ تَسْلَحَه مَنْ تَشْلَحَه الذِي تَشَلَمُ عَالَهُ مَنْ مَتَنَاكُم مِنْ مَنْ تَشَاءَ مَنْ تَشَاءَ مَن تَشَلَع متقبل بحبول؛ لَنْ يَسْاءَ لَنْ تُسْكَرًا لَنْ يَشْرَا مَوَالَنْ نُسْنَاءٍ لَنُ تَسْبَاءً إِلَنْ يَسْكَنُ كُذُ تُشَاءً لَنْ تُشَاهُ لَنْ تَسْأَبِرِي لَنْ تَشَاءًا لَنُ تَشَانَ لَنُ أَسْآءَلَنُ نَشَاءَ كَبِحِتْ نِفْيَ جُهُزُكُمُ وَفُولِ مُسْتَقْبِلُ مُورِف ، لَمُ يَسْآلُمُ يَسْآنَهُمُ يَسْآءُمُوا لَمُ تَشَا لَمُرْتِشًاءًا لَمُوْمَشَانَ نَدْتَشَا لَعْ نَشَاءًا لَمُ تَشْآءُهُ لَمُتَشَاءًا لَمُ تَشَا كَدْاَسَالَة نشاب متنفى تجريم ورفعل مستقبل مجهول ، لَدُيْسَالَة يُشَاءا لَمَ يُسَاءً مَوَالمَنشَاكَة المُعْتَش

كَرْ يُسْكَانَ لَدُتُسَكَانَهُ لَدُنْشَاءً، ----- لَعُرْ تُسْكَاءُ وَالْدُنْسَكَاءَ لَمُنْسَكَة الْعُنْشَانَ لَعُ أُسْالَهُ نُشَا**بِحتْ لامٍ لاكِد بالونِ تاكِير نُقيلِ وَنُعلُ مُسْتَقْبِلِمُ عروفَ،** لَيُشَاءً تَنَا لَيُسَكَامًا وَ

لَتَشَاءَتَ لَتَشَاءَآتِ لَيَعْانُانِ لَتَعْادَقَ لَتَشَاءَاتِ لَتَظَامُنَ لَتَظَاءِتَ لَتَشَاءَانَ لَتَشاءَاتَ بحسن الم ما يجد بالون ما كمد تعياد ور مستعبل محبول ، كَمَشَاءَتَ كَبُسُمَاءَتَ كَيْشَاءَتَ كَتُشَاءَتَ تَسْتَعَ لمتشاءت أمما تأتو كشفادمي كتشاءة كمنت أعاتو كتشا أآت لأساءت كشاءت كشاءت كمعت لام الجدر بالون كالبد خم بغد وتعل لمعروف، ليَشْلَحَنْ لِيَشْلَحُنْ لَتَشَاءَنْ لَتَشَاءَنْ لَتَشَاءُنْ لَتَشَاءِنْ لَتَشَاءَنْ لَتَشَاءَن **بالونِ تاكِيرَ خِيفَه درنُعلُ مُستعبَّل جهول :** لَيُشَاءَنَ لَيْشَاءَنَ لَتَشَاءَنُ لَتَشَاءَنُ لَتُشَاءَنُ لَتُشَاءَنُ لَتُسَاءَ يت امرحا ضرمعروف ، شَا شَاءًا شَاءً ذِا شَاءً مَ سَاءًا سَانَ بحمتُ امرحا ضرمهول ، لِتَشَاءًا لِنُسْتَاء وْا لتُسْآء في لِتُسْآء البَسْنَان بحث امرغات محروف ، لِيَشَا لِيَشَاء البِيَشَاء موا لِدَشَاً التَشَاء البِسَنَان لِأَشَالِدَيَا مت امرغاب مجهول ويشر ليستر المشرعة الميتر المتقالية فالمسترات لا شالين المسالين المرحا مرحا مرم وف بالون تاكيدتفيله ، شاءت شاغان شادي شاين شاني شائات بحد المرحاض مجهول بانون تأكيدتفيكه دلشات لِتَشَاحَانِ لِتَشَادُنَ لِتَشَاءِنَ لِتَشَاعَانَ لِتَشَاءَانَ بِح**تْ ا**مرْعَا**سَ مِعروف بِالوْنِ تَأْكِيدُهْ بِلَه،** لِبَشَاءَتَ لِيَشَاءَانِ لِيَشَاءَتَ لِتَشَاءَتَ لِتَشَاءَاتِ لِيَشَانَاتِ لِأَسْاءَتَ لِنَشَاءَتَ بِعَشَاءَتَ بِعَنْ مُعْمَد المُنْكَاءَة لِبُسَاءَاتِ لِيُسَاؤُنَ لِتُشَاءَةَ لِتُسَاءًاتِ لِيُسَانًاتِ لِأُسَاءَةَ لِلْمُسَاءَةَ بَعَضُ المرحاصُ معروف بالون الجيرُ ضِيف شاءَ نُ سَلَمُ نُ سَلَمَ نُ مَجت امر اخر جهول بانون تاكيد خفيف والتشاءَ ف التشاء ف التشاري بحث امراً معروف بانون ماكيد خعيفرد ليسَنَّاءَت كَيْسَكَاءَن لِتَشَاءَن لِتَشَاءَن لِتَشَاءَت لِنَسَّاءَت مجعث امرْعاس مجهول بانون الج نحيط، لِيُسَاءَنُ لِيُشَاءَ قَالَتُنَاءَ ثَالَةُ لَمُنْكَرَنَ لِنُشَاءَنُ كِمَتْ بَحِي كَاصُرُ مَرْضًا لَا تَشَاكَرَ الْاتَشَاءُ وَا لاَتَشَاءِ ثَى لَانْشَاءَ الْاَنْشَانَ بَحستُ بَبِي حاصَرْمِ جول ِ لَا يَحَالَدُنْشَاءَ الاَتَشَاءِ وَالْانَشَان مشنبى عام معروف : لَايَشَا لَايَشَاءًا لَايَشَاءً الاَيَشَاءً الاَيَشَانَ لَا اَسْالا لَشَا لا لَشَا ب مجهول: لَذِيسَالَا يُسَلَّا لَا يُشَاء قَالَا تَشَاكَ تُشَاطَ لَا يُسَانَ لَا أَسَالَا نَشَا بَحستُ بَي حاضرم وف بالون تأكير لْقِيلُم وِلَدَمْشَاءَةَ لَا تَشَاءًاتِ لَانَشَاءُ ثَالَة تُشَاءِنَ لَدَمْشَاءًاتِ لَدَتَ اللَّهِ لَ لقيل ولاتشاءة لا مشاعات لا تشاعة كلا تشاءة كالا تشاءات لا تشاءات لا تشامًات محمت بني عام معروف بانون **ٵڮۑڒڡؚۑلہ،**لايَشَاءَى لايشاغات لايشاء تَ لانشاء تَ لانشاءَتَ لانشانات لايشائات لَا اُسْلَاتَ لَا اُسْلَاتَ كُ جمول بالون ما ير مقبل ولا يُشَاءَ تَ لَا يُسْبَاءَ إن لا يُسْبَاءُ تَ لا تُسْبَاءً تَ لا تُسْبَاءً إن لا يُسْبَاءً ت لَاسْتَكَبُّ تَكْمَعْتُ بِنِي حاصرمعروف بِالْوَنْ تَأْكِيرُ خَفِيفٍ ، لَادَتَشَاءَ نُ لَانَشَاءَ نُ كَجَسْ بِي حاضر جُهول بانون تاكيد خفيف ولا مشكرة فكر تشكر من لا تسترون بحسب منى عاشب مروف بانون تاكيد حفيف ولايشاً ون لَا يَسَمَّاً مِنْ لَا تَشَاءَتْ لَاَ اَشَاءَتْ لَابَشَاءَتْ بِحِي**تْ بِنَى لَبْ مِجْلِ الْوِنْ تَاكِيرَهُ خِدْدَ** لَا مُشَاءَتْ لَا مُشَاءَتْ لَا مُشَاءَتْ لَا مُشَاءَتْ لَا مُشَاءَتْ لا مُشَاءَتْ لا مُشَاءَتْ كَرَ السَّاءَنُ لَا نُسَاءَتْ بحث أَثِم فاعل: شَلَة شَاءَتَيَان شَاءُون شَائِيَة خُشَائِيةً إِن شَباتِياً ... بحث تم مغول،

مَشِبَيَانٍ مَشِيْوِنَ مَشِيَلًا مُشِيَلًا مُشِيَّتَانٍ مَشِيلًا لَكُ مرف صغير نعل ثلاثي فجرًد مترال وي ومُضاعف ثلاثي از بالسوم فعل يَفْعُلُ يتجون ألود، دوت ركها. علامته أسساب كأسب كراستي ماعني ميرعين كلمه تحسورا ورخمضا ركع ميرم همستغوح تهوتا سب قَدْ بَوَدٌ وَدًّا، فَهُوَ وَآدٌ - وَوُدٌ يُحُودُ وَدُأَاخَذَاكَ مَوْدُقَدُ - مَاقَةً مَا وُدً ، كَفَيَوَدَ كَتُنبَعَد لتربُقَ وَ لَمُرْكِقَ ذِ لَمُ يُوْدَدُ الأَيْعَدُ لَا يُقَدُّ ، لَنْ يَتَوَدُ لَنْ يَتَوَدُ ، لَيُوَدَّنَّ لَيُود نَ اليود نُ لَيود مَ إَوْمَرْمَنَهُ ، وَدَ وَجَوْ إِيْدَهُ التَوَدَّ لِيُوَدَدُ الْبِيوَدَ لِيَوَدَ لِيَوْدَهُ ، لِيُوَدَّ لِيُوَدِ لِيُوَدَهُ ، وَدَنَّ لِتُوَدَّنَ لِيُوَدَى الْمُودَى وَدَنْ لِتُوَدَّنْ الْبِبُودَنْ لِيُعَدَّنْ وَالنَّجْمِ عَنْهُ ؛ لا تَوَدَّ لا تَقَدَّدُ الدَّقَقَدُ التقوية لا تُقْفَدُ الدَّيقَة لَا يَوَدِ لَا يَوْدُدُ ، لَا يُوَدُ لَا يُوَدُدُ ، لَا تُوَدَّنَ لَا تُوَدَنَ لَا يُوَدَى لَا يُوَدَى لايوردَنْ ٱلظَّلْمَ بْ عِنْهُ، مَوِدٌ مَرِدَّانِ مَوَاً * وَمُوَيْدٌ وَالْأَلَمُ مِنْهُ، مِوَدٌ مِوَدَّانِ مَوَاد وَمُوَيْدٌ مِعَدَة حِوَدٌ كَانِ مَوَا هُ وَمُوَيْدَة ٢٠ مِيْدَاد مُ مِيْدَاد انِ مَوَادِيدُ ومُوَيْدِيد مُدَاد أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ المُدكُّرمِنْهُ : أوَدُ أوَدَان ٦ وَ دَوْنِ اَ ذَا ذَكَرُ أُوَ يَهُ كَوَالْهُوَ نَتُكُ مِنْهُ ، وُ دَٰى وُقَعَانٍ وَدَكَانَ وَدَدًا فَ وَدَدًا رف صغيرازياب مذكور بالتعليب ل جوازا وَدَ يَوَدُّ أَدَّا، فَهُوَوَا \$ وَاذَ يُوَدُّ أَدًّا، خَذَاكَ مَوْ دُونُ مَا وَذَ مَا أَدَ ، لَمَرْبَعَ ذَ لَعُرَبَعَ وَلَعُرَفَقَ لَعُرْ فَعُدَهُ، لَسُ يُوَدَّ لَوَيُوَدِّ لَمُ يُوَدَدُ ، لَابَعَدُ لَا يُوَدَّ ، لَن يَوَدَّ ، لَبَوَدَنَ لَيوُدَنَ ، لَيوَدَن المُودن الأمرينة : قَدْ *وَ*قِرْا يَدَهُ، لِنُوُدَ لِتُوَدَدُ البَوَدَةُ البَوَدَةُ البَوَدَةُ ، لِيُوَدَّ لِيُوَدِّ لِيُوَدَّنَ لِيُوَدَّنَ المُوَدَّنَّ المُوَدَّنَ وَجَنْ لِبُوَدَىٰ بِيَوَدَىٰ لِيُوَدَّىٰ وَالنَّحْرَعَنَهُ ؛ لَذِنَوَدَ لَاتَوَدِّ لَاتَى دَدُ ، لَاتُّقَدَ لَاظُودٍ لَاتَى مَدْ الْاسِوَدَ لَا يَوَدِّ لَا يَنِ دَدْ ، لَا يُوَدَّ لَا يُوَدَّذَ لَا تَوَدَّنَ لَا تُودَى لَا يُودَ نَ لَا يُودَ نَ لَا يُودَ لَا يُوَدَّى كَانَظُنُ فُ مِنْهُ ؛ مَوِدٌ مَوِدَّانِ مَوَا دُومُوَيُكُ وَالْإِلَهُ مِنْهُ : مِوَدٌ مِوَدًانِ مَوَادٌ وَمُوَيْدٌ - مِوَدٌ عَ حِدَةٌ تَانِ مَوَادٌ وَمُوَيْدٌ لاَ مَ مِيْدَا لا مِيدَادَانِ مَوَادٍ يَدُ وَمُوَيْدِيْدُ وَأَفْعَلُ التَّفْتُبِيلِ الْهُذَكْمِينَهُ: أَ وَ دُ ٱوَدَانِ ٱدَدَّدَنَ **ٱبْجَادَ كَذَا حَادَ بَدَّ** دَالُمُوْنَتَ مِنْهُ: أيدْ عِامَدَيَانِ أَدَيَاتَ أَبُدُ قَادَ عِدْى بغيرتعل للاتي نجرد مثال ياجي ومتضاعف تلأتي ازماسيوم فيعأ لفيعل سيحوب أ ں باب کی شیسے کہ آئی گئی میں عمن کلم حسو اور مضائع میں عمد يَرْ بُسَقَرْ يَبْتًا، فَذَاكَ عَنْهُ وَمُ مِ مَا يَتَّرْمَا يُعْرَ، لَغْرِيَدَ لَرُبِيَةُ لَمُ يُسَبِّرُلُوْيُوْسَعْ، لاَ يَسَعُرُ لَا يُسَعُرُ لَنْ يَسَعَرُ لَنْ يَسَعَرُ لَا يَسَعَ حِنْهُ، يَتَرَيِّرُ إِيْمَهُ التُنَيَّرَ لِتُبَعِ لِتُوْمَنُ لِبَيَعَ لِيَدُ لَعَدْ لِلَهُ يَعْلَمُ

192 لينتقن والتلام عندم. لا تتبَةُ لَا بَنِهُ لَا يُسْفِعُهُ ، لَا يُكِتَرُ لَا يُبْعِرَ لَا بُدِهُمْ ، لَا تَبْهَةً اِبْيَتِينَ لَا يُبَيِّكُنُ ٱلظَّلْمُ فَ مِنْهُ، مَبِسِعْرَ مَيتَمَانٍ مَيَّامٌ وَمُيَدَّعُهُ وَالْأَلْهُ مِسْهُ ، مِبَعَرُ مِيتَمَانٍ مَيَّامٌ وَمُدَ ميتبثة ميتتنان متيام وميينت لاريبيت لم بينام بينادي ميا ميتور ميني يروز أفعل التفغيل الدزكس لأقرق المستركة البعرية ويبده يتباد يتباد يتبات نبية وتبديه بمررابوا الصرف جديد درسيلات فسيغ جمور قَالَةٌ: صِيغة جَنَّ مُذَكَّر مُكَثَّر ، بحث اسم فاعل _ اصل مي مَدَدَلَةُ بروز لن فَعَلَةٌ تَقاردا ومتحرك ، ما قبل مفتوح تقارقو بقاعد وأفالَ، واؤكو الف الت بدل ديار خالة بروژ اينغالة بوكيار فحوال: صينة جمع مُذكَّر مُكتَّر ، بحث اسم فاعل - برود اينغُسَّال اين أصل يرب-

.

التربعتك (1) تغیف مفروق، یشرن مین ابداب سے استحکار (۱) ختر ب (۲). سَمِعَ (٢) حسيب مسيب وتى يَعْنِ وقاليتة ، وَدِي يَوْلِى وَعَيَّا، وَفِي يَعْلَى علامانيت آبواسيك النيف مَفْرون ، مِثْرف دو إبو اس " تأسي () ختر ت () تيمة. وى يَطْوِى طَيَّا (لِيسْنا) طَوِي يَظُوْى طَوَى (مُحكامونا).) تون دغيب ، فرَّخة وحُزن ، اور مُنْلِيَه م معانى م يه الذر سَيم أ تَكْل. (12) مموراً لفارواجون دادى ، أكثر نُصَّبَّ سه آناسب، اور شيعة معامَّل بي ألي يَتُوون أولاً - أو وَيَكأوه أوداء ومذابت مُلتِيَةً وَلَمَبْعِينَةً مَعْتَقَةً مِعَيْمَ من المُتَقِينَة وَمُنْتِعَةً مُكْمَ مِعَينَ مُعَامَتِهُ 📣 مهموزالمغار واجوت يأتى ، اكثر خترب سي آست كاراور تيوية سي أقل يافليت وكلبي بمشايد اجي جنابة اسبكما مستريس -بس أخت بشك آيداً - أيت يتماس إياسًا -(١) ممور الفار دنانس واوى ، كثر نعش ست تشكر بسي كان أنها -· فَعِيْلُ مُ وَزُن يرصفَتُهُ كاصينه اكثر مَعِمّ ، اوركَتْهُ مَرسة أَسَمَةً . 🕐 باب كَنْهُمْ بَمْيتْ مَارْمَ بَوْلًا -همورالغار النزيتر ب ت لا بيج اَحَلَ يَأْحُلُ اَحْلًا . 🕑 مهوزالغار دناتص یانی، اکتر ختر ت سے آتا ہے۔ متبع سے آقل 🕤 مهموزلیین، اکثر تبعیع، فَتَقَنَّ اورکَمَا تَحَرِیهِ آَتَ کُار اور لِنَصَبَ، هُمَاتِ ادر فبيَّت سين از بعيد ألى يتأتي إنتيانًا. أيت يتأمين ألمَّك و اور ب أمَّل. مجمع متدخر يَسْتَمُ مَسْلًا - سَمَلَ بَيْسَمَّلُ مُتَوَالاً لَقُمْ يَلُوُمُ لَهُ مُا-آبني: بن ابكة . ابن الك ان، (۲) مہموزالعین دِمثال وادی ، اکثر ختر ب ہے آئے کا . ادر مسیق سے اکن (2) مموزالله ، اكثر تيمة ، فتقر ، اوتر مترسة أت كار نعبت ، حتر ت ص رأي يَسُ وَأَدَّا - الروَبْتِ يَوْتَبُ وَأَبَّا -ست أَقَلْ بعي بَدِينَ بِبْرَأْ بَعَاءَةُ · فَمَنَ أَ يَقْبَهُ أَعْمَاءَةً · بَجْرُةً عَمْدُوَ جُمْ وَ (٢) ممور العين وشال بائى ، متيعة أور تحسيب مستسط جي يشتري يذكر ما الم مثال داوی نصر کے باکل نیس آئے گا۔ خسر ب، سیم ، فتح سکر کم،
() مهمور العبن و ناقس داوی ، تحقی اور فتیج سے الم تر الم معلم مسلم اور حسبت ٢ من المع وعدي يعد وعداً عداً . وجعل يوجل وحسلا -وحتب بقب جبرة - وسُسَر توسُر وسَامَة الدروسَ بَيِنُ وَمُقًا -يَشِوُر سَنُوَا - دَنَّا يَكْ إِنْ دَأَيَّا -س مهوزالعين دنانص إلى اكثر منتج معاً سناكد ادر خترات معاً عن (مَال الله أَن أَحَر ب الكُن مين آت كُل خَسَرَت ، مَع مَع ، فَنْتَح ، كَمْ مُعَ مس مرافي يَرْى مُرْدَيَةً - صَمَّا يَعْيَى صَدَيْتًا -سے، اور قدرے تحسیب سے آئے گا، ممسے بسیس یند پر اُنس ا ، یہ س يَبْبَسُ يُبُسَّا - بَنَعَ يَنْتَعُ يَنْعَ المَاسَ المَعْنَ المَعْنَ المُعْتَ -الم الآل وجي بتاية يتبون م بن عاد ذاي يكاو دوعا . (٠) اجون تحرف يمن اجواب أصول سرت كاءاً مَتَا حَالَ يَطُولُ لَمَحْتَكَ فَيْهُ إِ (۲) مهوزاللام وابونسب یالی، اکثر طبرات سے آئے گا۔ اور تیج تے ہے اجوف داوی، اکثر نصر، متيمة فرائ كا، ادر خرب أفل. الآل. مسيرة بي يَعْلَى بَعْنَا. شَاءَ يَشْرُدُ مَشْدِيْنَا. بعب قَالَ يَعُولُ قَنْ لار خَابَ يَخَافَ خَوَافَ خَوَانًا عَامَ بَطِيعُ طَيْحًا -(٢٤) مُضاعف ازمت باب أصول ٢٦ يده نقط دامتًا حدث فَهُوُ (١٢) اجومن بال القترب بالل نيس آتا ، اكثر حد آب المراد (حَسِيْتَ المَرْمَر ولَتِ فَقُولَمَيْتَ المَثْمَ مِنَ الشَّوَاةِ - وَالمُمس دُمَتَن أَ عَمَعَ أَثْلَ. بص بَاعٍ يَبِيعُ بَيْعًا اور شَاءَ يَشَاعُ مَسْلَعَ مُنَد (٢٨) مبهوزالغا، ومُضاعَف ثلاثي، اکثرنظته به تست کار أورطته ، (P) ناقص دادی، هترات ب بالل سین آیت کا . اکثر نصر ب ، ادر سَمَعَ اللَّنَ بِيهِ آمَرَ يَنْهُ مُر أَمَّ الَّتِ بَيْنِ أَمَّ الْأَوْلَ اللَّهُ قدر سه متيمة م استركا - ويجر ابواب مع أقل جيب دَيَّا بَ سُعُوْ دَعُونَ فَا. 🕅 متسسال دادی دمُضا حَسْد كُلَاتْ، مَتِعِمَت كَاتِ مِسِددَة بَعَدَ وَدُوْدًا. ترضى يُرْصَى يراخُوْ إِنَّا . المالي الى دمضاعف كلاتي مى نقط تيمة تحاتا بد جيد تقريدة منا المالي الم المالي (۱۹) ناتص ماني، نصبَّت، مَدْ مَرْسِينِينَ آستِيكَ، مَتَرَمِتْ إذ اواكَتْبَطَوْبَ ا تيمة مس أست كلد اور تحسيب س أقل تين بيس م ملى بَرْمِي مَ هُمَّا - تَحَشِي بَ

فماقِيبَتَوْقَتْتَ ، باب فَتْجَ كامَاتَد مَنتى ب رُس كَتِن كد بالْهَ كرير يَرْبُ فالصِّبات الواب ملتى بواب بيس ذخب بتين فيرو ، عمر تكن تذك واض ب ب مداري ين **لواتي يتونصي**:- باب ن*غترے نواص بنت ب*ي - *کيکن مشهوُ*فاضه مغالبَة ہے مشاذيعة يسنى بامب تمغاظه سمه ذرييص دوليحصول كاتمقال خلير كالمستصح بعده بامب تقرست خات تركوكم وبالمي فوم بميشدان بواجه ويزكن صغات استى الأكهف ورب ایک اطبرا برکیامات بسی خامینی آیڈ خصیت، بجگزار بو ک داسط، تاب، بويدائش، بدل حيفر مي حسن- المكاكر ول ترداخ، بكن ب زيد ، برس بتكث من فالب أكما ين أس ير- ادرجيد في أحدثني زيدة ش پدانتی کے شکر برگتی ہول۔ بسیے فطنہ۔ بابدائش کے شد ابر ہوں ۔ بسیے فأخصقنك بعكراكراب مجد سه زير دميس بتكريب بس فالعب أباما بون يس بتنب ، كلير كربنا بروطهارة ومتى نجامة وطهارة ف من بري -تفاصير حسب : - باب تحيت محمنى كم ماست أت جن وديد وي فاکدہ (۱) :- مُعَانَب کے بیے بونسل می لائیں کر ، دہ تعقیر ہی سے لائیں تکے ، آگرم دَيَّهُ مَنْعُنَى دَيَّنَى دَقَيْمَ ، وَقَدْمَ ، وَلَيْ وَمَتَى وَتَعْدَى وَتَعْنَى وَتَعْدَى وَتَعْمَى وَوَتَ وَقِنِى وَقِيْ ، وَقَنْ وَيَتَى بَيْضَ يَعْشَى وَيَتَعْمَتُ ، وَتَقْدَ وَقَدْ وَتَعْمَى وَتَعْمَى وَوَتَعْمَى وَبِعْلَ وَلَيْ وَقَدْ وَقِيْعَرِ وَلَيْ يَعْلَى ، بَوْرَ . وَلَكْ وَتَعْمَدُ وَقَنْ . - : بَعْمَ مُعِزَ وفم کمی دوست راب بی سے کیوں زہو دہشہ طبکہ وہ کم میں ، اجومت داوی ا ناقص وادى بو- جي مثمال مكور كراض باب خقتم بمفيدم ينى غتريب س سينكن مُناتَبَترك بي باب نُقرُب لا إكباسي -ولمجم وتجل أخ فالمرود) : - مُنافَتر من الم ورى مستدى من جا آب مع مل كاترة من أسل فاتصير إفعال :- إسباب يمسور بشرو ماق م .. الفيدية :-المؤملة، بزركى من معالم كيام معاز منه البس من بزركى من خاصت كال متتدى بتانا يعنى بولفظ مجوي لأزم بيزمه باب وأمال مي تمتعدى بوجا بكسيسينه **خاصِیَتِ خَبَرَبَ**:- باب نَبَرَبَ *کیمی ب*ت ۔۔خواص میں بیکن مشہور ملته بوالابشياة خاقسداس كابمى مغالبكست بينى باب تمغا تمكرس ويديعيوه فتغسسون كانتقابك فلهر ودسمنى مستعولى شود يجرحلاب تريس فستصيون فيتحص المحاد شغنائ والخاكا بي واستغنيت و محرف مح بعد باب خترّت سے ایک کاغلبہ ظاہر کما جاتے بہت دہلکہ باب بستتود والمرء الكرديش ماة األ ود وواخلات تيس دفر مع الاكتفال ستعاديش فترب ميح ندبوسي باليني تساف فيعشه خريدوفروست كاجحس زيد المكتب إدنعم شوم هل الاستسلافي المستوجد أيل بمستود بجرابل والجر فالمك بمسايل فتم الحاكم ولَي مَوْلُ الْمُسْتِقَة وَالْعُلْمَ مَا كَمَرُقَ بِنَ تَحَكَّ بِسِبْرَة لَا تَتَخَذَه " نصابَر معمل كموت سير * جمالة -ف، میس خرید وفیرد خست میں عالب آگیا میں اُس چر۔ اور مُسّابِ مُنْ ذَنِي تُخْ فاليعك خريد وفروخست كراب محمد سه زيداميس خريد وفروخت مي غالب محكمه الركمات اذغيب كأنيز فمتلا سعرشه اذتجسب واليشا لأخرسبسد سعرسته اذتجبت أبابا ہوں میں اس بڑے وابعتااتكن "منرنكه المتحسب دابيتهالذكن "مندشه التتبيت دابينا الضرب وتتق مسز فالصيتية متبعة .. باب تحق زياده ترلاذي تاب - تيز أن صغات وسنى ادا لله اذترست وابينًا انفرب وكوم * مند منك اذخريت وابينًا اذبكت وفَتْحَ بسندش از كحدف محدف أتاب رجوجمنسم كويداكش مح بعدمار من جول - معي خريق، تحسبت دايعنا ازنعردخرب سامندك ازتجست وايعنا الطبب كارم مسمندمتك التجبت حَرِنَ ، فَي تَ ، شَبِعَ ، عَلِسَ ، كَبِدَ عَهِدَ ، بَلِجَ فَ وابناً انفرت مدينة مله قام الفاظ مح معانى بالترتيب يرجى (١) ميارت باقى (٢) مُوافق موادس دوست ركمارس ، متوجا وخسستاك بوا ده، نوشى مص كام كما وطاعة كى دد الألفي في الد فاتيتات مع منيتية است وماتيتة من ماقسر است وماقدة الشى الأفراش والتوتين نزد یک جواد اوراز انچابید و باختر دانکسرادانی بنا، دوست دیکماد،، کیشت حقّ ارتکاکی خَرْدٍ ودى اتات بطَرًا كَانِيَاً بَدِي يَعْتُوه بْلِالْت بِ و إِمَا يَحْرَمُكَ مِلْتِ كَانِيْنَهُمْ بالنول فوالساب و تَجِلْتَ - اوراز خرب سوای ف يطت وقت بسيث سه أوادتكالى ٥٠) وَتَكْرُ الدِّيارَ : ويار مادة ذخاصيات دري جاليانه مسانى است زكديني سانى داست أيوبح كيسد فاتع سخا نرب فجمع كونوش بكش كبلاه (تمكين جوا ١٠٠) وَدِي الزَّبْمَرْ يَحاق ست أكَّر بكل المُعَيِّديتِ، وهُ رِيسه و استنزكوا كالعاصرك ببسنا مندوب يتجرؤك بخاطئ أزوكمترة يوكونية تواني أنست كامند كماوتنسس اَمَادَيدِي الْجُوْلِ فَالْحَدَاقِي بِوالِ الْحَسِبُ امست كُسِ (٥) مشسست قوا، ٠)، يُست كَيا ا فأمغيل فحظب في خاليتيات الايداب مدَّك كذا مُاتَمَني تَرْيَرُ فَتَسْتَبَىٰ * مدَرَّكَ كَدَائْمَا بِثَقِ تَرْبِي فَتَعْتَجَى فروم شدشده اجمن مشد (١٣) كين رك ١٣٩) تا اميد توا (١٥) فتكب توا (٢٢) مادار الكلايات أزير فماطي استرق كالتيايتني زايم فينيني ومدالك ايرمتد الالما المتواجع نمی کمانے کی پیوکی جست ڈیا دہ ٹوکاش کی (۱۱۰) ازمَسِبَ دفرب پرلوککٹرشد (باتی پیٹوکٹ تلمغدذ يركحدونيه بيرسر بسب فتوكيز يبي اخي بالتؤكيز بين مغياث فانغذ دارد المنبسنى الريده ليس نفظ و مت اينا الجم تنق المداخل مذامنان المل است - ملام اسم الى كراتيان فرك ديكرا مال نيست. كذا في سندوم المسيل دفيرو- ١٢ فراددانوسول مستر سعبوم جنباتى -

د ، ؛ إغطاء ماحد : - اخذ دينا - يونكس كراخذ دينا - بعرافذ دينا تغنوس تبتريق	بع المحقة أذب الكازير - الموسط بالال في فاس كو الديوم ويس تعدى
بسيرة أغطنت المستغلب أعظم اقدى دى م خ تختر و يا افذديا في محقق تشر	. بیک منسول بود دو اب انعال می مستعدی بک ومنسول بردیا اب . بسی تحفّرات
بركار بعد الفذيفان تشبهانا بخلى دياس فاس كالتحل كالمعنى فالركال	تمما المعودى مي في نهر ادر أخفك ت ونيد المرا محد الى من فريس فريد
بجرافت کی بھازت دی۔	المهومجروين مسمدى بمردمنعول بود ده بب إضال مي مسمندى برشد منسول بعظً
٨٠) بُكْن من المذي بنيا - مركز فارانى بوكا - معيد أخت تريد؟ :	- ب - بعب حَلِنْتُ ذَبْدُ المَاجِ لا بالمثل ف زير كونغ بداروال - المداعك ا
	تعدكما متنه دا فاجد لا بحوايي فريكوكم ونغيلة والآء
مُوْضِك ومّت عدينها زيد الجوين محانى تدكا - سيسية أخرى كذيفٌ ، كلب عراق	(٢) تَعْشِيدُوْ - مِينى مى يتيركوناً فرولا بناء ، يا موصوف بما فدوالا بنانا - بجر با خد
یں داخل توازید بالجرخ تریمی ہوگا ۔ میسے آغشتر کہت اللّٰہ لَا طِعْمَ درا ہم تجسٹ ر پیر اس کر بن جبکر میں بالہ بدینہ ہے	مجمى مسدر بوماسب رجيع أتحوشت ويدقدا: فوق والابتايا مى فرد كو-
ا مرتبهٔ دستس کوینچه تیزیمی نگوین بسنی اخد سک ترب پینچ سک کار کہ جائیے آیکن باد چاہر با میں	الحكى الغديا مديمة لمبت بعية فيركث النظل : شرك دارمانا عرب فجر تحد
نون، بمكسيلين <i>محقو</i> تيب پنجازير - مدينة المكسيلين محقوميت بنجازير -	مصومت بما فذك شال . بسيد المكتينة ، شغا دينه والى جزوى م م أس كو .
(٩) صَدْمِ ثُرَّتُهُ :- إس تَحْمَنُ مَنْ أَسْتَعَ مِن (١) مَنْ شَتْحَا حَسِبِ مَعْدَ بِدَاً جِيرِ المراجع	en فراه: الام بناك - ينى مُتعدى كولازم بناك ، كمتونفظ جردي مُتعدى محمده
المُسْنَيْتِ النَّاقَتْ: لبن دودوه ، والى بوكن أوتنى . دا، ساميه اخذكا الكسبونا.	باب إقعال عن الذي اوما آب . بعي تحدد ولي عنها : تعريف كى زيد ف
بعيرة بنويب المتبسِّن، صاحب تجرب دخارش ادس بالمالك بوهيا آدمى ٢٠	عردي - ادرا ستة ذات على مد موازيد - يدفا تدقيل الاستوال ب.
ا مَذِيْ كمس جيزواله جرًا - بيبي أَخْرَتَنْتِ الشَّكَةُ : مؤسِسِمٍ خريف ين بجروال	اس تعريض : يبش محنا- ين فاعل كامنسول كوانداق سي فكر كم كم جايد .
بولَىٰ بَحْرى - ب	جي بتنت الفرَّش ، بحاك بكر يكر يس محر ي الالال مندول كوما فذ
١٠٠) لياف ، . مِن مَن شَك المد ول برا - بعيد الأمر القريع وتوم المات	کے لیے میش کوتا. میں امتلاف ڈیڈڈا: تن کے بے میں کیا می فے زیکو۔
ميدون جرامب وار-	ده، وجدان :- با . مين فامل كا مندول كر اخذ عر ساقد موصوف با . بواكر اخذ
(۱۱) سینوکنته د. مین می شیخ کا افذے وقت می افذے وقت کے قریب	ادم جاومندول افذ الترجينيت فاعل موصوف بركا بجيد أبغل تدنيا:
بسفيا - بسب أخصدك الزيريع : متعاد ولا في كد وتت ي مج كمين إسماد كم وتت	بخل المع من زرك الدائل المذنتدى بوء تومنسول الفت ما تقتيشية منسول
محتربية بلي-	موصوف موكل مي استدارة أريدا، محودها إس غاريدكو.
(۱۲) مُتَكَلَّقُة (المبنى من شخر كامقسار باكينتية من اخترى زبادتى والاسرنار يسب مرد المسارية المراجع ال	(١) متلب :- بعين لينا- من من متحت الفركودوروا - بعرار فس الام بواتو
اَلْمَتِرَالِدَّخُلُ: بِستَنْمُروالْ بِوَكَنَ بَجُورِةِ آَسِعُهِ الصَّبْحُ : بِستَ سُفُرَدَ وَفَقَاقُ لَ	مستلب افذ فاعل سے مولا بي أخسط أفيد : روسه ابن نس سے تسوط
بدر من المراجع	المار بود دركيا، اوراكونس مستدى بو، توست لب اخذ، منبول ب بوكار بين في
١٣١) [بت لل ٢ :- يين كمي فول كاابت دار باب إنعال ٢ ، مرتواه مرتوه مرتوي	فكشية يشر ، أس فتكاية كابس مكاية دوركردى م فاس كى -
منتعل بى ند مود جيسة أن أمكن المسترقع الي سنى من آت الموتجرين	
نه بایامای به میسیه آشفکن (شکم) کرمز دشند مینی مرانی به . ور در به مین به مینی (شکم) کرمز دست	(بَقِيدَ حامث مشير صفحة ما بقراد (١٩) بمرومت كما (١٩- ٢٠) كمينه مكا (١٢) ضيعت بوا (١٢) الما جرايد مديد المشكرية بير مثلا مدينة ما المدينة ما المدينة من من مربع من المربع
(مر) مُتَحَافِقَةٍ تَجَرَّد وَعَمَّلَ وَتَغَمَّلُ وَإِسْتَغْمَلُ -	توادم باس این کو فی جزرانی (م ۲) میران جدا (۲۵) روند (۲۵) از بو مانگ مال تورا در مدینه در در از ایک مدینه در داد ۲۰
(۱) مَتَالٍ مجرد- بيسة رَّبجا اللَّيْلُ و أَدْبَى اللَّيْلُ : تاريك بوكني رات وم يَ عامَة	الدخيب وخرب بوازياً ساجلك من عذاب دشدة دالا بواره بالحقة في مُسددًالا (٢٨)
	پایا (۲۹) اشستی کما (۳۰) از الجیشبَدُّ دیمریسی دفتها) گمان کما، بایب غیب دتیم - اوراز ایک به دینتر مسیر بدین دند.
ميردية ب، ٢١) شالي نَفَتَلَ بِسِيحَكْفَرَةَ وَأَكْفَرَةُ : أَسَ فَكْفُرِكَ طَرِف منسوب كِيا أُسكو يَارِي ما مدرسبة بيه -	ا المحسَّلة المنتح السيري، شريعين المنسب بيوا ((۳) ازتحسبت نرم وناذك بيوا- الدازخرب المحسرية فسترتك شرحه بديان سديد و المسترة عن المحصور المحسبة تلك المسترية المحسبة المحسبة المحسبة المحسبة المحس
ا خافستر مسبقہ ہے۔ دین این جاتا ہے جس در سولیہ دور کی جب یہ طرح میں بیات	دسم دنعرو ترکوش عیش تداده ۱۹۳۷ از چاریک بینی ترییم به دخیل و مرب دسم و ترکیشی بست. در مرب در مربق میش تداده با از چاریک بینی ترییم به دخیل دخرب دسم و ترکیش بست.
عاصر صبر بیچ - (۳) مثال نَغَمَّلَ بصبے غَبَتَيْنَدُ داَخَتِبْنُدُ : خِمِه بنايا مِي سُماً <i>س کو اين مخطقة</i> انتظان م	درد مند توا (۳۳) ازچاراب فکریسی فَسَعَتَ دخیرو (۲۳) منجاریل خکورتین پری پیکر جوا ۲۱ مزعده از سیب امن تیر سیه ۲۰ مست ای سله کمچکی تقویز می جو کموانی بی گا
آتما ذرب - ۱۳٫۱ شال استنقال - میمیه استنظانتهٔ دا اغطنتهٔ : بزرگ کلن کیایی خکر کی ۱۳۸ میر این معرف است	بوا ۲ مذعم ارطیب لغ بور ب ۲ متنان شد بی بی موتر می بود می بود می بود می بود می بود. ب- بی افلت البیم بنی بخت البیم مناب من ما با م نه بی بود ۲ منه الد الد البیم است از می الم
[1] مال مال المستعمل - بعضي المستنظلة منه والعصلة منه بزرك النالياس عام)»	ب ب بی اطلت البیم می وجد جنیع مر می این مح می و ماند مند اور از موجد مادی مشر دونور مائ . تو مجر اب افغال سے میں مادی سے متعمل اسلام . مجمع محود و داخر منت دو
المسيح فالصنة بمسيعان سيبه -	دولول است ، وچرو بب احمال است جن لاری سط مسعیک است و بینی حول و احتر است از است. استی شندی سے تسری درمُنوری بوج است کا ۲۰ منه
، ١٥٦، مُطَلوَعَةٍ فَتَلَ أَجرد، وفَعَلَ ارْجد بين فَعَلَ وفَقَلَ مراد	

.

ŧ

r

حايضيتة تَغَمُّل: - إس باب حكيًّا وما صحين :-()، مُتطادَعة تَغْمِيل : - اس كا دوسي من الول يكر فاحل كالترسول م مُدار بوسيك - ممي تطلقت فتقطع: بار باردكياس فاس كرابس ده الداياره بوكما - دوم يركد فاعل كالرمندول س مجدا بوسك - يسب مَكْنَهُ مُتَعَدَّمُهُ ملرمسكعلاما مير فيحأس كوبسيس أسمن فطم سكحاليا ربيات فاطل كالتردهم بغسول سے مجل بولا تکن سے۔ (٧) تَعْطَلُفٌ :- يعنى افذ كمانساب بالذك محصوا من تعب الملااة يرورا بين الدفار مرام مسي تكوّن ، أس ف ابن أب أبر الماري ، تربك ف كولى فالركي . تحلقه تبزكلف برداريا . (٣) بَتَحْدَثُ :- يَنْ مَا مَدْسَبَ مِيزَرُوْا - جِمِي تَحْتَبْ دَمْدٍ : مُوسِ أَكْناه ، س برجزكيازيد ف. ٢٣١ لبس ماخف، - ين امذكوب ا - مسي حدة فالم دانكوش ابن زيبقد (C) تعبيل :- ميني المذكركام من الاا-إس كى من سير من :-۱) ماغذافامل سے نبوا محکوس نہ جو - جیسے تک تحت : دُمن (تیل) کو کام س لایا -(٢) ماندینا من سے مواجعیس ہو۔ میں تکریش: ترس (دھال) کو کام میں لایا۔ (٢) افذافاص م ملام ترتون وركين مقارك مور جيب تخليم ، خيركوكام س الإ. (۲) [تخاف: - اس ک باتسین میں :-داد ما فذكوينانا بجيب تتعيين ، دليا و الجمد ، كمانا من ف () ما مدر كيد الم معي تعتر فليك : جرز رياد) بحرى زيا . اس کسی بحرکو العذبانا - بصب توت که المحتجر : اس فے دست دہ الجد بنا بعرکو -دم، كمي بتذكوه مذمن يكثرنا - مِسِبِ تَأْتَطُ المَعْبِينَ : أَس ف إيشُو دَنبل، مِن يَكُو ا ۲) تاليج: - ينىكى كم كوسور تعور الحك كرنا ، محرس كى دوسور سي -اكمت بدكاكم اركرابمى عمن بويصي تختر كالديث بحموث كمونث كركميا زمینے ۔ ودستشیر رکراکب ادکرا مکن نہیو۔ جسے تحقیق القرآت : اس نے تمسورا تتعور اكرك بادكيا قرآن كويه (^) تَتَحَوُّل: - بِينَ مِن يعزُك مِين اخذ ما خذ كام ترما تاريسي تَنْقَبَّرَ ذَيِنْ ا نصرفى بوكيازيدا نتبتة وتنسينا : بحراصيا، كامرح بوكياز م-(٩) حَسَدْ يُرْدُيرُ : - مِنْ ماحب المذيرا - مِسِ تَسَوَّلْ نُنْدِيدً : ماحب ال بوكيازر -(١٠) مُوافَقةٍ مُجرَّدِه أَنْعَلَ وَفَعَّلَ وَإِسْتَفْعَلَ - بِعِيمَ تَعْبَلُ مِنْ آَيِلَ لمه تكاس مرادا لأكلف بمدَّم بالغر دركمل باشدوا تأست قول صاحكت ف تحت تؤلد تعالى والمقت مَا يَهُا وَ تَتَلَتُ المالِقَة ما في جونها من المولَّ والكنُّ وتَعَلَّ عَايدَ لِمُلوَّحَق مُ بِينَ شق في بطنها لانها يحضت فيجعدها في الملوِّ- توادرالوصول من ٢٠ مطبود محتبة آل ٢-

اس نوض کو پتانے سے انواز کر منعول نے فاص سے انڈ کو قبول کولیا سہے ۔ جیسے كببنت فأسقب أونر مأكرا مسفائ وبسو وآدر ماكراب وتشوت فالكرون دى يى ف أس كو بسيس دە تحوش بوكيا -فأبده ارتطاقة تحصر منع متعدى كالبك متبديات ماسف كم بعداس ماده سے دومری مرتبکسی اور باب سے الذم بوکوآنا، تاکہ یہ بتائے کمس اقل کے فاعل ف مفعول برجوائر دالاب ، مفعول ف أس اتركوتبول كوليا ست - لجل لذل كوملاق اد فيل تانى كومُطا وم تحصر جرار مسي كسون مُدَ فانكسر -خاصِيتَة تَغْعِيْلُ : - اس إب ي تَزْلُوه فاقصاص -(1) تَعْلِي بَيْهُ :- بصير قَبِرة رَيْنُ : نوش بوازير : فَتَحْتُهُ : نوش كياس في الله r) تَصْبِيبُنِ. بصب وَمَتَوْتُ الْعَوْمَ وَتَرْدِهِ الْعَوْمَ وَلَابَا إِي مَنْ كَمَانَ كُو. (٣) حَتَنَكُمُ وَمِنْةَ - بصحد نُعْدَ الشَّيْرِهِ : فور انْتَكْمَهُ والابوكراد يغت . (م) ست لب :- بعيدة مَنَّ بتُ عَنْدَهُ : قَوْى أكول مُعدكما م ف أس كَا أعمد .. (۵) بُكُوخ، - بِينما اخذين، بصب تَحَبَّذ نُسْنُ : خَمِي مِداخل مُوازيد بالمِنبا الفذ تربب أجيع تعتَنَ عَنْهُو بَكُن بمن يح ليا تمزو . (٧) مُبَالَغَار :- يدفاطر بستغيل كاز باده أتاسي ، بعرم الغدكي من صور من ج :- (۱) مُبالغد بغر مل من اوري مل ب - جب حتريج : موب طلبر مجواء خوب خلا تركيل. دو مُبالغد فاعل من - بعصيد متوت الإيك : بست مرت اونت . (٣) بُمالَغه، منسول من - معيد تعلَّقت التَّيكات: بست كافي في في كمرت، (۲) نسبة برَّما حال: بي فَسْقُتْهُ: نِسْ كَمَ مَرْفَ مُسْوَبِ كَمَا مِنْ (٨) السامين ماخل: - ينى سى كواخذ بينانا - بيب تحلَّتُ الفَرَسَ بَنْ بَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُدَسَ بَنْ تَنْ المُدَمَن مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عالى الل الله الله عالى اللهُ مُعْلَى اللهُ عالى اللهُ مُعْلَى اللهُ عالى اللهُ مُعْلَى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى الله المُعْلُمُ عالَمُ عالَى اللهُ عالى اللهُ مُعْلَى اللهُ عالى اللهُ مُعْلُ اللهُ اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ مُعْلَى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلُ على اللهُ مُعْلَى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ عالى اللهُ مُعْلُ عالى اللهُ مُعْلُمُ عالَ مُعْلُ عالْ مُعْلُمُ مُولُ یں نے گھوٹیے کو ۔ دو، تَغْلِيْطِ ماخل: - مِينَ سَيْ كَوَا مُنْتَ مُكْتُمُ كُرًّا - عِبِيهِ ذُمَّ بْتُ الشَّيْفَ: شویے سے تملیم کمامیں نے الوارکو۔ د) غوسل : - يس كسى چزكويس ، خذ با شل ، خد بنا، - جي تقريم ، خصرانى بناياس تماسكو. يحيقت نؤيًّا : خيمه كامَن بنا إين فكرَّ ساكر. (١١) فَتَضِير: - مِين اختصاركى غرض - مُرَتَّب - أيك تفظ كار سَتْسَعَاق كُزّ معيد عَلَّلَ الأرالَة إلاالله يرما-(١٢) مُوَافَقَةٍ عُجَرَةٍ وأَفْسَلُ وتَنَعَلُ . بِعِيه تَبَرْتُهُ وتَتَهَرْتُهُ، تَردى مِنْ أس كو آطلت ومتقليت : تسلست دى يس ف مس كو، تنتزيت وتترشت : يتزس المحصال؛ كوكام م الإام . (۱۳) إيت لكنو :- إس سم دومني مير اول بد كر مجرد ستعل مي نه جو - مصبح لقبَّنْهُ: التب مقرر کیا می نے اس کار دوم ، یک مجروس ادرمنی ہول ، اور با تفسیل میں اور جیسے تحک زنمی کیا - اور تحکو کام کیا .

تَبْتَرْسِينُ أَبْعَتَر. فَكُنَّ بَسْ كُنَّ بَ . تَتَوَجَ بِسُ إِسْتَحْيَجَ (ما يَرْطب) »، مُطاوَعَة فَاعَلَ ، بحكر أَنْعَلَ سَى مِن مِ ربعيه بَاعَلْ شَرْ فَتَبَاعَدَ : (١١) المت كمار :- اس كى دو موتى جر - اول ير مرجود تعلى بى نديم - بعيه دوركياي فأم كوديس ود ودر بوكيا - بسال باعل فرعين آبعد في ب تشقيت دهوب من كفرابهوا- ودم يكدمجود من اومعنى بول ادر باستنظل من الماموا فعد تجرّد وأفعل: - بع تعالى من علا: بنديوا - تيامن من اين: اور- بسب تحسك لترويد الام كما زيد ف الدمرد حصلتر بسى بترق (فى كما) -يمن مي داخل يوا -فاقِيتَة مُفَاعَلَه :- إس بسب م فَكَر فاقع م :-۱۰۰ ایستسلام : ۵۰ مام ب کرمود زمایی در میستند استی بنداختل ام در کمارین ۱۰۰ ایستسلام : ۵۰ مام ب کرمود زمایی در میستند استی بنداختل ام در کمارین ۱۰۰ ایستسلام : ۵۰ مام ب کرمود زمایی در میستند استی بنداختل ام در کمارین ۱۰۰ ایستسلام : ۵۰ مام ب کرمود زمایی در میستند استی از مان ایستی از میلی استی از میلی استی از میلی استی از میلی ا عماماً مود بعيمة بتلاكة دابركت وا، مود بترك بعنى ادمت بنية مستعل ب (۱) مُتْ أَذَكَة : بِنِي دوْتُنْسُول كاس طرح بْل كُوَّام كُوَّا وكربرانك كافعل ومرَّ يرداق ہو، بنى إن دونوں مي سے ہر كيك فاعل مى ہو، اصبرا كيك مغمول مى -فالكرد :- بولنظ باب تمغاظ مستعنى برد ومفعول بوكا، ووباب تغامل مي متعدى بك منول بوماسطا - بسب بكاذَبُتُ يَوْيُدُكَ أَوْبَهُ بحينيا بَسُ غَارَدُ ع ليمن جارة مراكي كوفاحل خابركيا بالتركاء اورد وسيستركومنسول - جير تأتل كمرشد كود بخاذب الأبابيم فسالك ووست كاكر كميني الملاو بأب تغاظري وَيْدَ عَنْهُما: بابم بقال كياز يدوكروف . متعدى بيك مفعول بوكاد ود باب تفاعل مي لاذم بوجا في الم عبي ماتل ف في ٢) مُوافَقَةٍ جرد دافغك وفَعَلَ وتَقَاعَلَ م يعيد سافر بعني سَعَرً بعنري أس في رباعد في مسل العدن في ووركي من اسكو. فداعت بع اورتَقَاتَلْتُ أَنَّاو زَيْلٌ -خاصَّتَة إنْبَعَال - إس إب يم يَقْمَا تَصِين -خَتَفَت: دوجد كماس في مشاتو زيان عمرة المبنى تَشَاتو زيد في حَدْمًا (۱) آتخاذ:-اس که دی مارس می بواب تش می تور کم می - ال مع آبس يكال كون كى زيرد كمروسف. إنتجز تجروبنايا ستر إبتتنت جانب بكرمى سكتر إغتدت كالفضية فلابنايا بجركك ··· تصيير - مع عَاذَاكَ الله : اسْرَوال تج عافية والاكر عد . مت إغتضت عَشَد (بازد) من ايا rr، ایت دار ۱۰ مام ب کرم در آیامو بیب تاختر ایک زمین ک مددیم^ی ٢٢، تَقَتِّحِبْ سِينِ ما فَذِنْسَلِ كُومَ لَ كُرْخَ مِنْ كُوسَتْسَ كُوْهُ سِعِيهِ لِكُنْسَبَ أَسْ خُ زمین سصل کی - یا مجرد کس الاسی می کابور جمیع کلسا آن کی : برش ترة کلیف كسب بير)وسنش كى . ٢٦ تحفير المين الاراب في المذخل كرما صل كرا - معيم إيحتال القويرة برداست ک زیدے - بحرد تشتی منی من ستس ب -حاجتية تفاعل: - إس إب يح يت منت ب. أس في المي بي يؤكَّن كي مين الم المي المع دا، آستن الرك :- مينى دوشنسول كاس طرح ال كوكام كواكر برايك كفل وريد يوير ··· مُطَافِعَةٍ نَعْلَ - بص عَسَنْهُ مَاعُدَة -وافع بو ، مینی ان دونول می سے مراکب فاعل می جد ، اور برایک منعول مج لیکن ٥، مُوَافَقَة مُجْزَد أَفْعَلَ وَتَعْتَلَ وَتَعْتَلَ وَتَعْاعَلُ وَاسْتَغْعَلْ - بسي إِنْتَدَدَبِسُ مجارة من دونول كوفاعل خابركما ما سفكا - مصيد تشدّ التوزيية وتعامر فريله قَدَدَ مَادرتُهوا - المُعْتَبَجَزَ بَعِنْ ٱلْجَوَزَ بِجَازَيْ والسَّ بوا- إنْتِدَا ى مِسْيَ تَوَدَّى جادً (۱) ست کمتر: سینی مشرکته فتط شددید معل میں ، نه د تونا نسل میں - جیچة کاذمکا اورجى-إختصم ذيبة وعشروسى بخاصم تنيبة وعنهم والمتجريط إستبتر تَسْيَبُهُ أن دوفال فسأتما بالك جزكو - بدخا مترقيل الاستنعال ب-۱۴۰ تحقیق استی می کواچ احد وا خذکا حصول دکمانا جو تعیقة ند اس موج^و أجرة طلب كي . (٧) است دار : - عام ب كرمجود آيا بو - مي إنتامت الشاة : مارهل بكيا ہواددنری اُس کومطلوب ہو۔ جسے تمکارکض ڈیڈڈ: زیدنے اپنے آپ کویماً بكرى ف الجركسى ادمسى بن أيا مو- جيب إنستَلَق، بتعركو بومسدديا، بجرد سيل فلامركيا فامده : - يملّف اورتم يمل مرفرت برسي كشكّف مين فاعل كوا فنيفسس بمنى مستسادمة جوابه **حاصِبَتِد إسْتِفْعَال** : - إس إب يح كنش ماتصري : -مرغوب ہوتا ہے۔ جیسے تکتلقر، تَشْجَعَ اوْتَجْعِيل مِن فامل کوا خذ فعل تحققت (١) طَلْعَبْ إ. ينى المذكوطاب كرا، خوا وحقيقة مور بسيه إنت تطمَّن علم مطلوب ومقصودتين بتوتار بكرصن دومر يحودكه المستسي فياعل ماخذ عل ابتيا فيسلبقه كمسبانب ولحر إشدندوا فراو كمسبانب نماجعم شلا مشتروميان فالمواسترومال كوكامين لاماب بي يماتر جن -آخن بسي متلكندا فلاعشرًا ول الالاخترة أني تتعود است الانتركة المؤادل باتم وتجميت مدد الله دفرق درمشاركة وتستارك بين ممشدكة تمناط وتغاط المست كممشا ركيمي درمغاط يج فنغا مست موم الح منصوفيكرد ومفاطير الدك بود درتفاعل فاعل كردو مومارب ديدعروا وتقلعب وير فاعل دو، دوم منسول ، ودرتفاعل بردوقاعل ، دوم بحدد مقاط بُمت ايك زائداز وفي ور فكركئ بخلام يستسل تحيرشا كركتي كمجلى يرمنسولتية خودباتى المنخوكيان ما توباً، وورمغاط كونيدجا فيترً الجرير بركيب بالمدتها متعدد استد بخلامتية تغاصل كرجانب متعدده درال ككن ومردنتك فاص التوب بهادم بحوتنا من بدر تركز ووسترتيل بثرن تجن آل بريجست نيزبود بخلاف تناطر، قاير سخ كمتراد يوديجود دسنى مركب فاعل ومنسول بوذكو مشدقة رمال تغالبوا يسى دومهدا بم قمال كودند ودر بالمحمسنف (صامب فسول كرك) كويدة تركز ديسد دخط فرقتن بركم مست توزا فنانيت بسي مغاط گرم کن است کربردد ، با یک جامش ده مدد است ویکن مث دکت (بال موکز ندم

١٠) مُوَافَقَةٍ فَعِلَ وأَفْتَلٌ - بصح إنْبَلَجَ بِسَ بَلِحَ مُنْ المَعَ مُوَافَقَةٍ فَعِلَ وأَفْتَلٌ - بصح إنْبَلَجَ بِسَنَ بَلِحَ مُنْ المَعَةُ وما يرود والماجمون المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافقة المن المنافة المنافقة المناف المنافقة المنفقة المنافقة المنفقة المنافية المنافة المنافية المنافية طلب كمايس في أس مد ، باتقدير اي وجيب إسْتَخْرَعْتُ الْوَتَكَ الْحُوْع بيفآجو مازير بنجار طلب کیا ہی نے کمیں کا، اس میں کمیں کو بلا بلا کی پینے ما مذاخرے اکی طلب تغدیر کک دا، ليافة : - ينكمى في كافر الذك الن جوا - جعيد إن تربع التوب، برتعد الجديد اه، إست الربية عام بكرمجود أياس، جيسي المحتقق بحرد سوان بي طالم، امجردكس اعدمنى من أبابو- بعيب إنطلق جلاً ما - مجرد طلاقة سن كشاده ثروق کان پراکرا۔ (٣) وجدان :- بنى كى فت كو ما تذكر ما تدموموف بالا - جي المنتكرة منه : شل ہے۔ فأبكره بحيس فسلكا فأبحد فردب يزتلون بس سصبوء تودفهن باسب فسالي كالات ماتد موصوف إايس فاس كو-(م) يرت بدان بد ميني مي شفكواند عرمات موصوف مراك الديخا - بعير. نہیں آئے کا۔ انجرا بیے مسل سے باب اِمتعال کے مسیٰ متصود ہوں ، تواس کو إست فستذمر المعن والالحان كياي فأسكو-إبدانتال - واقع مر مع مرتفع كام تفع ، تَعَلَى كانتكل يكن المنطى امت كما العدافت لأدبو ابدا بعدا المشادي -(۵) تحکول :- بینی کسی شخال مین اخذ باشل ماخذ سے جونا، بیتر تحوق باسی مو جعيد إنت بحق العقب عن بتم وتوكيكادا ، إمش بتمريح بوكيكادا - باتول معنى فافِيتَتْ الْمُعْنِعَالَ المرابَ المَسْتَحَالَ المُعْنِعَين -«الروم بيران المبلك فاقترة الب من الد تغسير يقيل ب بي مركا . بعيد إنت توى المشلام ، المرجرية ومت مين من من من من من من من من مثل اقد سے برگیا ۔ إخلولنت شرر كمان كياس غداس كر-د، إتخافر: - بين مافذكويكونا - بيب إنستنوطن المبشدة : أس في الموديك د مُبْكَلْعْر : - بقيم إعْشَوْسَبَتْتِ الْتَرْمَنْ بست كما رُبْل بولى زمين . ٢) فكنيرورة : - بيب مثال ذكور -() قصر: المين اختصار السط مرتب الم الك كامشتن كا اجب إلمنتاج en مُطاوَعَة فَعَلَ . - مِيه تَدَيْتُ مَاتُنُوَنْ عَن عَاس كَبِيتَاس مِدْ بَعْدَ أسم إنككيتمية إناالي يزاجعون يرما-٥) مُوافقة إشْتَغْمَلَ ، بصي إخلَوْلَيْتُ بمن إسْتَحْلَيْتُ أريا مسر (٨) مُطَاوَعَة أَفْعَلْ: - يَعْي اعْمَنْ الْسَنَقَامَ: قَامَ كَاي فَ الْمُوالِقَ تاق يتمتر إنع لال د إنفين لال : - إن دون باب عمياً من عمير ما ت ب. دوقاتم يوكما به (٥) مُوَالْعَمْرَ بُحَرَد وَالْمَعَلَ وَلَعْمَلَ وَتَعَمَّلَ وَإِنْتَعَلَ - بِعِيدِ إِسْتَعَمَّ مِنْ (۱) كُرُوم (۱) مجالغه (۲) لون (۲) حيب - بعيد إحترة داخارة بست شرخ بواراور إنتخلة داخوات بست بجينكا بوار يَّجَيَّ قرار دالا جرَّبٍ لِنسْتَحْتَةٍ بِسَنْ تَرَبَّتُ مِنْ مِن أَدَارَهُمَا تَى مِاسْتَذْ بَرَيْتِ فَتَكْبَر خاصميتم إفعوال ، إس إب كا خاصب مناء معتقد المترج فابا براكك واستنعتم وبنى إغتصبت يكل الماء يست جركى بنار للأى محدد سينها كماش منقول زيود بكراز ستسرداس باب ··· إ بست ارد مام ب رجروندًا بر- مع إستابتو عل اليسادة فم مك بد وَمَنَّ كُمَّى بور نيزالمان اور حرب والمعني مسامي مالى بورجيب إجلَيَّةً المحدير، إجركم اورسنى من أيابو- يصب إستلعات أس ف مارد دميت زيزان، محموذا نوب دور - محرداس مصتعل نيين . موند ، جرد تخل المبن مدن شل سب . فالده :- التعاب ادرابت ارى وو مع مع فرق م المال كالقط حابِصِيتَة إنْغِتَال: إس إب كَ يَتْمُ مَاقِصِي . یں ٹلا آل مجردکا نہ آنا ضرفت سب اور ابتدار میں جموم سب ، مینی مام ہے کہ اس کا (١) كَرْ وم: بعيد عَرْبٌ بعن بيرا او إنْعَرْتُ بس بمراء مجزداً ابودا زايه آبو- ذوم يركرا قتضاب بم حوب الحاق اويعرب لازمنيد (۲) حِلاج: - بین انغال ایسفیل متعدی می مطاور کم است کرم کا تعلّق المنى ب مال بوالشطب، ليكن ابتدار م مشروسين -كابرى أعضا بود اورواي فابرو معادم بوت . . بعي تشريه فالكتر. فاصيتم فعلله:-إى باب يب نفق مروس معدين:-ای کی تحقیق مُنْهُ مُالْغُمَّ مَنْ كمنا درستَ نبس ، كيوكر معرفة بغمل جوار مع نبيس بلكه (1) قصر:- جيد بتشك بسم المراكم الرحسم برما-نس تلب ہے۔ (v) إلبكسين باخذ، بعير بَرْقَعْمَهُ، بُرْقَ بِنا إِين ف اس كو. فأبكره ١٠ بددونون ماتصامين كردم وطلايج ابب إنغسال ك لارمى فلقمين ن مُعلاؤ مُترْجُود. بعد عَبْدَيْنَ اللَّهُ لَ يُعْمَرُ إِنَّ عَلَيْ مَنْ يَعْضِيهُ كَمِدْ دوسي ابواب يران فاقول كاستعال جزابوكا ف اس کی بعدر در بسیس دو د دستد د بوکی . یہ باب اکثر میں اور مشاحف سے ا ٢) مُطْ وَعَرْبُعُرُد وَ أَفْعَلَ : - بِعَي كَتَرُنْ مُ فَائْكَتَر ا أَخْلَعْتُ الْبَابَ سبه الدموز دمش سائم - 🗸 فَانْغَلْقَ - يَكِن مُعَادَمة محد، بسبب مُعادَمة أَفْق محاشر الاستعال ب .

r•6

إِنِّصِيَبَةٍ تَغَفُّلُهُ - إِسْ بِابِ بِمَهِ ذَدْ مَا قِصْصٍ ، ـ فالصَّيْرَ إفْوِلَال :- يداسبلى لام درمُطلب تغلَّل ٢٠ احد جيه مَانَتْهُ (1) مُطاقَرعة فَعْلَلَ ، - عجب دَخْرَخْنَهُ فَتَنَاخَتِ ثَرْطايا مِ غاس مراس م فَالْمُسَتَّقَ ؛ الجينان دلايا يم ف أس كردميس دمطنن جوكيا - ادريمي معتصب بجي ٢٢ ي . بي إَلْفَهُوَ الْنَجْعُا دِرْنُ بُوْلِامستار : (1) إقيضاب :- بعي تهبوي اردنو مع بلا-فأكره :- ايواسِطُعّات - منانى، الديواص ين كُمَّق بتاك بيت مي المحرك فاقتيتر المينلال:- إس إسب دَدْ مَاقْصِين :-مكممات مين فلديب تبالغه بروائ به أَتْرُومُ (٢) مُعْلَوْحَةٍ نَسْلًا - (دينيالبالنة) بعيه تُعْجَرْتُ كَالْعَتْجَرْ مون گرایا میں نے اُس کا ، کیس وہ توب تون دیختہ بوگیا ۔ ابم مصادر برائے تصریفان صغیر وکب خطر رتیج () الأخِلُ () السَّؤَالُ () الْقِرَاءَةُ () الْوَعُلُ اليُنم () القول () التحوف () التينية اَلدَّعَامُ السَّرَضَوَانُ () التَّرَجْمُ المَنْسَدَةِ @اَلُوِقَايَةُ @ اَلْوَبْحُ @ اَلْتَى @اَلْتَى ۞ٱلْفِرَارُ۞ٱلْبَسَّ @ٱلْمَضْمَضَةُ @ٱلتَّسَلُسُلُ آلانتيان @ التوتية @ الإسراء : ٣ ٱلْهَجِيْحُ ٢ ٱلْمَشِيْتَةُ تبترني بأكجسك مسداد المافظ محركوب الذيكو في تم المسانى في فرَّة عرم الحوام متعصل م